

جع دامت نذرہ بذریعہ میں

کتب فقہ، اصول فقہ اور اردو فتاویٰ کا تعارف



عہد نبوت سے لیکر فقہ حنفی کی تدوین تک تاریخی پس منظر، فقہاء اور بعد کے متون، ان پر لکھی گئی شروح، حواشی، تعلیقات، اختصارات، منظومات اور فقه حنفی پر لکھی گئی 122 کتب کا تعارف، مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتب کا تذکرہ، اصول فقہ پر لکھی گئی 63 کتب، بر صغیر پاک و ہند میں لکھے گئے 47 اردو فتاویٰ کا تعارف اور ضمناً 200 سے زائد کتب فقد کے تذکرے پر مشتمل فقہی ذوق رکھنے والوں کیلئے ایک انسول تحریر

تالیف

مولانا محمد نعمان صاحب

افتاذ مدینہ جامعہ انوار العلوم مہران ناؤن کوئٹہ کراچی

مکتبہ المتنی

فہرست مضمایں

صفحہ نمبر

مضایں

۲۳..... عرض مؤلف

فتاویٰ کا تاریخی پس منظر

۲۵..... فتویٰ کی لغوی تعریف

۲۶..... فتویٰ کی اصطلاحی تعریف

۲۷..... فتویٰ عہدِ نبوت میں

۲۹..... افتاء میں صحابہ کرام کا طریقہ کار

۳۰..... عہدِ صحابہ میں فتویٰ

۳۵..... فتویٰ دورِ تابعین میں

۳۷..... امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ

۳۷..... ابو حنیفہ کنیت کی وجہ

۳۸..... امام اعظم کے متعلق نبوی پیشین گوئی

۳۳..... علم شریعت کے مدّن اول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ

۳۴..... مجلس فقہ میں شریک اکابر علماء اور ان کے سنین وفات

۳۶..... استنباط مسائل میں امام اعظم رحمہ اللہ کا طریقہ کار

فقہ حنفی کے مصادر

۳۸..... (۱) مسائل الأصول

۳۸..... (۲) مسائل النوادر

۳۹..... (۳) الفتاویٰ والواقعات

کتب حنفیہ کا تعارف

متوں حنفیہ.....	۳۹
۱ کتاب الخراج (امام ابو یوسف رحمہ اللہ / م: ۱۸۲ھ)	۵۱
۲ الرد علی سیر الأوزاعی (امام ابو یوسف رحمہ اللہ / م: ۱۸۲ھ)	۵۳
۳ اختلاف أبی حنیفة وابن أبی لیلی (امام ابو یوسف رحمہ اللہ / م: ۱۸۲ھ)	۵۳
۴ کتاب الآثار لأبی یوسف (امام ابو یوسف رحمہ اللہ / م: ۱۸۲ھ)	۵۵
”کتاب الآثار“ میں امام ابو حنفیہ سے مردی ثانی روایات کی اسناد.....	۵۶
امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ سے مردی ثانی روایات کی تعداد.....	۵۷
امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ سے مردی ثالثی اور رباعی روایات کی تعداد.....	۵۸
امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ کی روایات کے اہم مصادر.....	۵۹
۵ المخارج والحیل (امام ابو یوسف رحمہ اللہ / م: ۱۸۲ھ)	۶۰
۶ المبسوط (امام محمد بن حسن شیعیانی رحمہ اللہ / م: ۱۸۹ھ)	۶۱
”المبسوط“ کی چار شروحتات.....	۶۸
”المبسوط“ کے نام سے لکھی گئی دس کتابیں.....	۶۹
۷ الجامع الصغیر (امام محمد بن حسن شیعیانی رحمہ اللہ / م: ۱۸۹ھ)	۷۰
”الجامع الصغیر“ کا سببِ تالیف.....	۷۱
”الجامع الصغیر“ کے متعلق اہل علم کی آراء.....	۷۲
”الجامع الصغیر“ کے مسائل کی نوعیت.....	۷۳
”الجامع الصغیر“ کے مؤلف اور مرتب.....	۷۴
”الجامع الصغیر“ کا اسلوب تحریر.....	۷۶
”الجامع الصغیر“ کی متنوع خدمات.....	۷۸

”الجامع الصغير“ کے تیرہ معروف شارحین کے اسماء.....	۷۹
متقدیں کے ہاں شرح لکھنے کی نوعیت کیا تھی.....	۸۰
”الجامع الصغير“ کی مطبوعہ شروحتات.....	۸۱
”الجامع الصغير“ پر لکھی گئی منظومات.....	۸۱
۸.....الجامع الكبير (امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ / م: ۱۸۹ھ)	۸۲
”الجامع الكبير“ کے متعلق اہل علم کی آراء.....	۸۳
”الجامع الكبير“ کا طرزِ تالیف.....	۸۶
”الجامع الكبير“ کے مسائل و تفریعات کے فہم پر مبنی لکھی گئی کتبِ قواعد.....	۸۷
”الجامع الكبير“ کے ناقلات.....	۸۸
”الجامع الكبير“ کی شروحتات.....	۸۸
”الجامع الكبير“ کے مسائل پر مشتمل منظومات.....	۸۹
۹.....الزيادات وزیادات الزيادات (امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ / م: ۱۸۹ھ)	۸۹
”الزيادات“ اور ”زيادات الزيادات“ کی شروحتات.....	۹۲
۱۰.....السیر الصغير (امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ / م: ۱۸۹ھ)	۹۵
۱۱.....السیر الكبير (امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ / م: ۱۸۹ھ)	۹۶
”السیر الكبير“ کے سببِ تالیف میں نقل کردہ واقعہ کی تحقیق.....	۹۹
۱۲.....الموطأ للإمام محمد (امام محمد رحمہ اللہ / م: ۱۸۹ھ)	۱۰۳
موطا امام محمد میں احادیث کی تعداد.....	۱۰۴
موطا امام محمد کی موطا مالک پر وجودہ ترجیح.....	۱۰۴
موطا امام محمد کا طرزِ تالیف.....	۱۰۵
”موطا امام محمد“ کی شروحتات.....	۱۰۸
۱۳.....كتاب الآثار للإمام محمد.....	۱۱۱

”کتاب الآثار“ کے رجال پر لکھی گئی کتابیں.....	۱۱۳
”کتاب الآثار“ کی شروحات.....	۱۱۵
۱۳ الحجۃ علیٰ أهل المدینۃ (امام محمد بن حسن شیعیانی رحمہ اللہ / م: ۱۸۹ھ)	
امام محمد سے مردی کتب نوادر.....	۱۲۱
۱۵ ادب القاضی (امام ابو بکر احمد بن عمر والخصف رحمہ اللہ / م: ۲۶۱ھ)	
”ادب القاضی“ کی شروحات.....	۱۲۳
۱۶ مختصر الطحاوی (امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ / م: ۳۲۱ھ)	
”مختصر الطحاوی“ کی شروحات.....	۱۲۵
۱۷ الکافی فی فروع الحنفیۃ (امام حاکم شہید رحمہ اللہ / م: ۳۳۳ھ)	
کیا ”الکافی“ مکمل کتب ظاہر الروایہ کا اختصار ہے؟.....	۱۲۹
”الکافی“ میں چھیا سٹھ ابواب سے متعلق مسائل ہیں.....	۱۳۱
۱۸ المتنقی فی فروع الحنفیۃ (امام حاکم شہید رحمہ اللہ / م: ۳۳۳ھ)	
۱۹ شرح مختصر الطحاوی (امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ / م: ۳۷۰ھ)	
”شرح مختصر الطحاوی“ میں موجود اصول و ضوابط.....	۱۳۳
۲۰ کشف الغوامض (امام ابو جعفر البندوانی رحمہ اللہ / م: ۳۶۲ھ)	
۲۱ عيون المسائل (امام ابواللیث سرقندی رحمہ اللہ / م: ۳۷۳ھ)	
۲۲ کتاب النوازل (امام ابواللیث سرقندی رحمہ اللہ / م: ۳۷۳ھ)	
۲۳ خزانۃ الفقہ (امام ابواللیث سرقندی رحمہ اللہ / م: ۳۷۳ھ)	
۲۴ مختصر القدوری (امام قدوری رحمہ اللہ / م: ۳۲۸ھ)	
”مختصر القدوری“ کی پچیس شروحات.....	۱۳۲
”مختصر القدوری“ پر مختلف النوع خدمات.....	۱۳۷
۲۵ التجرید (امام قدوری رحمہ اللہ / م: ۳۲۸ھ)	

- ۲۶ الواقعات للناطفى (امام احمد بن محمد الناطفى رحمه اللہ / م: ۵۳۶) ۱۳۹
- ۲۷ النتف فى الفتاوى (امام علی بن حسین سعیدی رحمه اللہ / م: ۵۳۶) ۱۳۹
- ۲۸ المبسوط (شمس الائمه خرسی رحمه اللہ / م: ۵۸۳) ۱۵۰
- ۲۹ الواقعات الحسامی (امام صدر الشہید رحمه اللہ / م: ۵۳۶) ۱۵۵
- ۳۰ منظومة النسفی فی الخلاف (امام عمر بن محمد نسفی رحمه اللہ / م: ۵۳۷) ۱۵۶
”منظومة النسفی“ کی شروحات ۱۵۶
- ۳۱ تحفة الفقهاء (علامہ علاء الدین سمرقندی رحمه اللہ / م: ۵۳۰) ۱۵۷
- ۳۲ الفتاوی الولوالجیة (امام ابوالفتح ظہیر الدین ولوالجی رحمه اللہ / م: ۵۳۰) ۱۵۸
- ۳۳ خلاصة الفتاوی (علامہ طاہر بن احمد بخاری رحمه اللہ / م: ۵۳۲) ۱۵۸
- ۳۴ مجموع النوازل والحوادث والواقعات (امام احمد بن موسی لکھنی رحمه اللہ / م: فی حدود ۵۵۰) ۱۵۹
- ۳۵ جامع الفتاوی للناصری (امام ناصر الدین سمرقندی رحمه اللہ / م: ۵۵۶) ۱۶۰
- ۳۶ الفتاوی السراجیة (علی بن عثمان اویسی / م: بعد ۵۲۹) ۱۶۱
- ۳۷ المحيط الرضوی (محمد بن محمد بن محمد رضی الدین / م: ۱۷۵) ۱۶۵
- ۳۸ بدائع الصنائع (علامہ ابو بکر کاسانی رحمه اللہ / م: ۵۷۸) ۱۶۸
- ۳۹ فتاوی قاضی خان (علامہ قاضی خان رحمه اللہ / م: ۵۹۲) ۱۶۹
- ۴۰ بدایۃ المبتدی (علامہ برہان الدین مرغینیانی رحمه اللہ / م: ۵۹۳) ۱۷۰
- ۴۱ الہدایۃ (علامہ برہان الدین مرغینیانی رحمه اللہ / م: ۵۹۳) ۱۷۲
”الہدایۃ“ کی سولہ شروحات ۱۷۵
- ۴۲ ”الہدایۃ“ کی احادیث و آثار کی تخریج پر کھنگئی کتابیں ۱۷۹
- ۴۳ ”الہدایۃ“ پر اہل علم کی متعدد خدمات ۱۸۱
- ۴۴ ”الہدایۃ“ پر کھنگئی تعلیقات ۱۸۱

- ٣٢ التجنیس والمزید (علامہ برہان الدین مرغینی رحمہ اللہ / م: ۵۹۳ھ) ۱۸۲
- ٣٣ الحاوی القدسی (قاضی احمد بن محمد غزنوی رحمہ اللہ / م: ۵۹۳ھ) ۱۸۳
- ٣٤ خلاصۃ الدلائل فی تنقیح المسائل (امام حسام الدین علی بن احمد رازی رحمہ اللہ / م: ۵۹۸ھ) ۱۸۴
- ٣٥ المحيط البرهانی فی الفقه النعمانی (علامہ برہان الدین محمود بن احمد بخاری رحمہ اللہ / م: ۶۱۶ھ) ۱۸۵
- ٣٦ ذخیرۃ الفتاوی (علامہ برہان الدین محمود بن احمد بخاری رحمہ اللہ / م: ۶۱۶ھ) ۱۹۰
- ٣٧ الفتاوی الظہیریة (ظہیر الدین ابو بکر محمد بن احمد القاضی رحمہ اللہ / م: ۶۱۹ھ) ۱۹۰
- ٣٨ القنیة (مختار بن محمد زادہ رحمہ اللہ / م: ۶۵۸ھ) ۱۹۲
- ٣٩ الحاوی للزاهدی (مختار بن محمد بن محمد زادہ رحمہ اللہ / م: ۶۵۸ھ) ۱۹۳
- ٤٠ المحبتبی شرح مختصر القدوری (مختار بن محمد بن محمد زادہ رحمہ اللہ / م: ۶۵۸ھ) ۱۹۴
- ٤١ تحفة الملوك (امام زین الدین محمد بن ابی بکر رازی رحمہ اللہ / م: ۶۶۶ھ) ۱۹۵
- ٤٢ الفتاوی الصوفیة (علامہ فضل اللہ بن محمد بن ایوب رحمہ اللہ / م: ۶۶۶ھ) ۱۹۵
- ٤٣ المختار للفتوی (علامہ مجدد الدین موصی رحمہ اللہ / م: ۶۸۳ھ) ۱۹۶
- ٤٤ الباب فی الجمع بین السنۃ والکتاب (علامہ جمال الدین خزر جی منجھی رحمہ اللہ / م: ۶۸۶ھ) ۱۹۷
- ٤٥ مجمع البحرين (علامہ ابن ساعاتی رحمہ اللہ / م: ۶۹۷ھ) ۱۹۷
- ٤٦ منیۃ المصلى (علامہ سدید الدین کاشغری رحمہ اللہ / م: ۷۰۵ھ) ۱۹۹
- ٤٧ کنز الدقائق (امام ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد نسفی رحمہ اللہ / م: ۷۱۰ھ) ۲۰۰
- ٤٨ ”کنز الدقائق“ کی سات شروحات ۲۰۰
- ٤٩ المستصفی فی شرح المنظومة (امام ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد نسفی ۵۸

۲۰۱.....	رحمہ اللہ/م: ۱۰۷ھ).....
۹.....	تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (علام فخر الدین زیلیعی رحمہ اللہ/م: ۲۳۷ھ)
۲۰۲.....	۲۰..... خزانة المفتیین فی الفروع (امام حسین بن محمد سمنقانی رحمہ اللہ/م: ۳۶۷ھ)
۲۰۳.....	۲۱..... شرح الوقایة (علام عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ/م: ۳۷۷ھ)
۲۰۴.....	”شرح الوقایة“ پر لکھے گئے بارہ حواشی.....
۲۰۵.....	۲۲..... معراج الدرایۃ إلى شرح الہدایۃ (امام قوام الدین محمد بن محمد بخاری الکاکی رحمہ اللہ/م: ۳۹۷ھ)
۲۰۶.....	۲۳..... انفع الوسائل إلى تحریر المسائل (علام طرطوسی رحمہ اللہ/م: ۵۸۷ھ)
۲۰۷.....	۲۴..... غایۃ البیان ونادرۃ الأقران (امام عمید بن امیر اتقانی رحمہ اللہ/م: ۵۸۷ھ)
۲۰۸.....	۲۵..... نصب الرایۃ فی تحریج أحادیث الہدایۃ (علام زیلیعی رحمہ اللہ/م: ۲۲۷ھ)
۲۰۹.....	۲۶..... منظومة ابن وهبان (شیخ عبد الوہاب بن احمد بن وهبان مشقی رحمہ اللہ/م: ۲۸۷ھ)
۲۱۰.....	۲۷..... الغرة المنیفة فی تحقیق بعض المسائل الإمام أبي حنیفة (امام عمر بن اسحاق غزنوی رحمہ اللہ/م: ۳۷۷ھ)
۲۱۱.....	۲۸..... العناية علی الہدایۃ (علام اکمل الدین بابری رحمہ اللہ/م: ۸۶۷ھ)
۲۱۲.....	۲۹..... الفتاوی التاتار خانیۃ (علام عالم بن علاء انصاری رحمہ اللہ/م: ۸۶۷ھ)
۲۱۳.....	۳۰..... درر البحار فی الفروع (امام ابو عبد اللہ محمد بن یوسف قونوی رحمہ اللہ/م: ۸۸۷ھ)
۲۱۴.....	”درر البحار“ کی شروحات.....
۲۱۵.....	۳۱..... السراج الوهاج الموضح لکل طالب محتاج (امام ابو بکر بن علی حدادی رحمہ اللہ/م: ۸۰۰ھ)
۲۱۶.....	۳۲..... الجوهرة النيرة علی مختصر القدوری (امام ابو بکر بن علی حدادی رحمہ

- ۲۱۳ اللہ / م : ۸۰۰ھ)
 ۲۱۴ الفتح المعین علی شرح الکنز لملامسکین (لاما مسکین رحمہ اللہ / م : بعد ۸۱۱ھ)
 ۲۱۵ نہایۃ النہایۃ (علامہ محمد بن محمد المعروف ابن الشخنہ الکبیر رحمہ اللہ / م : ۸۱۵ھ)
 ۲۱۶ الفصول العمادیۃ (شیخ عبدالرحمیم زین الدین رحمہ اللہ)
 ۲۱۷ نہایۃ الکفایۃ (امام محمود بن احمد بن عبید اللہ تاج الشریعہ الحجوبی رحمہ اللہ)
 ۲۱۸ جامع الفصویلین فی الفروع (شیخ بدر الدین محمود المعروف ابن قاضی رحمہ اللہ / م : ۸۲۳ھ)
 ۲۱۹ الفتاویٰ البزاریۃ (علامہ ابن بزار کردی رحمہ اللہ / م : ۸۲۷ھ)
 ۲۲۰ فتاویٰ قاری الہدایۃ (علامہ عمر بن اسحاق غزنوی رحمہ اللہ / م : ۸۲۹ھ)
 ۲۲۱ جامع المضمرات والمشکلات (امام یوسف بن عمر بزار رحمہ اللہ / م : ۸۳۲ھ)
 ۲۲۲ خزانۃ الاکمل فی الفروع (امام ابو یعقوب یوسف بن علی جرجانی رحمہ اللہ)
 ۲۲۳ الہدایۃ فی شرح الہدایۃ (علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ / م : ۸۵۵ھ)
 ۲۲۴ رمز الحقائق فی شرح کنز الدقائق (علامہ بدر الدین عینی / م : ۸۵۵ھ)
 ۲۲۵ فتح القدیر (علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ / م : ۸۶۱ھ)
 ۲۲۶ مشتمل الأحكام (شیخ فخر الدین رومی رحمہ اللہ / م : ۸۶۲ھ)
 ۲۲۷ حلبۃ المجلی شرح منیۃ المصلى (علامہ ابن امیر الحاج رحمہ اللہ / م : ۸۷۹ھ)
 ۲۲۸ اس کتاب کے نام کے متعلق شیخ عبدالفتاح ابو عدنہ کی تحقیق
 ۲۲۹ التصحیح والترجیح الموضوع علی مختصر القدوری (علامہ قاسم بن قطلو بغار رحمہ اللہ / م : ۸۷۹ھ)
 ۲۳۰ جامع الفتاویٰ للحمیدی (شیخ قرق امرہ حمیدی رحمہ اللہ / م : ۸۸۰ھ)



- ٨٩ لسان الحکام فی معرفة الأحكام (امام احمد بن محمد المعروف ابن الشخنة حلبی رحمه اللہ / م: ٨٨٢ھ) ٢٢٧
- ٩٠ درر الحکام شرح غرر الأحكام (ملا خسرو رحمه اللہ / م: ٨٨٥ھ) ٢٢٧
- ٩١ مطالب المؤمنین (بدرالدین بن تاج الدین بن عبد الرحیم لاہوری رحمه اللہ) ٢٢٨
- ٩٢ کنز العباد فی شرح الأوراد (علی بن احمد غوری) ٢٢٩
- ٩٣ جامع الرموز (علامہ قہستانی رحمه اللہ / م: ٩٥٣ھ) ٢٣٠
- ٩٤ مجمع الأنہر فی شرح ملتقی الأبحر (امام ابراہیم بن محمد حلبی رحمه اللہ / م: ٩٥٦ھ) ٢٣٢
- ٩٥ غنیۃ المتمملی شرح منیۃ المصلى (امام ابراہیم بن محمد حلبی رحمه اللہ / م: ٩٥٦ھ) ٢٣٣
- ٩٦ البحیر الرائق شرح کنز الدقائق (علامہ ابن نجیم رحمه اللہ / م: ٩٧٠ھ) ٢٣٣
- ٩٧ "البحر الرائق" سے ایک سو اسی تفریعات کا ذکر ٢٣٢
- ٩٨ الأشباه والنظائر (علامہ ابن نجیم رحمه اللہ / م: ٩٧٠ھ) ٢٣٩
- ٩٩ "الأشباه والنظائر" کی چھ شروحات ٢٣٩
- ١٠٠ کیا "الأشباه والنظائر" سے فتوی دے سکتے ہیں؟ ٢٥٠
- ١٠١ الفتاوی الزینیۃ فی فقه الحنفیۃ (علامہ ابن نجیم رحمه اللہ / م: ٩٧٠ھ) ٢٥١
- ١٠٢ خلاصۃ الکیدانی (لطف اللہ نسپی) ٢٥٢
- ١٠٣ "خلاصۃ الکیدانی" کی سات شروحات ٢٥٣
- ١٠٤ خزانۃ الروایات (قاضی جکن ہندی گجراتی) ٢٥٥
- ١٠٥ تنویر الأبصار و جامع البحار (علامہ شمس الدین تمرتاشی رحمه اللہ / م: ١٠٠٣ھ) ٢٥٦
- ١٠٦ "تنویر الأبصار" کے چھ شروح و حواشی ٢٥٦
- ١٠٧ فتح باب العناية (ملا علی قاری رحمه اللہ / م: ١٤١٣ھ) ٢٥٨

- ۱۰۳ نور الإيضاح (علامہ حسن بن عمار شربلائی رحمہ اللہ / م: ۱۰۶۹) ۲۵۹
- ۱۰۴ إمداد الفتح شرح نور الإيضاح (علامہ شربلائی رحمہ اللہ / م: ۱۰۶۹) ۲۶۰
- ۱۰۵ مراقبی الفلاح شرح نور الإيضاح (علامہ حسن بن عمار شربلائی رحمہ اللہ / م: ۱۰۶۹) ۲۶۰
- ۱۰۶ الفتاوی الخیریة (علامہ خیر الدین رملی رحمہ اللہ / م: ۱۰۸۱) ۲۶۱
- ۷ الدر المختار شرح تنویر الأبصار (علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ / م: ۱۰۸۸) ۲۶۱
- ۲۶۳ ” الدر المختار ” کے پندرہ شروح و حواشی ۲۶۳
- ۱۰۸ عمدة ذوى البصائر لحل مبهمات الأشباه والنظائر (علامہ ابراہیم بن حسین المعروف ابن بیری رحمہ اللہ / م: ۱۰۹۹) ۲۶۶
- ۹ الفتاوی الهندیة (زیر اہتمام: اورنگ زیب عالمگیر رحمہ اللہ / م: ۱۱۱۸) ۲۶۶
- ۱۱۰ مفاتیح الأسرار ولوائح الأفکار شرح الدر المختار (شیخ عبد الرحمن بن ابراہیم المعروف ابن عبد الرزاق رحمہ اللہ / م: ۱۱۳۸) ۲۶۸
- ۱۱۱ الفتاوی الطوری (علامہ محمد بن حسین الطوری رحمہ اللہ / م: بعد ۱۱۳۸) ۲۶۹
- ۱۱۲ حاشیة الطھطاوی علی مراقبی الفلاح (علامہ طھطاوی رحمہ اللہ / م: ۱۲۳۱) ۲۶۹
- ۱۱۳ حاشیة الطھطاوی علی الدر المختار (علامہ طھطاوی رحمہ اللہ / م: ۱۲۳۱) ۲۷۰
- ۱۱۴ العقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدیة (علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ / م: ۱۲۵۲) ۲۷۰
- ۱۱۵ رد الدر المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار (علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ / م: ۱۲۵۲) ۲۷۲

- ۱۱۶ الباب في شرح الكتاب (علامة عبد الغني ميداني رحمه اللہ / م: ۱۲۹۸ھ) ۲۷۶
- ۱۱۷ الفتاوى الحمادية (مفتي ركن الدين ناگوري رحمه اللہ) ۲۷۷
- ۱۱۸ السعاية في كشف ما في شرح الوقاية (علامة عبد الحجى لکھنؤی رحمه اللہ / م: ۱۳۰۳ھ) ۲۷۷
- ۱۱۹ عمدة الرعاية (علامة عبد الحجى لکھنؤی رحمه اللہ / م: ۱۳۰۳ھ) ۲۷۸
- ۱۲۰ قرة عين الأخيار لتكاملة رد المحتار (علامة علاء الدين محمد بن عمر رحمه اللہ / م: ۱۳۰۴ھ) ۲۷۸
- ۱۲۱ التحرير المختار على رد المحتار (علامة عبدالقادر بن مصطفى رافع رحمه اللہ / م: ۱۳۱۲ھ) ۲۷۹
- ۱۲۲ الفتاوى المهدية في الواقع المصرية (شیخ محمد عباسی مہدی مصری رحمه اللہ / م: ۱۳۱۵ھ) ۲۷۹
- ۱ کتب حنفیہ کی ترتیب پر ایک طاریانہ نظر ۲۸۰
- کتب مالکیہ کاتعارف
- ۲ متون مالکیہ ۲۸۳
- ۱ الرسالة (ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن قیروانی رحمه اللہ / م: ۳۸۶ھ) ۲۸۳
- ۲ ”رسالة“ کی شروح، حواشی و منظومات ۲۸۳
- ۳ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (شیخ عبد الرحمن بن محمد بغدادی رحمه اللہ / م: ۷۳۲ھ) ۲۶۲
- ۴ ”إرشاد السالك“ کی شرح ۲۸۵
- ۵ مختصر خليل (ابو محمد ضياء الدين خليل بن اسحاق جندی رحمه اللہ / م: ۷۷۶ھ) ۲۸۶
- ۶ ”مختصر خليل“ کی شروح، حواشی و منظومات ۲۸۶
- ۷ المرشد المعین على الضروری من علوم الدین (شیخ عبدالواحد بن احمد ۲۸۷

۲۸۹.....	اندی رحمہ اللہ / م: (۱۰۳۰ھ)
۲۹۰.....	”المرشد المعین“ پر لکھی گئی شروحات
۲۹۱.....	۵ اقرب المسالک لمذهب الإمام مالک (شیخ احمد بن محمد در دری عدوی رحمہ اللہ / م: ۱۲۰۱ھ)
۲۹۲.....	”اقرب المسالک“ پر لکھی گئی شروح و حواشی
۲۹۳.....	۶ مجموع الأمير (شیخ محمد بن احمد بن عبد القادر رکنی رحمہ اللہ / م: ۱۲۳۲ھ)

كتب شوافع کا تعارف

۲۹۴.....	متوں شوافع
۲۹۵.....	۱ التنبیہ فی الفقه الشافعی (امام ابو سحاق شیرازی رحمہ اللہ / م: ۳۷۶ھ)
۲۹۶.....	”التنبیہ فی الفقه الشافعی“ سے متعلق لکھی گئی کتابیں
۲۹۷.....	۲ الغایہ والتقریب (امام ابو شجاع احمد بن حسین اصفهانی رحمہ اللہ / م: ۵۹۳ھ)
۲۹۸.....	”الغایہ والتقریب“ کی شروح، حواشی اور منظومات
۲۹۹.....	۳ منهاج الطالبین و عمدة المفتیین (امام نووی رحمہ اللہ / م: ۶۷۶ھ)
۳۰۰.....	”منهاج الطالبین“ کی شروح و حواشی
۳۰۱.....	”منهاج الطالبین“ کے مسائل کے دلائل پر لکھی گئی کتابیں
۳۰۲.....	”منهاج الطالبین“ کی اصطلاحات، رموز اور لغات پر لکھی گئی کتابیں
۳۰۳.....	”منهاج الطالبین“ سے متعلق لکھی گئی وہ کتابیں جو اب تک طبع نہیں ہوئیں
۳۰۴.....	۴ إرشاد الغاوی فی مسالک الحاوی (علامہ شرف الدین مقری رحمہ اللہ / م: ۸۳۷ھ)
۳۰۵.....	”إرشاد الغاوی“ کی شروحات
۳۰۶.....	۵ روض الطالب (امام شرف الدین مقری رحمہ اللہ / م: ۸۳۷ھ)

۶..... الزبد فی الفقه الشافعی (علامہ ابن رسلان شافعی رحمہ اللہ / م: ۸۲۲ھ)	٢۹۹
”الزبد فی الفقه الشافعی“ کی شروحات.....	۳۰۰
۷..... منهج الطالب (شیخ الاسلام ابو الحیی زکریا بن محمد انصاری رحمہ اللہ / م: ۹۲۶ھ)	۳۰۰
”منهج الطالب“ اور ”فتح الوهاب“ کی شروحات.....	۳۰۰
کتب حنابلہ کاتعارف
۸..... متون حنابلہ.....	۳۰۲
۹..... مختصر الخرقی (امام القاسم عمر بن حسین خرقی رحمہ اللہ / م: ۳۳۲ھ)	۳۰۲
”مختصر الخرقی“ کی شروحات.....	۳۰۲
۱۰..... عمدة الفقه (امام موفق الدین عبد اللہ بن احمد قدامہ مقدسی رحمہ اللہ / م: ۶۲۰ھ)	۳۰۳
”عمدة الفقه“ پر کھلگی شروح و حواشی.....	۳۰۳
۱۱..... زاد المستقنع فی اختصار المقنع (علامہ شرف الدین ابو النجاشی موسی بن احمد مقدسی رحمہ اللہ / م: ۹۶۸ھ)	۳۰۵
”زاد المستقنع“ کی شروح، حواشی و منظومات.....	۳۰۵
۱۲..... دلیل الطالب لنیل المطالب (امام مرعی بن یوسف مقدسی رحمہ اللہ / م: ۳۰۳۳ھ)	۳۰۷
”دلیل الطالب“ کی شروح، حواشی و منظومات.....	۳۰۸
علم اصول فقه
۱۳..... لفظ اصل کا لغوی معنی.....	۳۱۰
۱۴..... لفظ اصل کا اصطلاحی معنی.....	۳۱۰
۱۵..... فقه کا لغوی معنی.....	۳۱۱
۱۶..... فقه کا اصطلاحی معنی.....	۳۱۱

۳۱۲.....	علم اصول فقہ کا واضح
۳۱۵.....	كتب اصول فقہ کے تدوین کے طریقے
۳۱۵.....	علمائے متكلمین کے طریقے پر تدوین کی گئی کتب
۳۱۶.....	علمائے حنفیہ کے طریقے پر تدوین کی گئی کتب
۳۱۷.....	متاخرین اہل علم کے طریقے پر تدوین کی گئی کتب

كتب اصول فقہ کا تعارف

۱.....	الرسالة (امام شافعی رحمہ اللہ / م: ۲۰۴ھ)
۲.....	أصول الكرخی (امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ / م: ۳۲۰ھ)
۳.....	الفصول فی الأصول (امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ / م: ۳۲۰ھ)
۴.....	العمد (قاضی عبدالجبار معتزلی / م: ۳۱۵ھ)
۵.....	تأسیس النظر (امام ابو زید بوسی رحمہ اللہ / م: ۳۳۰ھ)
۶.....	تقویم الأدلة فی الأصول (امام ابو زید بوسی رحمہ اللہ / م: ۳۳۰ھ)
۷.....	الأنوار فی الأصول (امام ابو زید بوسی رحمہ اللہ / م: ۳۳۰ھ)
۸.....	الأسرار فی الأصول و الفروع (امام ابو زید بوسی رحمہ اللہ / م: ۳۳۰ھ)
۹.....	المعتمد (امام ابو الحسین بصری معتزلی / م: ۳۳۶ھ)
۱۰.....	الإحکام فی أصول الأحكام (علامہ ابن حزم ظاہری / م: ۳۵۶ھ)
۱۱.....	كتاب الخلافیات (امام نیہقی رحمہ اللہ / م: ۳۵۸ھ)
۱۲.....	إحکام الفصول فی أحكام الأصول (امام ابو الولید باجی مالکی رحمہ اللہ / م: ۳۷۳ھ)
۱۳.....	اللمع فی أصول الفقه (امام ابو سحاق شیرازی رحمہ اللہ / م: ۳۷۶ھ)
۱۴.....	الرهان فی أصول الفقه (امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ / م: ۳۷۸ھ)

- ۱۵ أصول البزدوي (علامہ فخر الاسلام بزدوى رحمہ اللہ / م: ۳۸۲ھ) ۳۳۳
- ۱۶ أصول السرخسی (شمس الائمه سرخسی رحمہ اللہ / م: ۳۸۳ھ) ۳۳۵
- ۱۷ المنخل من تعليقات الأصول (امام غزالی رحمہ اللہ / م: ۵۰۵ھ) ۳۳۷
- ۱۸ المستصفی (امام غزالی رحمہ اللہ / م: ۵۰۵ھ) ۳۳۹
- ۱۹ الواضح في أصول الفقه (امام ابوالوفاء بن عقیل رحمہ اللہ / م: ۵۱۳ھ) ۳۴۱
- ۲۰ المنهاج في الأصول (علامہ جاراللہ زمخشری / م: ۵۳۸ھ) ۳۴۲
- ۲۱ مختصر المستصفی (علامہ ابن رشد رحمہ اللہ / م: ۵۹۵ھ) ۳۴۲
- ۲۲ منهاج الوصول إلى علم الأصول (علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ / م: ۵۹۷ھ) ۳۴۲
- ۲۳ المحصول من أصول الفقه (امام فخر الدين رازی رحمہ اللہ / م: ۶۰۶ھ) ۳۴۵
- ۲۴ المعالم في أصول الفقه (امام فخر الدين رازی رحمہ اللہ / م: ۶۰۶ھ) ۳۴۸
- ۲۵ روضة الناظر وجنۃ المناظر (علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ / م: ۶۲۰ھ) ۳۵۰
- ۲۶ الإحکام في أصول الأحكام (علامہ آمدی رحمہ اللہ / م: ۶۳۱ھ) ۳۵۱
- ۲۷ المتنبی الحسامی (علامہ حسام الدین رحمہ اللہ / م: ۶۲۲ھ) ۳۵۳
- ۲۸ منتهی السول والأمل في علم الأصول والجدل (علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ / م: ۶۲۶ھ) ۳۵۲
- ۲۹ المسودۃ في أصول الفقه (علامہ عبدالسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ / م: ۶۵۲ھ) ۳۵۶
- ۳۰ الحاصل من المحصول في أصول الفقه (قاضی تاج الدین ارمومی رحمہ اللہ / م: ۶۵۳ھ) ۳۵۷
- ۳۱ التحصیل من المحصول (علامہ سراج الدین ارمومی رحمہ اللہ / م: ۶۸۲ھ) ۳۵۸
- ۳۲ تنقیح الفصول في اختصار المحصول (علامہ شہاب الدین قرانی

- ۳۶۰..... رحمة الله / م: ۶۸۲ (ھ) رحمة الله / م: ۶۸۲ (ھ)
- ۳۶۳..... منهاج الوصول إلى علم الأصول (قاضي بيضاوي رحمة الله / م: ۶۸۵ (ھ)) رحمة الله / م: ۶۸۵ (ھ)
- ۳۶۵..... بدیع النظم (علامہ ابن الساعاتی رحمة الله / م: ۶۹۲ (ھ)) رحمة الله / م: ۶۹۲ (ھ)
- ۳۶۵..... عنوان الوصول في الأصول (علامہ ابن دقيق العید رحمة الله / م: ۷۰۲ (ھ)) رحمة الله / م: ۷۰۲ (ھ)
- ۳۶۷..... منار الأنوار في أصول الفقه (علامہ نسفي رحمة الله / م: ۱۰۷ (ھ)) رحمة الله / م: ۱۰۷ (ھ)
- ۳۶۸..... أصول الفقه (علامہ ابن تیمیہ رحمة الله / م: ۷۲۸ (ھ)) رحمة الله / م: ۷۲۸ (ھ)
- ۳۷۰..... كشف الأسرار شرح أصول البزدوى (علامہ عبد العزیز بخاری رحمة الله / م: ۷۳۰ (ھ)) رحمة الله / م: ۷۳۰ (ھ)
- ۳۷۹..... التنقیح والتوضیح (صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود رحمة الله / م: ۷۳۷ (ھ)) رحمة الله / م: ۷۳۷ (ھ)
- ۳۷۳..... إعلام الموقعين عن رب العالمين (علامہ ابن قیم رحمة الله / م: ۱۵۷ (ھ)) رحمة الله / م: ۱۵۷ (ھ)
- ۳۷۴..... الإبهاج في شرح منهاج (علامہ تقی الدین سکی رحمة الله / م: ۷۵۶ (ھ)) رحمة الله / م: ۷۵۶ (ھ)
- ۳۷۴..... رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (علامہ تاج الدین سکی رحمة الله / م: ۱۷۷ (ھ)) رحمة الله / م: ۱۷۷ (ھ)
- ۳۷۵..... مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول (علامہ محمد الشریف التلمسانی رحمة الله / م: ۱۷۷ (ھ)) رحمة الله / م: ۱۷۷ (ھ)
- ۳۷۶..... نهاية السول في شرح منهاج الأصول (علامہ عبد الرحیم السنوی رحمة الله / م: ۷۷۲ (ھ)) رحمة الله / م: ۷۷۲ (ھ)
- ۳۷۷..... التقریر فی شرح أصول البزدوى (علامہ اکمل الدین بابری رحمة الله / م: ۷۸۶ (ھ)) رحمة الله / م: ۷۸۶ (ھ)
- ۳۷۸..... المواقفات (علامہ شاطبی رحمة الله / م: ۷۹۰ (ھ)) رحمة الله / م: ۷۹۰ (ھ)
- ۳۷۹..... التلویح فی کشف حقائق التنقیح (علامہ تقی الدین رحمة الله / م: ۷۹۳ (ھ)) رحمة الله / م: ۷۹۳ (ھ)

- ٣٨ البحر المحيط أصول الفقه (علامہ بدر الدین زکریٰ رحمہ اللہ / م: ۷۹۲ھ) ۳۸۲
- ٣٩ القواعد الكبرى (علامہ ابن رجب رحمہ اللہ / م: ۷۹۵ھ) ۳۸۲
- ٤٠ النجم الوهاج (علامہ عبدالرحیم عراقی رحمہ اللہ / م: ۸۰۶ھ) ۳۸۵
- ٤١ التحریر فی أصول الفقه (علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ / م: ۷۸۶ھ) ۳۸۶
- ٤٢ الضياء اللامع شرح جمع الجوامع فی أصول الفقه (امام ابوالعباس یزطینی رحمہ اللہ / م: ۸۹۵ھ) ۳۸۸
- ٤٣ غایة الوصول فی شرح لب الأصول (علامہ ذکریٰ یا انصاری رحمہ اللہ / م: ۹۲۶ھ) ۳۸۹
- ٤٤ مشکاة الأنوار فی أصول المنار (علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ / م: ۷۹۰ھ) ۳۹۰
- ٤٥ حاشية علی التلویح علی المقدمات الأربع فقط (علامہ عبدالحکیم سیالکوئی رحمہ اللہ / م: ۷۱۰ھ) ۳۹۲
- ٤٦ إفاضة الأنوار علی أصول المنار (علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ / م: ۱۰۸۸ھ) ۳۹۳
- ٤٧ مسلم الشوت فی أصول الفقه (علامہ محب اللہ بھاری رحمہ اللہ / م: ۱۱۱۹ھ) ۳۹۳
- ٤٨ نور الأنوار فی شرح المنار (ملأ جيون حنفی رحمہ اللہ / م: ۱۱۳۰ھ) ۳۹۴
- ٤٩ عقد الجيد فی أحكام الاجتهاد والتقلید (حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ / م: ۱۱۷۶ھ) ۳۹۵
- ٥٠ إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الأصول (علامہ شوکانی رحمہ اللہ / م: ۱۲۵۰ھ) ۳۹۶
- ٥١ حصول المأمول من علم الأصول (علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ / م: ۱۳۰۷ھ) ۳۹۹



- ۶۲ علم اصول الفقه (شیخ عبدالوهاب خلاف رحمہ اللہ / م: ۱۳۷۵ھ) ۳۹۹
 ۶۳ اصول الفقه الاسلامی (دکتور وہبۃ الرحلی) ۳۰۰

اردو فتاوی کا تعارف

۳۰۲.....	فتاوی عزیزی
۳۰۸.....	مجموعۃ الفتاوی
۳۰۹.....	فتاوی رشیدیہ
۳۱۱.....	فتاوی مظاہر علوم المعروف بہ فتاوی خلیلیہ
۳۱۳.....	فتاوی دارالعلوم دیوبند
۳۱۵.....	عزیز الفتاوی
۳۱۵.....	امداد الفتاوی
۳۱۸.....	کفایت المفتش
۳۲۰.....	امداد الاحکام
۳۲۱.....	امداد لمفتین
۳۲۵.....	فتاوی شیخ الاسلام
۳۲۵.....	نظام الفتاوی
۳۲۶.....	احسن الفتاوی
۳۲۷.....	فتاوی محمودیہ
۳۲۸.....	فتاوی حسینیہ
۳۲۹.....	فتاوی حقانیہ
۳۳۰.....	فتاوی بینات

۳۳۱.....	خیر الفتاوی
۳۳۱.....	فتاوی مفتی محمود
۳۳۲.....	آپ کے مسائل اور ان کا حل
۳۳۳.....	جو اہر الفتاوی
۳۳۴.....	فتاوی فرنگی محلی
۳۳۵.....	فتاوی احیاء العلوم
۳۳۵.....	فتاوی قاضی
۳۳۶.....	فتاوی فریدیہ
۳۳۶.....	فتاوی دارالعلوم کراچی (امداد السالمین)
۳۳۷.....	فتاوی عثمانی
۳۳۸.....	فتاوی دارالعلوم زکریا
۳۳۹.....	شمسیۃ الفتاوی
۳۴۰.....	فتاوی حبیبیہ
۳۴۰.....	وحید الفتاوی
۳۴۱.....	کتاب الفتاوی
۳۴۱.....	فتاوی ختم نبوت
۳۴۲.....	مرغوب الفتاوی
۳۴۲.....	فتاوی ندوۃ العلماء
۳۴۳.....	حبیب الفتاوی
۳۴۳.....	فتاوی احیاء العلوم
۳۴۴.....	فتاوی باقیات صالحات




۳۹..... فتاوی مفتی سیاح الدین کا خیل	۳۲۳
۴۰..... فتاوی امارت شرعیہ	۳۲۲
۴۱..... منتخبات نظام الفتاوی	۳۲۲
۴۲..... دینی مسائل اور ان کا حل	۳۲۲
۴۳..... نجم الفتاوی	۳۲۲
۴۴..... فتاوی عباد الرحمن	۳۲۵
۴۵..... آپ کے مسائل کا حل	۳۲۵
۴۶..... فتاوی عثمانیہ	۳۲۶
۴۷..... فتاوی انوار العلوم	۳۲۷

عرضِ مؤلف

راقم نے اس کتاب میں ”فتاویٰ کا تاریخی پس منظر“، (عہد نبوت سے فقہ حنفی کی تدوین تک) کتب فقہ، اصول فقہ اور دو فتاوی کا تعارف ذکر کیا ہے۔ کتب فقہ کے تعارف میں امام محمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ) کی ”المبسوط“ جوان کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس سے لے کر شیخ محمد عباسی مهدی مصری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۱۵ھ) کی ”الفتاویٰ المهدیۃ فی الواقیق المصریۃ“ تک (۱۲۲) کتابوں کا تعارف ذکر کیا ہے۔ سنین وفات کی ترتیب کے مطابق ہر کتاب کا مکمل نام، مصنف کا تعارف اور اس کی مشہور تصنیفات کا ذکر، مأخذ، خصوصیات، محقق اور طبع کا ذکر کیا ہے۔ الحمد للہ فقہ حنفی کی تقریباً تمام کتب کا تعارف اس میں آگیا ہے۔

نیز اصول فقہ کی مبادیات، اصول فقہ کا واضح اور تاریخی تسلسل کے ساتھ (۶۳) کتابوں کا تعارف ذکر کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۲۰۴ھ) کی ”الرسالة“ سے لے کر دکتور وہبۃ الزہبی کی ”أصول الفقه الإسلامی“ تک چاروں مکتبہ فکر کے علماء کی کتابوں کا تعارف اس کتاب میں ہے۔ کتاب اور مصنف کے تعارف کے ساتھ ساتھ ان کی مشہور تصنیفات کا بھی ذکر کیا ہے، اس کتاب پر لکھے گئے حواشی، شروحات، تعلیقات، اختصارات اور منظومات کا بھی اجمالاً ذکر کیا ہے، اس ضمن میں ذکر کی گئی کتابوں کی تعداد سو سے زائد ہے۔

کتب اصول فقہ کے تعارف میں راقم نے زیادہ تر استفادہ جناب ڈاکٹر فارون حسن صاحب کی کتاب ”فن اصول فقہ کی تاریخ عہد رسالت سے عہد حاضر تک“ سے کیا ہے۔ اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں چاروں فقہی مذاہب کے متون اور ان پر لکھی گئی شروح، حواشی، تعلیقات اور منظومات کا اضافہ کیا ہے، کتب حنفیہ کے تعارف میں بھی جامجا



اضافات کئے ہیں، اس طرح اس ایڈیشن میں سو سے زائد نئی کتب کا ذکر اصالتاً اور کہیں ضمناً آیا ہے۔ اس میں رقم نے زیادہ تر استفادہ دکتور عبد العزیز بن ابراہیم بن قاسم کی کتاب ”الدلیل إلى المتون العلمية“ سے کیا ہے۔

آخر میں (۲۷) اردو فتاوی کا تعارف بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس طرح اس کتاب میں کل (۲۳۲) کتابوں کا اصالتاً اور دوسو سے زائد کتب کا ذکر ضمناً آیا ہے۔ بفضل اللہ رقم کی ایک کتاب ”عربی، اردو کتب سیرت کا تعارف“ چھپ چکی ہے، جس میں بہتر (۲۷) عربی اور تہتر (۳۷) اردو کتب سیرت کا تعارف ذکر کیا گیا ہے، چھ سو سینتالیس (۶۷) کتابوں کی فہرست حروفِ تہجی کے مطابق ذکر کی ہے، جو سیرت کے مختلف گوشوں پر لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح ”انواع کتب حدیث کا تعارف“ دو جلدوں میں طبع ہے، جس میں دو ہزار سے زائد کتب حدیث کا تعارف ہے۔

رقم نے عربی، اردو کتب تفاسیر کے تعارف کے کام کا آغاز بھی کیا ہے، قارئین کرام سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ آمین

اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رقم کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

محمد نعمان

استاذ الحدیث جامعہ انوار العلوم مہران ٹاؤن کو رنگی کراچی

۲۲ ستمبر ۲۰۲۰ء / صفر ۱۴۴۱ھ

موباکل نمبر # 0332-2557675

فتاویٰ کا تاریخی پس منظر

فتاویٰ کی لغوی تعریف

لفظ فتویٰ فاءٰ کے فتحہ کے ساتھ بھی منقول ہے اور فاءٰ کے ضمہ کے ساتھ بھی، لیکن صحیح فاءٰ کے فتحہ کے ساتھ ہے، اس کا لغوی معنی ”الإجابة عن سؤال سواء كان متعلقاً بالأحكام الشرعية أم بغيرها“، کسی بھی سوال کا جواب دینا خواہ اس کا تعلق احکام شریعت سے ہو یا غیر احکام شریعت سے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بادشاہ مصر کی یہ بات نقل کی ہے:

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ افْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِرُؤْيَا تَعْبُرُونَ۔ (یوسف: ۳۳)

ترجمہ: اے دربار والو! اگر تم تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو۔

اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھی کی بات نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يُوْسُفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ افْتَنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ۔ (یوسف: ۳۶)

ترجمہ: یوسف! اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس (خواب) کا مطلب بتاؤ کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں۔

اسی طرح ملکہ سبا کی بات نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ افْتُونِي فِي أَمْرِي۔ (النمل: ۳۲)

ترجمہ: اے سردارو! مجھے میرے معاملے میں بتاؤ۔

مذکورہ بالا تینوں آیات میں لفظ فتویٰ مطلق سوال کے جواب دینے کے لئے استعمال ہوا ہے، احکام شریعہ دریافت کرنے کے لئے نہیں ہوا، لیکن پھر بعد میں یہ لفظ شرعی حکم معلوم

کرنے کے لئے خاص ہو گیا۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ حکم شرعی کی دریافت کے لئے متعدد جگہ استعمال ہوا ہے، جیسے:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِيهِنَّ . (النساء: ۱۲۷)

ترجمہ: اور (اے پیغمبر!) لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم دیتا ہے۔

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ . (النساء: ۱۷۶)

ترجمہ: (اے پیغمبر!) لوگ تم سے (کلالہ کا حکم) پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔

قرآن کی ان آیات میں لفظ فتویٰ شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔

فتاویٰ کی اصطلاحی تعریف

هو الإخبار بحكم الله تعالى عن مسألة دينية بمقتضى الأدلة الشرعية

لمن سأله في أمر نازل على جهة العموم لا على وجه الإلزام. ①

ترجمہ: کسی پیش آمدہ مسئلے میں سائل کو دلائل شرعیہ کی روشنی میں حکم خداوندی سے آگاہ کرنے کو فتویٰ کہتے ہیں اور مفتی کا اس حکم شرعی کی خبر دینا بطور عموم کے ہونہ کے باطیر الزام کے ہو۔

فتاویٰ عہدِ نبوت میں

سب سے پہلے جنہوں نے منصب افتاء کو سنبھالا وہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فتویٰ دیا کرتے تھے،

① المصباح في رسم المفتوى ومناهج الإفتاء : معنى الفتيا لغة وشرعها، ج ۱ ص ۱۶

حضراتِ صحابہ کرام آپ سے احکاماتِ شرعیہ دریافت کرتے، آپ ان کے جوابات دیتے، حضراتِ صحابہ کرام ان فتاویٰ کو اپنے سینوں اور اوراق میں محفوظ کرتے تھے، آپ کے فتاویٰ اور احادیث مبارکہ اسلام کا دوسرا مأخذ ہیں، ہر مسلمان کے لئے ان پر عمل کرنا ضروری ہے، کسی کے لئے ان سے ذرہ بھر اخراج جائز نہیں۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۷۷ھ) فرماتے ہیں:

وَأَوَّلُ مَنْ قَامَ بِهَذَا الْمَنْصِبِ الشَّرِيفِ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ،
وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِهِ، وَسَفِيرُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
عِبَادِهِ، فَكَانَ يُفْتَنُ عَنِ اللَّهِ بِوَحْيِهِ الْمُبِينِ، فَكَانَتْ فَتاوِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَوَامِعُ الْأَحْكَامِ، وَمُشْتَمِلَةً عَلَى فَصْلِ الْخَطَابِ، وَهِيَ فِي وُجُوبِ اتِّبَاعِهَا
وَتَحْكِيمِهَا ثَانِيَةُ الْكِتَابِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولُ عَنْهَا۔ ①

ترجمہ: سب سے پہلے اس عظیم الشان منصب پر تمام انبیاء اور متقین کے سردار، اللہ کے بندے اور رسول جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، آپ وحی الہی میں امین ہیں، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفیر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح وحی کے ساتھ فتویٰ دیتے تھے، آپ کے فتاویٰ جو اجمع الكلم ہیں، واضح احکامات پر مشتمل ہیں، ان کی اتباع کرنا ضروری ہے، ان کو حکم بنانا اور ان کی روشنی میں فیصلے کرنا ضروری ہے، یہ شریعت کا دوسرا مأخذ ہے، کسی مسلمان کے لئے ان سے عدول کرنا جائز نہیں ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دوسرا شخص منصب افتاء پر فائز نہیں ہوا، البتہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افتاء اور قضاۓ کا کام اپنے بعض صحابہ کے سپرد کرتے تھے، شاید اس کا مقصد ان حضرات کو اجتہاد اور استنباط کی عملی مشق کرنا تھا۔

● إعلام الموقعين: فصل: الرسول صلی اللہ علیہ وسلم أول من بلغ عن اللہ، ج ۱ ص ۱۶



حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

إِفْضِ بَيْهِمَا فَقَالَ: أَفْضِي بَيْهِمَا وَأَنْتَ حَاضِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَى أَنْكَ إِنْ أَحْبَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ أُجُورٍ وَإِنْ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ. ①

ترجمہ: (دو افراد اپنا جھگڑا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ نے حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ کو کہا کہ) ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو، انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کی موجودگی میں، میں فیصلہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں تم فیصلہ کرو، اگر تم نے درست فیصلہ کیا تو تمہارے لئے دس اجر ہیں، اور اگر تم نے اجتہاد کیا اور غلطی کی تو تمہارے لئے ایک اجر ہے۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو دور دراز شہروں کی طرف بھیجتے وقت فیصلہ کرنے اور فتویٰ دینے کی اجازت مرحمت فرمائی، جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر روانہ فرمایا، اور ان کو قرآن، حدیث، قیاس و اجتہاد کے ذریعے فتویٰ اور فیصلے کی اجازت دی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا:

أَجْتَهِدْ بِرَأْيِيْ، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ.

ترجمہ: میں اپنی رائے کے ذریعے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ان کے سینے پر بطور شabaishi کے تھکلی دی اور فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولُ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ. ②

① المستدرک على الصحيحين: كتاب الأحكام، ج ۳ ص ۹۹، رقم الحديث: ۷۰۰۲

② سنن أبي داود: كتاب الأقضية، باب اجتہاد الرأی فی القضاء، ج ۳ ص ۳۰۳

ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق دی جس نے اللہ کے رسول کو خوش کر دیا۔

افتاء میں صحابہ کرام کا طریقہ کار

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد یہ ذمہ داری حضرات صحابہ کرام کے کندھوں پر آئی، ان حضرات نے بڑے احسن طریقے سے اسے نبھایا، اس میں ان کا منیج وہی رہا جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزرا۔

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی شریح رحمہ اللہ کو خط لکھا:

إِنْ جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَلْفِتُكَ عَنْهُ الرِّجَالُ،
فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهَا، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ، فَإِنْ
جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ. فَاخْتَرْ أَيِّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ
تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ ثُمَّ تَقْدَمْ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُرَ فَتَأْخُرْ، وَلَا أَرِيَ التَّأْخُرَ
إِلَّا خَيْرًا لَكَ. ①

ترجمہ: اگر تمہارے پاس کتاب اللہ کا کوئی حکم آئے تو اس کے مطابق فیصلہ کرو اور تمہیں اس سے ہرگز لوگ نہ موڑیں، پس اگر تمہارے پاس ایسا معاملہ آئے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو، پس اگر

① سنن الدارمی: کتاب العلم، باب الفتیا وما فيه من الشدة، ج ۱ ص ۲۶۵، رقم

تمہارے پاس ایسا معاملہ آجائے جونہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں سنت رسول اللہ میں کوئی بات ہے، تو اس کو دیکھو جس پر تمام لوگ متفق ہیں تو اس کو لے لو، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں نہ کتاب اللہ کا کوئی حکم ہے اور نہ سنت رسول اللہ میں ہے اور نہ ہی تم سے پہلے کسی نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو تم دو باتوں میں سے جسے چاہے منتخب کرلو، یا تو اپنی رائے کے ذریعے اجتہاد کرو اور پھر تم آگے بڑھو تو تم آگے کئے جاؤ گے، اور اگر تم چاہو تو بس (اجتہاد سے) پیچھے ہٹ جاؤ، تب تم پیچھے کر دیئے جاؤ گے، اور میں تو تمہارے لئے پیچھے رہنے کو ہی بہتر سمجھتا ہوں۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ رضی اللہ عنہما روایت ہے:

كَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، قَالَ فِيهِ بِرَأِيهِ ①

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس سے کسی مسئلے کے متعلق دریافت کیا جاتا تو وہ سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے، وہاں اس کا حکم موجود ہوتا تو سائل کو اس سے آگاہ کرتے، اگر قرآن کریم میں حکم موجود نہ ہوتا تو احادیث رسول کی طرف متوجہ ہوتے، اگر وہاں بھی اس کا حکم نہ پاتے تو حضرت ابو بکر و حضرت عمر کے اقوال میں غور فرماتے، اگر یہاں بھی مسئلے کا حکم نہ پاتے تو اپنی رائے کا استعمال کرتے۔

عبدالصحابہ میں فتویٰ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس عظیم الشان منصب پر آپ کے وہ جلیل القدر صحابہ

① سنن الدارمی: کتاب العلم، باب الفنیا وما فيه من الشدة، ج ۱ ص ۲۶۵، رقم

کرام فائز ہوئے جو آپ کی وراثت کے اولین محافظ و امین تھے، اور تقوی و طہارت، صداقت و عدالت، شجاعت و سخاوت اور ایثار و ہمدردی میں مانند آفتاب اور رُشد و ہدایت، علم و معرفت میں مانند ماہتاب تھے، جن کے متعلق ارشادِ ربّانی ”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ ہے، جو نزول قرآن، اسباب نزول اور منشأ قرآن سے اچھی طرح باخبر تھے، جن کے بارے میں امت کا متفقہ فیصلہ ہے:

الَّذِينَ أَلْمَأَةَ قُلُوبًا، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، وَأَقْلَلُهَا تَكَلُّفًا، وَأَحْسَنُهَا بَيَانًا،
وَأَصْدَقُهَا إِيمَانًا، وَأَعْمُهَا نَصِيحَةً، وَأَقْرَبُهَا إِلَى اللَّهِ وَسِيلَةً۔ ①

ترجمہ: صحابہ کرام امت میں سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ گہرے علم والے، سب سے کم تکلف کرنے والے اور حسن بیان میں سب سے بڑھ کر ہیں، اس طرح ایمان میں سب سے سچے، خیرخواہی میں سب سے آگے اور اللہ کے وسیلے کے اعتبار سے قریب تر ہیں۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۷۶ھ) لکھتے ہیں:

وَالَّذِينَ حُفِظُتْ عَنْهُمُ الْفُتُوْيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً وَنِيَّفَ وَثَلَاثُونَ نَفْسًا، مَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةً، وَكَانَ الْمُكْثِرُونَ مِنْهُمْ سَبْعَةُ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةُ امَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ۔ ②

ترجمہ: اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جن حضرات کے فتاوی محفوظ ہیں، ان

① إعلام الموقعين: فصل: أول من وقع عن الله، ج ۱ ص ۷۱

② إعلام الموقعين: فصل: أول من وقع عن الله، ج ۱ ص ۷۱

سب مردوخاتین کی تعداد ایک سو تیس (۱۳۰) سے کچھ اوپر ہے، ان میں سے سات (۷) افراد ایسے ہیں جن سے بکثرت فتاویٰ منقول ہیں، وہ حضرات یہ ہیں:

۱.....حضرت عمر بن خطاب۔ ۲.....حضرت علی بن ابی طالب۔ ۳.....حضرت عبد اللہ بن مسعود۔ ۴.....ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ ۵.....حضرت زید بن ثابت۔ ۶.....حضرت عبد اللہ بن عباس۔ ۷.....حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم۔

یہ سات صحابہ کرام وہ ہیں جن سے کثرت کے ساتھ فتاویٰ منقول ہیں:

وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ مِنْ فَتْوَى كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سِفْرٌ ضَخْمٌ. ①

ترجمہ: ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے فتاویٰ (الگ الگ) ضخیم کتاب میں جمع ہو جائیں۔

وہ فقهاء صحابہ کرام جن سے درمیانی تعداد میں فتاویٰ منقول ہیں ان کی تعداد بیس (۲۰) ہے:

۱.....حضرت ابو بکر۔ ۲.....حضرت ام سلمہ۔ ۳.....حضرت انس بن مالک۔ ۴.....حضرت ابو سعید خدری۔ ۵.....حضرت ابو ہریرہ۔ ۶.....حضرت عثمان بن عفان۔ ۷.....حضرت عبد اللہ بن عمرو۔ ۸.....حضرت عبد اللہ بن زبیر۔ ۹.....حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ ۱۰.....حضرت سعد بن ابی وقار۔ ۱۱.....حضرت جابر بن عبد اللہ۔ ۱۲.....حضرت معاذ بن جبل۔ ۱۳.....حضرت طلحہ۔ ۱۴.....حضرت زبیر۔ ۱۵.....حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ ۱۶.....حضرت عمران بن حصین۔ ۱۷.....حضرت ابو بکرہ۔ ۱۸.....حضرت عبادہ بن صامت۔ ۱۹.....حضرت معاویہ بن ابی سفیان۔ ۲۰.....حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم۔

یہ مذکورہ بالا بیس (۲۰) صحابہ کرام وہ ہیں جن سے اوسط درجے کے ساتھ فتاویٰ منقول ہیں:

① إعلام الموقعين: فصل: أول من وقع عن الله، ج ۱ ص ۷۱

يُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ مِنْ فُتْيَا كُلًّا وَاحِدٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ صَغِيرٌ جِدًا۔ ①

ترجمہ: ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے فتاویٰ بہت ہی چھوٹی جلد میں جمع ہو جائیں۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے بعد ایک سو دس (۱۱۰) صحابہ اور صحابیات کے اسماء ذکر کئے ہیں جو بہت کم فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ان سے ایک، دو یا کچھ زائد مسائل مروی ہیں، یہ قلیل الفتاوی صحابہ کرام ہیں، ان کے فتاویٰ کے متعلق علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

يُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ مِنْ فُتْيَا جَمِيعِهِمْ جُزْءٌ صَغِيرٌ فَقَطُ بَعْدَ التَّقْصِيِّ

وَالْبُحْثِ۔ ②

ترجمہ: ممکن ہے کہ ان تمام صحابہ کے فتاویٰ غور و خوض اور تلاش کے بعد ایک کتاب پر میں جمع ہو جائیں۔

امام الجرج و التعدیل، عظیم نقاد محدث امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ (متوفی ۲۶۳ھ) کی تحقیق کے مطابق ان صحابہ کرام کی تعداد حن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماحت حدیث کا شرف حاصل ہے ایک لاکھ چودہ ہزار (۱۱۳۰۰) ہے۔

ایک شخص نے امام ابو زرعہ رحمہ اللہ سے پوچھا:

يَا أَبَا زُرْعَةَ الْيَسَ يُقَالُ: حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ آلَافِ حَدِيثٍ؟ قَالَ: وَمَنْ قَالَ ذَذَا؟ قَلْقَلَ اللَّهُ أَنِيَابُهُ هَذَا قَوْلُ الزَّنَادِقَةِ، وَمَنْ يُحْصِي حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ؟ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِائَةِ الْأَلْفِ وَأَرْبَعَةَ عَشْرَ الْأَلْفًا مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا أَبَا زُرْعَةَ هَؤُلَاءِ أَئِنَّ كَانُوا وَسَمِعُوا مِنْهُ؟ قَالَ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَمَنْ

① إعلام الموقعين: فصل: أول من وقع عن الله، ج ۱ ص ۷۱

② إعلام الموقعين: فصل: أول من وقع عن الله، ج ۱ ص ۷۱

بَيْنَهُمَا وَالْأَغْرَابُ وَمَنْ شَهِدَ مَعَهُ حَجَّةُ الْوَدَاعِ كُلُّ رَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ يَعْرِفُهُ. ①

ترجمہ: اے ابو زرعہ! کیا یہیں کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار ہزار احادیث مروی ہیں؟ آپ نے فرمایا: جس شخص نے ایسا کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے، یہ زنا دقة کا قول ہے، کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احاطہ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ کرام موجود تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کیا، اس شخص نے کہا: اے ابو زرعہ! یہ صحابہ کہاں قیام پذیر تھے اور کہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کیا؟ آپ نے فرمایا: یہ اہل مدینہ، اہل مکہ اور ان کے گرد و نواح کے رہائشی اور دیہاتی تھے، ان میں وہ سارے حضرات بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک ہوئے اور ان میں سے ہر ایک نے میدانِ عرفات میں آپ کی زیارت بھی کی اور آپ سے سماعِ حدیث بھی کیا۔

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ (متوفی ۴۵۶ھ) اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۷ھ) کی تحقیق کے مطابق فتوی دینے والے صحابہ کرام کی تعداد ایک سو تین (۱۳۰) سے کچھ زائد تھی، اور ان کے درمیان بھی تین طبقات تھی:

۱.....کثیر الفتاوی سات (۷) صحابہ کرام

۲.....او سط الفتاوی بیس (۲۰) صحابہ کرام

۳.....قلیل الفتاوی ایک سو دس (۱۱۰) صحابہ کرام ②

① الجامع لأخلاق الرأوى وآداب السامع: ترتیب مسانید الصحابة، ج ۲ ص ۲۹۳، ۲۹۳، رقم: ۱۸۹۳ / مقدمة ابن الصلاح: النوع التاسع والثلاثون، ص ۲۹۸

② الإحکام فی أصول الأحكام: الباب الشامن والعشرون، ج ۵ ص ۹۲ / إعلام

الموقعين: الصحابة الذين قاموا بالفتوى بعده، ج ۱ ص ۷۱

جیسا کہ ماقبل میں صحابہ کرام کے اسماء کے ساتھ باحوالہ بات گزرنگی، بقول امام ابوذر رحمہ اللہ کے صحابہ کرام کی تعداد جن کو آپ سے شرفِ ساعت حاصل ہے ایک لاکھ چودہ ہزار ہے، لیکن فتویٰ دینے والے صحابہ کی تعداد صرف ایک سوتیس ہے، معلوم ہوا کہ مختص حدیث کو روایت کرنا اور اس میں فقه و بصیرت سے کام لینا و مختلف امور ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان میں سے ہر صحابی منصبِ افتاء پر فائز نہ تھا اگرچہ ان میں جمیع حضرات رواۃ حدیث تھے، اس فرق کے باعث فقہائے عظام اور محدثین کرام کے درمیان حڈ فاصل بھی خود بخود قائم ہو جاتی ہے۔ فقہاء فکری اور علمی اعتبار سے محدثین سے بلند رتبہ کے حامل ٹھہر تے ہیں، کیونکہ محدثین اگر حدیث سے واقف ہیں تو فقہاء حدیث اور اس کے فہم دونوں سے آگاہ ہیں۔ دکتور محمد رواش قلعہ جی نے بڑی تحقیق، جستجو اور تلاش کے ساتھ چند صحابہ کرام کے فتاویٰ کو الگ الگ جمع کیا جو درج ذیل ہیں:

- ۱ موسوعة فقه أبي بكر ۲ موسوعة فقه عمر بن خطاب
 ۳ موسوعة فقه عثمان بن عفان ۴ موسوعة فقه على بن أبي طالب
 ۵ موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ۶ موسوعة فقه عبد الله بن عمر

فتاویٰ دورِ تابعین میں

حضراتِ صحابہ کرام کے بعد فتاویٰ کے لئے اکابر تابعین کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اور یہ حضرات مختلف ایسے شہروں میں پھیلے ہوئے تھے جو مسلمانوں نے اپنی فتوحات کے بعد آباد کئے تھے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَكَانَ الْمُفْتُونَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ التَّابِعِينَ: أَبْنَ الْمُسَيْبِ، وَعُرْوَةُ بْنِ الزُّبَيرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَخَارِجَةُ بْنَ زَيْدٍ، وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثٍ بْنِ هِشَامٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَعَبْيَدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ

مَسْعُودٍ، وَهُؤُلَاءِ هُمُ الْفُقَهَاءُ، وَقَدْ نَظَمَهُمُ الْقَائِلُ فَقَالَ:
إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبُو حُرَيْرَةَ رِوَايَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْعِلْمِ خَارِجَةٌ
فَقُلْ هُمْ عَبْدُ اللَّهِ عُرُوهَةُ قَاسِمٌ سَعِيدُ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَةٌ ①

ترجمہ: مدینہ میں فتویٰ دینے والے تبعین حضرات یہ ہیں:

۱.....حضرت سعید بن مسیب ۲.....حضرت عروہ بن زبیر ۳.....حضرت قاسم بن محمد
۴.....حضرت خارجہ بن زید ۵.....حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام
۶.....حضرت سلیمان بن یسار ۷.....حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود رحمہم اللہ۔
اور انہیں کو ”فقہائے سبعة“ بھی کہا جاتا ہے، ان کے اسماء کو ایک شاعر نے اپنے اس
شعر میں جمع کیا ہے، جب پوچھا جائے کہ علم کے سات سمندر کون ہیں جن کی روایات علم
سے ذرا بھی ہٹ کر نہیں ہوتیں، تو تم کہہ دو کہ وہ عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابو بکر، سلیمان
اور خارجہ ہیں۔

مکہ مکرمہ میں فتویٰ دینے والے امام عطاء بن ابی رباح، امام طاؤس بن کیسان، امام
مجاہد بن جبر، امام عبید بن عمیر، امام عمرو بن دینار، امام عبد اللہ بن ابی ملکیہ، امام عکرمہ رحمہم
اللہ تھے۔

بصرہ میں فتویٰ دینے والے امام عمرو بن سلمہ، امام ابو مریم خنفی، امام حسن بصری، امام
محمد بن سیرین، امام مسلم بن یسار، امام قادہ بن دعامة رحمہم اللہ تھے۔

کوفہ میں فتویٰ دینے والے امام علقہ بن قیس خنفی، امام اسود بن یزید، امام عمرو بن
شرحبیل، امام مسروق، امام شریح بن حارث، امام عبد الرحمن بن یزید رحمہم اللہ تھے۔

شام میں فتویٰ دینے والے امام ابو ادریس خولانی، امام عبد اللہ بن زکریا، امام قبیصہ

بن ذؤبیب، امام سلیمان بن حبیب، امام خالد بن معدان رحمہم اللہ تھے۔
یمن میں فتویٰ دینے والے امام وہب بن منبه صنعاٰنی، امام عبد الرزاق بن ہمام اور
امام سماک بن فضل رحمہم اللہ تھے۔ ①

ان مذکورہ بالا کبار اہل علم کے اکثر فتاویٰ جات موطّات، سنن، مسنّات، مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الآثار، شرح معانی الآثار اور دیگر کتب حدیث میں ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ

آپ کا نام نعمان، والد کا نام ثابت اور دادا کا نام زوطی، فارسی النسل تھے، اللہ تعالیٰ
نے حضرت زوطی کو دولتِ ایمان سے سرفراز فرمایا، ثابت کو بچپن میں ان کے والد حضرت علی
رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ثابت کے لئے اور ان کی
ولاد کے لئے دعا فرمائی، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اس دعا کا ظہور ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے
پوتے امام اسماعیل بن حماد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَنَحْنُ نَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِينَا۔ ②

ترجمہ: اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے حق میں حضرت علی بن
ابی طالب کی دعا قبول فرمائی ہے۔

ابوحنیفہ کنیت کی وجہ

ا..... آپ کی کنیت ابوحنیفہ ہے، لغت میں حنیفہ حنیف کا مُؤنث ہے، حنیف اُسے
کہتے ہیں جو سب لوگوں سے یکسو ہو کر رہے، اسی بناء پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حنیف
.....

① إعلام الموقعين: فصل في المفتين، ج ۱ ص ۳۳ تا ۴۰

② تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ۱۳ ص ۷۲

کہتے ہیں۔ امام عظیم نے یہ کنیت اپنے لئے کیوں تجویز فرمائی جہاں تک رقم کا خیال ہے یہ تفاؤل کی وجہ سے اختیار کی گئی ہے، جیسے عموماً ابوالمحاسن، ابوالحسنات، ابوالکلام وغیرہ کنیتیں رکھی جاتی ہیں۔

۲..... آپ کا حلقة درس وسیع تھا آپ کے شاگرد اپنے ساتھ قلم دوات رکھا کرتے تھے، چونکہ اہل عراق دوات کو حنیفہ کہتے ہیں اس لئے آپ کو ابوحنیفہ کہا گیا ہے، یعنی دوات والے۔

۳..... بعض نے کہا ہے آپ شدت سے حق کی طرف راغب اور کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، لہذا آپ کو ابوحنیفہ کہا گیا۔ ①

بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابوحنیفہ اس لئے ہے کہ آپ کی صاحبزادی کا نام حنیفہ تھا اسی مناسبت کی وجہ سے آپ کو ابوحنیفہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں اس لئے کہ آپ کی کوئی صاحبزادی نہیں تھی اور نہ ہی حماد کے علاوہ آپ کا کوئی اور بیٹا تھا:

وَلَا يَعْلَمُ لَهُ وَلَدٌ ذَكْرٌ وَلَا أَنْشِي غَيْرُ حَمَادٍ۔ ②

امام عظیم کے متعلق نبوی پیشین گوئی

اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ
مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحُقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (الجمعۃ: ۳-۲)

① الخیرات الحسان: الفصل الرابع، ص ۳۲


② الخیرات الحسان: الفصل الرابع، ص ۳۲

ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک (باعظمت) رسول کو بھیجا وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور ان (کے ظاہر و باطن) کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ ان (کے تشریف لانے) سے پہلے کھلی مگر اسی میں تھے، اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی (اس رسول کو تزکیہ و تعلیم کے لئے بھیجا ہے) جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے (جو اس وقت موجود ہیں یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے) اور وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔

ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے:
ایک قسم کے لوگوں میں وہ اُمی لوگ ہیں جنہیں آپ نے بذات خود براہ راست فیض یاب فرمایا، جنہیں آپ کی تلاوت، تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے نور سے روشن کیا ہے۔

دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن نے ”وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يُلْحَقُوا بِهِمْ“ کے الفاظ سے بیان کیا ہے، ان سے مراد وہ لوگ تھے جو ابھی تک صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ملے تھے بلکہ بعد میں آنے والے تھے، مگر آپ کا یہ فیض ان کے لئے بھی بیان ہوا ہے۔

اس آیت مبارکہ کے الفاظ کی تفسیر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يُلْحَقُوا بِهِمْ“ اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی (اس رسول کے تزکیہ و تعلیم کے لئے بھیجا ہے) جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے (جو اس وقت موجود ہیں یعنی ان کے بعد کے زمانہ میں آئیں گے) فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ تین بار یہی سوال کیا، اس وقت ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم



نے اپنا دستِ مبارک حضرت سلمان فارسی پر رکھا پھر فرمایا:

لَوْ كَانَ إِيمَانُ عِنْدَ الشَّرِيَّا لَنَالَهُ رَجَالُ أُو رَجُلٌ مِنْ هُؤُلَاءِ. ①

ترجمہ: اگر ایمان شریا کی بلندیوں پر بھی ہوا تو اس کی قوم میں سے چند اشخاص یا فرمایا: ایک شخص اسے حاصل کر لے گا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی بیان کردہ روایت میں آپ نے فرمایا کہ اس (یعنی حضرت سلمان فارسی) کی قوم فارس کے لوگوں میں سے کچھ لوگ یا ایک شخص آئے گا، اگر ایمان شریا کی بلندیوں تک بھی ہو گا تو وہ اتنی بلندی پر بھی پہنچ کر اس کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اس روایت میں ایک شخص یا چند اشخاص کا بیان ہے، جب کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ اہل فارس اور ابناۓ فارس کی اولاد میں سے ایک شخص ہو گا جس کی طرف آیت کریمہ میں اشارہ ہے، حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الشَّرِيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسٍ أُو قَالَ: مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسٍ حَتَّى يَتَنَوَّلَهُ. ②

ترجمہ: اگر دین اونچ شریا پر بھی ہو تو اہل فارس (یا ابناۓ فارس) میں سے ایک شخص اسے وہاں سے بھی پا لے گا۔

اس حدیث کو نو مختلف صحابہ کرام نے روایت کیا، صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ.....

① صحیح البخاری: کتاب التفسیر، باب قوله: و آخرین منهم لما يلحقوا بهم، ج ۶ ص ۱۵۱، رقم الحدیث: ۷۸۹ / صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة، باب فضل فارس، ج ۳ ص ۱۹۷۲، رقم الحدیث: ۲۵۲۶۔

② صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة، باب فضل فارس، ج ۳ ص ۱۹۷۲، رقم الحدیث: ۲۵۲۶

سے اس روایت کو ان کے تیرہ (۱۳) مختلف شاگردوں نے نقل کیا، اسی طرح دیگر صحابہ سے بھی ان کے مختلف تلامذہ نے اس روایت کو نقل کیا، اس روایت کو مختلف طرق و اسانید کے ساتھ تقریباً اکتیس (۳۱) محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔

اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی کی جو حرف بہ حرفاً مکمل ہوئی، یہ آپ کے معجزات میں سے ہے، آپ نے جس بات کی خبر دی ویسا ہی ہوا، اور اس کا مصدق اکابر اہل علم کے نزدیک امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ قادر پائے۔

امام محمد بن یوسف صالحی شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۹۴۲ھ) نے اس صحیح حدیث کی بنیاد پر اپنی معروف کتاب ”سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد“ میں حضور کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہوئے مستقل ایک باب قائم کیا:

الباب الثالث والخمسون فی إشارته صلی اللہ علیہ وسلم إلی وجود
الإمام أبي حنیفة.

یعنی اس تریپن نمبر باب میں اس حدیث کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابوحنیفہ کے وجود کی پیش گوئی فرمائی۔ علامہ صالحی رحمہ اللہ باوجود یہ کہ شافعی المسلک ہیں انہوں نے اس حدیث کا مصدق امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو قرار دیا اور باقاعدہ اس پر باب قائم کیا، پھر اس کے تحت اس حدیث کے متعدد طرق اور اسانید کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

وما جزم به شيخنا من أن الإمام أبي حنیفة رحمه اللہ عنه هو المراد

من هذا الحديث السابق ظاهر لا شك فيه. ①

ترجمہ: ہمارے شیخ (علامہ جلال الدین سیوطی) نے یقین کے ساتھ فرمایا کہ سابق

① سبل الہدی والرشاد: أبواب معجزاته، الباب الثالث والخمسون، ج ۱۰ ص ۱۱۶

حدیث سے مراد امام ابوحنیفہ ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔

نیز یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی بشارت اور فضیلت کے سلسلے میں اسی روایت پر اعتماد کیا جائے گا:

فهذا أصل صحيح يعتمد عليه في البشارة والفضيلة. ①

علامہ احمد بن حجر یعنی رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۷ھ) نے بھی اس حدیث کا مصدق امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو قرار دیا، آپ نے عنوان قائم کیا:

فيما ورد من تبشير النبي بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

پھر فرمایا کہ حافظ محقق جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (متوفی ۹۱۱ھ) نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی بشارت کے سلسلے میں اس صحیح اصل پر اعتماد کیا جائے گا، اور اس میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی کامل فضیلت ہے:

قال الحافظ المحقق الجلال السيوطي: هذا أصل صحيح يعتمد

عليه في البشارة بأبي حنيفة رحمه الله وفي الفضيلة التامة. ②

اندازہ کجھے کہ تینوں جلیل القدر ائمہ علماء جلال الدین سیوطی، علماء محمد بن یوسف صالحی، علامہ احمد بن حجر یعنی رحمہم اللہ باوجود یہکہ یہ تینوں شافعی المسیک ہیں انہوں نے اس حدیث کا مصدق صرف امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو قرار دیا ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی تفصیلی سوانحِ حیات، آپ کا مقام و مرتبہ، سو (۱۰۰) اہل علم کی آپ کے متعلق آراء، فنِ حدیث اور فقہ میں آپ کی جلالتِ شان، کتاب الآثار اور آپ کی آنٹیس (۲۹) مسانید کا تعارف، آپ پر کئے گئے نقد و جرح کے تفصیلی جوابات کے لئے رقم آنٹیس.....

❶ سبل الهدی والرشاد: أبواب معجزاته، الباب الثالث والخمسون، ج ۰۱

ص ۱۱۶ / **تبییض الصحیفۃ: ذکر تبییض الصحیفۃ**: ذکر تبییض الصحیفۃ صلی اللہ علیہ وسلم، ص ۲۱۔

❷ الخیرات الحسان: المقدمۃ الثالثة، ص ۲۳

کی کتاب ”امام عظیم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا محدثانہ مقام“ کا مطالعہ کریں۔

علم شریعت کے مدّون اول امام عظیم ابو حنیفہ رحمہ اللہ
 فقہ کی باضابطہ تدوین کا شرف سب سے پہلے جس شخصیت کو حاصل ہوا وہ امام عظیم
 ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، اسی لئے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا:

من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة.

اس کا اعتراف تمام ہی منصف مزاج علماء نے کیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ
 اللہ (متوفی ۹۱۹ھ) فرماتے ہیں:

إنه أول من دون علم الشريعة ورتبها أبواً ثم تبعه مالك بن أنس في
 ترتيب الموطا ولم يسبق أبو حنيفة أحد. ①

ترجمہ: امام ابو حنیفہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم شریعت کی تدوین کی اور اسے ابواب
 کی صورت میں مرتب کیا، پھر موطا کی ترتیب میں امام مالک نے انہیں کی پیروی کی، امام ابو
 حنیفہ سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔

علامہ ابن حجر عسکری رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۹ھ) فرماتے ہیں:

إنه أول من دون علم الشريعة ورتبها أبواباً وكتباً على نحو ما هو عليه
 اليوم وتبعه مالك في موطئه. ②

ترجمہ: امام ابو حنیفہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم فقہ کو مدون کیا اور کتاب اور باب پر
 اس کو مرتب کیا جیسا کہ آج موجود ہے اور امام مالک نے اپنی موطا میں انہیں کی اتباع کی
 ہے۔

① تبیيض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة: أول من دون علم الشريعة، ص ۱۲۹

② الخیرات الحسان: الفصل الثاني عشر، ص ۱۳۲

پھر اہم بات یہ ہے کہ امام صاحب نے دوسرے فقہاء کی طرح انفرادی طور پر اپنی آراء مرتب نہیں کیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح شورائی انداز اختیار کیا، چنانچہ علامہ موفقؒ کی رحمہ اللہ (متوفی ۵۶۸ھ) فرماتے ہیں:

فوضع أبو حنيفة مذهبہ شوری بینهم لم يستمد بنفسه دونهم.

ترجمہ: امام ابوحنیفہ نے اپنا مذہب شورائی رکھا، آپ شرکا نے شوری کو چھوڑ کر تنہا اپنی رائے مسلط نہیں کرتے۔

اس کا نتیجہ تھا کہ بعض اوقات ایک مسئلہ پر ایک ماہ یا اس سے زیادہ بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری رہتا تھا، چنانچہ امام موفقؒ کی رقم طراز ہیں:

كَانَ يَتَقَى مَسْأَلَةً يَقْلِبُهُمْ وَيَسْمَعُ مَا عَنْهُمْ وَيَقُولُ مَا عَنْهُ وَيَنْظَرُهُمْ

شہروأوأکثر من ذلک حتی یستقر أحد الأقوال فیها. ①

ترجمہ: امام صاحب ایک ایک مسئلہ پیش کرتے، ان کے خیالات کا جائزہ لیتے اور ان کی بھی باتیں سنتے، اپنے خیالات پیش کرتے اور بعض اوقات ایک ماہ یا اس سے زیادہ تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رکھتے یہاں تک کہ کوئی ایک قول متعین ہو جاتا۔

مجلس فقہ میں شریک اکابر علماء اور ان کے سنین وفات

عام طور پر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس مجلس میں اپنے عہد کے چالیس ممتاز علماء شامل تھے، لیکن ان کے سنین وفات اور امام صاحب رحمہ اللہ سے والستگی کے زمانہ کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ یہ سارے لوگ شروع سے آخر تک اس کام میں شریک نہیں رہے، بلکہ مختلف ارکان نے مختلف ادوار میں کاریڈوین میں ہاتھ بٹایا اور ان میں بعض وہ تھے جنہوں نے آخری زمانہ میں اس کام میں شرکت کی، عام طور پر شرکاء مجلس کے اسماء ایک جگہ نہیں

ملتے، مفتی عزیز الرحمن صاحب اور ڈاکٹر محمد میاں صدیقی صاحب نے ان ناموں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے اور ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی نے ان ہی کے حوالہ سے اسے نقل کیا ہے، نام اس طرح ہیں:

- ۱..... زفر بن ہذیل رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۸ھ) ۲..... مالک بن مغول رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۹ھ)
- ۳..... داود طائی رحمہ اللہ (متوفی ۱۶۰ھ) ۴..... مندل بن علی رحمہ اللہ (متوفی ۱۶۸ھ)
- ۵..... نصر بن عبد الکریم رحمہ اللہ (متوفی ۱۶۹ھ) ۶..... عمرو بن میمون رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۱ھ)
- ۷..... حبان بن علی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۲ھ) ۸..... ابو عصمه رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۳ھ)
- ۹..... زہیر بن معاویہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۳ھ) ۱۰..... قاسم بن معن رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۵ھ)
- ۱۱..... جماد بن ابی حنیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۶ھ) ۱۲..... ہیانج بن بطام رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۶ھ)
- ۱۳..... شریک بن عبد اللہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۸ھ) ۱۴..... عافیہ بن یزید رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۱ھ)
- ۱۵..... عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۱ھ) ۱۶..... نوح بن دراج رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۲ھ)
- ۱۷..... امام ابو یوسف رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۲ھ) ۱۸..... ہشیم بن بشیر سلمی رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۳ھ)
- ۱۹..... ابوسعید بیجی بن زکریا رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۳ھ) ۲۰..... فضیل بن عیاض رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۷ھ)
- ۲۱..... اسد بن عمرو رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۸ھ) ۲۲..... محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ)
- ۲۳..... علی بن مسہر رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ) ۲۴..... یوسف بن خالد رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ)
- ۲۵..... عبد اللہ بن ادریس رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۲ھ) ۲۶..... فضل بن موسیٰ رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۲ھ)
- ۲۷..... حفص بن غیاث رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۳ھ) ۲۸..... وکیع بن جراح رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۷ھ)
- ۲۹..... ہشام بن یوسف رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۷ھ) ۳۰..... تیجی بن سعید اقطان رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۸ھ)
- ۳۱..... شعیب بن اسحاق رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۸ھ) ۳۲..... ابو حفص بن عبد الرحمن رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۹ھ)
- ۳۳..... ابو مطیع بلخی رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۹ھ) ۳۴..... خالد بن سلیمان رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۹ھ)

- ۳۵.....عبدالحمید رحمہ اللہ (متوفی ۲۰۳ھ)ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ (متوفی ۲۱۲ھ)
 ۳۶.....سکی بن ابراہیم رحمہ اللہ (متوفی ۲۱۵ھ)جہاد بن دلیل رحمہ اللہ (متوفی ۲۱۵ھ) ①

استنباط مسائل میں امام اعظم رحمہ اللہ کا طریقہ کار

خطیب بغدادی رحمہ اللہ (متوفی ۳۶۳ھ) علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ (متوفی ۳۶۳ھ) اور علامہ حسین بن علی صیری رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۶ھ) نے بہ سند متصل آپ سے نقل کیا ہے:
 آخذ بكتاب اللہ، فما لم اجد فبستة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فان لم اجد فی كتاب اللہ ولا بسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخذ بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم وادع من شئت منهم، ولا اخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا، فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا. ②

ترجمہ: میں (کسی بھی شرعی مسئلہ کا حل) کتاب اللہ (قرآن مجید) سے لیتا ہوں۔ اگر اس میں نہیں پاتا تو پھر سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہوں، اور اگر مجھے اس مسئلہ کا حل کتاب اللہ اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے نہیں ملتا تو پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار کو لیتا ہوں۔ ان میں سے جس کا قول (مجھے راجح معلوم ہوتا ہے) لے لیتا ہوں، اور جس کا قول (مرجوح معلوم ہو) اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، البتہ ان کے آثار کی موجودگی میں کسی غیر صحابی کا قول قبول نہیں کرتا۔ اور جب معاملہ

① قاموس الفقه: ج ۱، ص ۳۶۰، ۳۶۱

② تاریخ بغداد: ترجمۃ: النعمان بن ثابت، ما ذکر من وفور عقل أبي حنیفة، ج ۱۳
 ص ۳۶۵ / الانتقاء فی فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء : ثناء العلماء على أبي حنیفة،
 ص ۱۲۲ / أخبار أبي حنیفة وأصحابه: ما روى عن أبي حنیفة في الأصول، ص ۲۲

ابراهیم نجعی، شعبی، ابن سیرین، حسن بصری، عطاء بن ابی رباح، سعید بن مسیب اور ان جیسے دیگر تابعین تک پہنچ جائے (تو چونکہ وہ بھی میری طرح مجتهدین تھے، لہذا) جیسے انہوں نے اجتہاد کیا ہے میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔

امام ذہبی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۷ھ) نے اس سلسلے میں آپ سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:

آخذ بكتاب الله، فما لم اجد فبسنة رسول صلی الله علیہ وسلم،
والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فان لم اجد
فيقول أصحابه آخذ بقول من شئت، وأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم
والشعبی والحسن وعطاء ، فاجتهد كما اجتهدوا. ①

ترجمہ: میں (مسائل شرعیہ کا حل) کتاب اللہ سے لیتا ہوں، اگر اس میں نہ ملتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ان صحیح احادیث سے لیتا ہوں، جو ثقہ راویوں کے ہاتھوں میں ثقہ راویوں کے ذریعے عام پھیل چکی ہیں، اور اگر ان دونوں (قرآن و سنت) میں مجھے کوئی حکم نہیں ملتا تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی کے قول کو لے لیتا ہوں، اور جب معاملہ ابراہیم نجعی، عامر شعبی، حسن بصری اور عطاء بن ابی رباح جیسے مجتهدین تابعین پر آٹھھرتا ہے تو جیسے انہوں نے اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔

فقہ حنفی کے مصادر

بنیادی طور پر فقہ حنفی کے مصادر کے تین حصے کئے گئے ہیں:

۱..... مسائل الاصول ۲..... مسائل النوادر ۳..... فتاویٰ اور واقعات

(۱) مسائل الاصول

جن کو ظاہر الروایہ بھی کہتے ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جو انہمہ مذہب لیعنی امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ سے مردی ہیں، ان تین حضرات کو ”انہمہ ثالثہ“ کہا جاتا ہے، یہ وہ مسائل ہیں جنہیں امام محمد رحمہم اللہ نے اپنی مندرجہ ذیل چھ (۶) کتابوں میں ذکر کئے ہیں:

- ۱..... المبسوط.
- ۲..... الجامع الصغیر.
- ۳..... الجامع الكبير.
- ۴..... الزیادات.
- ۵..... السیر الصغیر.
- ۶..... السیر الكبير.

ان کو ”ظاہر الروایہ“ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ امام محمد رحمہم اللہ سے شہرت کے ساتھ قابلِ اعتماد راویوں کے ذریعے منقول ہیں۔

(۲) مسائل النوادر

یہ وہ مسائل ہیں جو مذکورہ بالا انہمہ مذہب ہی سے منقول ہیں مگر وہ امام محمد رحمہم اللہ کی مذکورہ بالا چھ کتابوں میں مذکور نہیں ہیں، بلکہ آپ کی دیگر فقہی کتابوں میں مذکور ہیں، جیسے کیسانیات (یہ وہ مسائل ہیں جو شعیب بن سلیمان رحمہم اللہ نے امام محمد رحمہم اللہ سے روایت کئے ہیں) ہارونیات (یہ وہ مسائل ہیں جو ہارون الرشید کے لئے یا اس سے تعلق کے زمانے میں بیان کئے ہیں) جرجانیات (یہ وہ مسائل ہیں جو علی بن صالح جرجانی رحمہم اللہ نے امام محمد رحمہم اللہ سے روایت کئے ہیں) رقیات (یہ وہ مسائل ہیں جن کو آپ نے ریقة شہر میں قیام کے دوران بیان کیا، ان مسائل کو امام ابن سماعہ رحمہم اللہ نے آپ سے روایت کیا ہے)

چونکہ یہ کتابیں امام محمد رحمہ اللہ کی پہلی چھ کتابوں کی طرح واضح، ثابت اور صحیح روایات کے ساتھ مروی نہیں ہیں، اس لئے ان کو ”مسائل الموارد“ اور ”مسائل غیر ظاہر الروایہ“ کہا جاتا ہے۔

(۳) الفتاویٰ والواقعات

فتاویٰ اور واقعات ایک ہی مفہوم کے لئے دو لفظ ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جن کو بعد کے مجتہدین نے اس وقت مستنبط کیا جب ان سے وہ مسائل دریافت کئے گئے، اور انہے مذہب متفقہ میں سے ان مسائل کے بارے میں انہیں کوئی روایت نہیں ملی۔ ①

كتب حنفیہ کا تعارف

متون حنفیہ

۱..... ”مختصر القدوری“، امام ابو الحسین احمد بن محمد قدوری رحمہ اللہ (متوفی ۴۲۸ھ)

۲..... ”المختار للفتوی“، علامہ مجدد الدین موصیٰ رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۳ھ)

۳..... ”مجمع البحرین“، علامہ مظفر الدین ساعاتی رحمہ اللہ (متوفی ۶۹۲ھ)

۴..... ”کنز الدقائق“، امام ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد نسفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷ھ)

۵..... ”الوقایة“، امام محمود بن احمد بن عبید اللہ بن ابراہیم تاج الشریعہ الحجوی رحمہ اللہ

علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) لکھتے ہیں:

طبقۃ المقلدین القادرین علی التمییز بین الاقوی والقوی والضعیف
وظاهر المذهب والرواية النادرة کا صاحب المتون المعتبرة من المتأخرین
مثل صاحب الکنز وصاحب المختار وصاحب الوقایة وصاحب المجمع

و شأنہم أن لا ينقلوا الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. ②

① شرح عقود رسم المفتی: طبقات المسائل ثلاثة، ص ۲۵، ۲۶، ۲۷

② رد المختار على الدر المختار: ج ۱ ص ۷۷

ترجمہ: مقلدین کا طبقہ جو اقویٰ، قویٰ اور ضعیف کے درمیان تمیز کرنے پر قادر ہیں، نیز ظاہر نہ ہب اور نادر روایات کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، جیسے متاخرین میں متون معتبرہ کے مصنفین مثلاً صاحب کنز (امام نسفی) صاحب مختار (علامہ مجدد الدین موصی) صاحب وقاریہ (تاج الشریعہ محمود بن احمد) صاحب مجمع (علامہ ابن ساعاتی) ان حضرات کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں مردود اقوال اور ضعیف روایتیں نقل نہ کریں۔

متون ثلاثة سے مراد ”الوقایة، مختصر القدوری، کنز الدقائق“ ہے، اور متون اربعہ سے مراد بعض کے نزدیک ”الوقایة، کنز الدقائق، المختار، مجمع البحرين“ ہے، اور بعض کے نزدیک ”الوقایة“ کی جگہ ”مختصر القدوری“ ہے۔ اور بعض کے ہاں متون اربعہ میں ”الوقایة، مختصر القدوری، کنز الدقائق“ کے ساتھ ”المختار“ یا ”المجمع“ ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) لکھتے ہیں:

اعلم أن المتأخرین قد اعتمدوا على المتون الثلاثة: الوقایة و مختصر القدوری والکنز، ومنهم من اعتمد على الأربعة: الوقایة والکنز والمختار ومجمع البحرين.

ترجمہ: متاخرین نے تین متون پر اعتماد کیا ہے، ”الوقایة، مختصر القدوری، کنز الدقائق“ اور بعض نے چار متون پر (اعتماد کیا ہے) ”الوقایة، الکنز، المختار، مجمع البحرين“ ①

المراد بقولهم المتون الثلاثة: الوقایة والکنز و مختصر القدوری،
وإذا أطلقوا المتون الأربعة أرادوا هذه الثلاثة والمختار أو المجمع. ②

① النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: ص ۲۶

② عمدة الرعایة: مقدمة، ص ۰۱

ترجمہ: (اہل علم) کے ہاں متونِ ثلاٹ سے مراد "الوقایة، الکنز، مختصر القدوری" ہیں، اور جب متونِ اربعہ مطلق ذکر ہوتا اُس سے مراد مذکورہ بالاتینوں کے ساتھ "المختار" یا "المجمع" ہے۔

ان متون اور ان پر کمھی گئی شروح، حواشی اور تعلیقات کا تعارف ان شاء اللہ آگے آئے گا۔

۱..... کتاب الخراج

یہ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن جیب رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۲ھ) کی تصنیف ہے، یہ کتاب خلیفہ ہارون الرشید کی خواہش پر کمھی گئی، اس کتاب میں شریعت کی روشنی میں نظمِ مملکت بالخصوص مالیاتی نظام اور اس سے متعلقہ بعض ضروری امور کی وضاحت کی گئی ہے۔ کتاب کے شروع میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کتاب کا سبب تالیف ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

هَذَا مَا كَتَبَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ هَارُونَ الرَّشِيدِ: أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءً أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَدَمَ لَهُ الْعِزَّ فِي تَمَامِ مِنَ النِّعْمَةِ، وَدَوَامِ مِنَ الْكَرَامَةِ، وَجَعَلَ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مَوْصُولاً بِنَعِيمِ الْآخِرَةِ الَّذِي لَا يَنْفَدُ وَلَا يَزُولُ، وَمُرَافَقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَالِنِي أَنْ أَضَعَ لَهُ كِتَابًا جَامِعًا يَعْمَلُ بِهِ فِي جِبَائِيَّةِ الْخَرَاجِ، وَالْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْجَوَالِيِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ النَّظَرُ فِيهِ وَالْعَمَلُ بِهِ.

ترجمہ: یہ وہ دستاویز ہے جو ابو یوسف نے امیر المؤمنین ہارون الرشید کو ارسال فرمائی۔

تھی، اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کی عمر دراز کرے اور ان کو ہمیشہ ہر طرح کی نعمتوں کے ساتھ شان و شوکت سے سرفراز فرمائے۔ خدا کرے آج ان پر جوانعامات ہو رہے ہیں اس کے بعد انہیں آخرت کے لازوال اور غیر فانی انعامات بھی ملیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب ہو۔ امیر المؤمنین نے مجھ سے ایک جامع تحریر طلب کی ہے جس کو وہ خراج، عشر، صدقات اور جزیہ کی تحریص میں اپنا دستور العمل بناسکین اور جوان کے دوسرے امور میں بھی ان کی رہنمائی کر سکے، جن پر غور و فکر کرنا اور عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔

یہ کتاب دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی، جبکہ اس وقت کوئی اور قابل ذکر تصنیف اس سلسلہ میں موجود نہیں تھی، گویا یہ اس فن پر لکھی جانے والی پہلی جامع کتاب ہے۔ اس کتاب میں مالیاتی نظام سے متعلق تمام اہم معلومات بیکجا ہیں۔ اس کتاب میں مال غنیمت کی تقسیم، عشر، جزیہ، غیر آباد زمینوں کی آباد کاری، کنوں، نہروں، دریاؤں اور آپاشی سے متعلقہ مسائل، باغیوں، چوروں، مرتدوں اور ذمیوں سے متعلق مسائل، سرحدوں کی حفاظت، باغیوں سے جنگ، تجارتی لیکس اور مذہبی آزادی کی حدود اور دیگر اہم عنوان پر سیر حاصل بحث ہے۔ اس کتاب میں کثرت کے ساتھ احادیث اور آثار کا ذکر ہے اور بے شمار مسائل میں ان سے استدلال و استشهاد بھی کیا ہے۔ عموماً یہ روایات آپ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہیں، جس سے آپ کے محدثانہ مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کتاب میں مرفوع، موقوف اور مقطوع روایات کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق چھ سو (۶۰۰) سے زائد ہے۔ یہ کتاب ط عبد الرؤف سعد اور سعد حسن محمد کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ ایک جلد میں ”المطبعة السلفیة“ قاهرہ سے طبع ہے۔

اس کتاب کے متعلق علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۳ھ) فرماتے ہیں:

ولم يُؤْلِفْ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ طَبَقَتِهِ مِثْلُ هَذَا الْكِتَابِ، بَلْ لَوْ قَلَّنَا: لَمْ يُؤْلِفْ

مثله، لم نكن مُغالين، فمن طالع الكتاب وقارنه بالكتب التي ألفت في هذا الباب اعترف بذلك. ①

ترجمہ: اس طبقہ میں اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس کتاب کا مطالعہ کرے اور اس عنوان پر لکھی گئی دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کرے تو وہ ضرور اعتراف کرے گا کہ اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی، ہم اس بات میں غلوکرنے والے نہیں ہیں (یعنی ہماری یہ رائے افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال پر ہے)۔

۲..... الرد على سير الأوزاعي

یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۲ھ) کی تالیف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے تلامذہ کو مختلف مسائل املاع کرواتے تھے، تو آپ کے کئی شاگردوں نے ان مسائل کو جمع کیا، اس میں آپ نے جہاد، مال غنیمت، قیدیوں سے متعلق مسائل، باغیوں سے تعلقات کی نوعیت، اہل ذمہ اور حربیوں سے تعلقات کی نوعیت، اس طرح کے دیگر جنگوں سے متعلق مسائل آپ نے بیان کئے۔ یہ مسائل جب تحریری صورت میں امام اوزاعی رحمہ اللہ تک پہنچے تو انہوں نے اس کا رد لکھا، جب یہ رد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے آیا تو آپ نے پھر یہ کتاب تصنیف کی۔ اس میں پہلے آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بیان کرتے ہیں، مگر دلائل ذکر نہیں کرتے، پھر امام اوزاعی رحمہ اللہ کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور ان کے دلائل بھی بیان کرتے ہیں، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کے دلائل کا عقلی و نقلي دونوں طرح سے رد کرتے ہیں، پوری کتاب میں عمومی طور پر یہی اسلوب ہے۔ اس میں زیادہ تر دلائل احادیث و آثار پر مشتمل ہیں، ایک اندازے کے مطابق اس میں مرفوع اور موقوف روایات کی تعداد دو سو

سے زائد ہے۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ (۱۳۰) صفحات میں ”احیاء المعارف النعمانیة“ ہندوستان سے ۱۳۵ھ میں شائع ہوئی۔

۳..... اختلاف ابی حنیفة و ابن ابی لیلی

یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۲ھ) کی تصنیف ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۸ھ) کے درمیان اختلاف مسائل کو بیان کیا ہے، اس میں نماز، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، حدود، قضاء، دیت، وصیت، وراثت، بیع سلم، بیع مضاربہ، مزارعت، رہن، اجارہ، قرض، صدقہ، ہبہ اور غصب سے متعلق اختلافی مسائل بیان کئے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اختلافی مسائل میں پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بیان کرتے ہیں، پھر ساتھ اپنی رائے بھی ذکر کرتے ہیں، جو عموماً یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یا میری رائے بھی یہی ہے۔ پھر امام ابن ابی لیلی رحمہ اللہ کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں۔ پھر امام ابن ابی لیلی رحمہ اللہ کے دلائل کے جوابات روایت اور درایت کی روشنی میں دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کی ترجیح بیان کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعصُّب سے کسوں دور تھے، اس لئے پچاس سے زائد مسائل میں آپ نے امام ابن ابی لیلی رحمہ اللہ کے موقف کو ترجیح دی ہے۔ یاد رہے کہ امام ابن ابی لیلی رحمہ اللہ امام ابو یوسف کے استاذ ہیں، آپ نے ان سے نو سال تک علم حاصل کیا، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا۔ آپ نے امام ابن ابی لیلی رحمہ اللہ کی صحبت کیوں چھوڑی اس سلسلے کے متعدد واقعات کے لئے تفصیلاً دیکھیں: ①

امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جابجا احادیث و آثار بھی ذکر کیں جن کی

① المبسوط للسرخسی: کتاب اختلاف ابی حنیفة و ابن ابی لیلی: ج ۳۰ ص ۱۲۸ تا ۱۳۰

مجموعی تعداد ایک سو سے زائد ہے۔ یہ کتاب علامہ ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۵ھ) کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ ”احیاء المعارف النعمانیة“ ہند سے ۱۳۵۷ھ میں طبع ہوئی ہے۔

فاائدہ: امام ابوحنیفہ اور امام ابن الیلی رحمہما اللہ کے درمیان ان اختلافی مسائل کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جمع کیا تھا، اس لئے درحقیقت یہ انہی کی تصنیف ہے، امام محمد رحمہ اللہ نے یہ مسائل امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے سنے تھے تو انہوں نے ان مسائل کو انہی کی سند کے ساتھ ذکر کیا، اور بعض ان مسائل کا بھی اضافہ کیا جو انہوں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سنے تھے، تو اصل تصنیف تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ہے، لیکن تالیف کے اعتبار سے اس کی نسبت امام محمد رحمہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور آپ کی تصانیف میں ان کا شمار کیا جاتا ہے:

ثُمَّ أَحَبَّ أَنْ يَجْمَعَ الْمَسَائِلَ الَّتِي كَانَ فِيهَا إِلَاتِلَافٌ بَيْنَ أُسْتَادِيهِ
فَجَمَعَ هَذَا التَّصْنِيفَ وَأَخَذَ ذَلِكَ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَوَى عَنْهُ ذَلِكَ إِلَّا
إِنَّهُ زَادَ بَعْضًا مَا كَانَ سَمِعَ مِنْ غَيْرِهِ فَأَصْلُ التَّصْنِيفِ لِابْنِ يُوسُفَ وَالتَّالِيفُ
لِمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَعُدَّ ذَلِكَ مِنْ تَصْنِيفِ مُحَمَّدٍ. ①

۳..... کتاب الآثار لأبی یوسف

یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۲ھ) کی تصنیف ہے، اس کتاب میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جو انہوں نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے سنی ہیں، جن سے انہوں نے اپنی فقہی مسائل میں استدلال کیا ہے۔ یہ کتاب فقہی ابواب کی ترتیب پر ہے، ”باب الوضوء“ سے اس کا آغاز ہے اور ”باب الذبائح والجن“ پر مکمل ہے۔

اس کا اختتام ہے۔ اس کتاب میں مرفوع، موقوف اور مقطوع روایات کی تعداد (۱۰۶۷) ہے۔ صرف مرفوع روایات کی تعداد (۲۲۱) ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اس کتاب کو ان کے صاحبزادے (امام یوسف رحمہ اللہ) نے ان سے روایت کیا ہے، چنانچہ علامہ عبد القادر قرقشی رحمہ اللہ (متوفی ۷۷۵ھ) لکھتے ہیں:

وروی کتاب الآثار عن أبي حنیفة وہو مجلد ضخم۔ ①

ترجمہ: (امام یوسف) نے ”کتاب الآثار“ کو اپنے والد (امام ابو یوسف) سے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے، یہ کتاب ایک خمین جلد میں ہے۔

اس کتاب میں اس سند سے روایات ہیں ”حدثنا یوسف عن أبيه عن أبي حنیفة“

”کتاب الآثار“ میں امام ابو حنیفہ سے مروی ثانی روایات کی اسناد اس کتاب سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی علم حدیث میں جالست شان کا اندازہ ہوتا ہے، اس کتاب میں متعدد روایات ثانی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف دو واسطے ہیں، مثلًا:

۱..... عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

اس سند کے ساتھ تین احادیث ہیں۔

۲..... عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

۳..... عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا۔

- ۳..... عن أبي حنيفة، عن عطاء بن يساري، عن ابن عمر رضي الله عنهمَا۔ ①
- ۴..... ”عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه“، اس سند کے ساتھ اس کتاب میں سات احادیث ہیں، دیکھئے: ②
- ۵..... ”عن أبي حنيفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه“، اس سند کے ساتھ اس کتاب میں تین احادیث ہیں، دیکھئے: ③
- ۶..... ”عن أبي حنيفة عن عبد الله بن أبي حبيبة، قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه“، اس سند کے ساتھ اس کتاب میں ایک حدیث موجود ہے، دیکھئے: ④
- ۷..... ”عن أبي حنيفة عن عطية العوفى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه“، اس سند کے ساتھ روایت دیکھئے: ⑤
- ۸..... ”عن أبي حنيفة عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه“، اس سند کے ساتھ روایت دیکھئے: ⑥
- ۹..... ”عن أبي حنيفة عن محمد بن قيس عن أبي عامر الشفوي أنه كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم إلخ“، اس سند کے ساتھ روایت دیکھئے: ⑦
- امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے مروی شانی روایات کی تعداد
..... یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ انہے صحابہ میں سے کسی کی روایات شانی
.....
- ۱ کتاب الآثار: رقم الحديث: ۷۱، ۹۱، ۱۲۶، ۱۸، ۱۷، ۳۷۵، ۲۲۵
- ۲ کتاب الآثار: رقم الحديث: ۱۰۳۲، ۱۰۳۱، ۱۰۳۹، ۱۰۰۰، ۲۹۹، ۵۷۱، ۵۱۱
- ۳ کتاب الآثار: رقم الحديث: ۸۲۹، ۵۸۱، ۵۸۰
- ۴ کتاب الآثار: رقم الحديث: ۸۳۳، ۸۹۱
- ۵ کتاب الآثار: رقم الحديث: ۹۰۹، ۷۹۲

نہیں ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں روایات آپ سے ثانی مروی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ثانی روایات، تعلیق و تحقیق اور تخریج کے ساتھ مولانا عبدالعزیز تیجی السعدی نے اپنی کتاب ”الإمام الأعظم أبو حنیفة والشائیات فی مسانیده“ میں جمع کی ہیں، آپ سے مروی ثانی روایات کی تعداد (۲۱۹) ہے۔ اس کتاب کے مقدمہ میں محقق اعصر حضرت مولانا عبدالحیم چشتی صاحب مدظلہ لکھتے ہیں:

فشنایات الإمام الأعظم رحمه الله مبعثرة و منتشرة في مسانيده، وفي
غيره من الكتب التي تحمل روایات الإمام فعدد جميع مروياته الشائية
حوالى تسعه عشر و مائتين حديثاً أو أكثر.

ترجمہ: امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ثانی روایات جو آپ کی مسانید اور دیگر کتب میں منتشر طور پر پھیلی ہوئی ہیں، ان احادیث کی تعداد دو سو انیس (۲۱۹) یا اس سے زائد ہے۔

یہ کتاب ”دار الكتب العلمية“ سے ۲۰۰۵ء میں طبع ہوئی ہے۔ کتاب کے آخر میں جن واسطوں سے روایات مروی ہیں، یعنی صحابہ و تابعین، ان کی مختصر سوانح بھی ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ثلاثی اور رباعی روایات کی تعداد

امام بخاری رحمہ اللہ کی سب سے عالی سند ثلاثی ہے، ”صحیح بخاری“ میں صرف بالائیں (۲۲) ثلاثی روایات موجود ہیں، اگرچہ ان میں سے اکثر حنفی روایات سے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ثلاثی روایات کی تعداد ”جامع المسانید“ میں چھ سو ستر (۶۷) ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عالی اسانید میں آخری درجہ رباعیات کا ہے، جو امام مسلم اور امامنسائی رحمہما اللہ کی مروایات میں سب سے عالی درجہ ہے، یعنی ان حضرات کی سب سے

عالی سند رباعی ہے، امام صاحب سے مروی رباعی روایات کی تعداد ”جامع المسانید“ میں ایک سو پچاس (۱۵۰) ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ”جامع المسانید“ میں روایات کی تعداد تقریباً ایک ہزار سات سو دس (۱۷۱۰) ہے، جس میں مرفوع، موقوف، مقطوع، منقطع، مرسل ہر قسم کی روایات شامل ہیں۔ صرف مرفوع روایات کی تعداد نبوسولہ (۹۱۶) ہے:

واعلم أن جميع ما في جامع المسانيد من مرويات الإمام أبي حنيفة
تقربياً ألف وسبعمائة وعشرة آثار بين مرفوع وموقوف ومقطوع ومنقطع
ومرسل فالمرفوع منها تسعمائة حديث وستة عشرة حديشا۔ ①

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایات کے اہم مصادر

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شانی، ثلاثی اور رباعی روایات کے متون کے لئے ”كتاب الآثار للإمام محمد، كتاب الآثار لأبي يوسف“ اور ”جامع المسانيد“ کا مطالعہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسانید سے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے محقق العصر حضرت مولانا محمد امین اور کرنی شہید رحمہ اللہ کی ”مسانید الإمام أبي حنيفة“ کا مطالعہ کریں۔ ”كتاب الآثار“ کی احادیث کی شرح کے لئے سب سے مفصل اور محقق شرح حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن شاہ بھٹاں پوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۶ھ) کی ”قلائد الأزهار على كتاب الآثار“ ہے، جو تین صفحیں جلدیں میں ہے، علامہ ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ اس شرح کے متعلق فرماتے ہیں:

”شرح حسنالمیر مثلہ“ یعنی یہ نہایت مفید شرح ہے، اس جیسی شرح نہیں دیکھی۔
کاش کوئی علم حدیث اور رجال پر عمیق نظر رکھنے والا صاحب علم و قلم اس شرح کو تعلیق و تحقیق

① مسانید الإمام أبي حنيفة للشيخ محمد أمين الأوركزى: ص ۱۵۹

اور تخریج کے ساتھ عمده طباعت سے شائع کروائے تو یہ اصحابِ ذوق کے لئے ایک گراں قدر علمی سرمایہ ہو گا (اس شرح کا ایک قدیم نسخہ ”دارالعلوم کراچی“ کی لامبریری میں موجود ہے)۔

فائدہ: امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی سوانح، آپ کی تابعیت، شہر کوفہ کی قدر و منزلت، دس محدثین اساتذہ و تلامذہ کا تعارف، سوا کا برابر اہل علم کی نظر میں آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کے اصول حدیث، فن جرح و تعدیل میں آپ کا مقام، ”کتاب الآثار“ کا تفصیلی تعارف، انتیس (۲۹) مسانید اور ان کے مصنفین کا تعارف، صحابہ سے روایت حدیث، محدثین کی نظر میں آپ کی بلند پایہ فقاہت کا بیان، تالیفات امام اعظم، فقہ حنفی کے خصائص و امتیازات، آپ پر نقد و جرح اور اس کے تفصیلی جوابات، آپ کی ذکاوت کے پچاس (۵۰) دلچسپ واقعات اور گراں قدر علمی و تحقیقی معلومات کے لئے رقم کی کتاب ”امام اعظم ابوحنیفہ کا محدثانہ مقام“ کا مطالعہ کریں۔

۵ المخارج والحیل

یہ کتاب امام ابویوسف رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۲ھ) کی طرف منسوب ہے، لیکن راج بات یہ ہے اس کتاب کی نسبت امام ابویوسف رحمہ اللہ کی طرف کرنا درست نہیں ہے، یہ ان کی تصنیف نہیں ہے۔ امام ابویوسف رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کتاب کو نقل کرنے والے بعض روّات کذاب ہیں اور بعض مجہول ہیں۔ علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۳ھ)

”مناقب أبي حنيفة و أصحابيه“ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

إنه روایة الكذاب ابن الكذاب ابن الكذاب محمد بن الحسين بن الحميد عن محمد بن بشر الرقى عن خلف بن بيان، روایة مجہول عن مجہول، فلا یصح الاعتماد عليه. ①

① مناقب أبي حنيفة و أصحابيه للذهبی: ص ۵۳

ترجمہ: یہ کذاب ابن کذاب کی روایت سے منقول ہے، یعنی محمد بن الحسین بن حمید، محمد بن بشر الرقی سے اور وہ خلف بن بیان سے نقل کرتے ہیں، یہ مجهول کی روایت مجهول سے ہے، لہذا اس پر اعتقاد درست نہیں ہے۔

لہذا اس کتاب میں موجود حبیلوں کی وجہ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ یا علامے احناف پر طعن تشنیع کرنا درست نہیں ہے۔

۲ المبسوط

امام محمد رحمہ اللہ کی چھ کتابوں میں سب سے پہلے کبھی جانے والی کتاب ”المبسوط“ ہے، اس کو ”الأصل“، بھی کہتے ہیں، اس کو اصل یا تو اس لئے کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تصنیف کی گئی، یا یہ باقیہ سب کتابوں سے اہم اور مفصل ہے، نیز یہ ظاہر الروایہ کی دیگر کتابوں کے لئے بنیاد ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) فرماتے ہیں:

وَاشْتَهِرَ الْمَبْسُوْطُ بِالْأَصْلِ وَذَا لِسْبُقِهِ السِّتَّةَ تَصْنِيْفًا كَذَا

ترجمہ: اور مبسوط اصل کے نام سے مشہور ہوئی ہے، اور یہ بات ان کی چھ تصنیف میں مقدم ہونے کی وجہ سے ہے (پس یہ گویا دیگر کتابوں کے لئے بنیاد ہے)۔ ①

حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۴۰ھ) لکھتے ہیں:

وللإمام محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى سنة ۱۸۹) تسع
وثمانين ومائة. ألفه: مفردا، فأولاً: ألف مسائل الصلاة، وسماه: كتاب
الصلاه وسائل البيوع وسماه: كتاب البيوع وهكذا: الأيمان والإكراء،
ثم جمعت، فصارت مبسوطاً. وهو المراد حيث ما وقع في الكتب: قال

① شرح عقود رسم المفتی: معنی کتب الأصل، ص ۵۷

محمد فی کتاب فلان (المبسوط) کذا۔ ①

ترجمہ: امام محمد شیبانی (متوفی ۱۸۹ھ) کی کتاب مبسوط کو انہوں نے پہلے الگ الگ لکھا تھا، سب سے پہلے انہی میں نماز کے مسائل لکھے اور اس کا نام ”کتاب الصلاۃ“ رکھا، پھر انہوں نے تو ان کا نام ”کتاب البيوع“ رکھا، یہی صورتِ حال ”کتاب الأیمان“ اور ”کتاب الإکراه“ کی ہے، پھر انہوں نے ان کتابوں کو جمع کیا تو ”المبسوط“ وجود میں آگئی اور جہاں کہیں کتب فقہ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ امام محمد نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے تو اس سے مراد یہی (مبسوط کے اجزاء) ہوتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فقهاء اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے مثلاً ”کتاب المضاربة“ یا ”کتاب الماذون“ میں یہ بات لکھی ہے تو ان کی مراد مبسوط کی یہی کتابیں ہوتی ہیں۔

خطیب بغدادی رحمہ اللہ (متوفی ۳۶۳ھ) ابو علی حسن بن داود رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

فخر أهل البصرة بأربعة كتب، منها كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب الحيوان له، وكتاب سيبويه، وكتاب الخليل في العين. ونحن نفتخر بسبعة وعشرين ألف مسألة في الحلال والحرام عملها رجل من أهل الكوفة يقال له محمد بن الحسن قياسية عقلية لا يسع الناس جهلها. ②

ترجمہ: بصرہ والے چار کتابوں پر فخر کرتے ہیں، (۱) امام جاحظ کی ”البيان والتبيین“، (۲) امام جاحظ کی ”کتاب الحیوان“، (۳) امام سیبویہ کی ”الکتاب“، (۴)

❶ کشف الظنون: المبسوط فی فروع الحنفیة، ج ۲ ص ۱۵۸۱

❷ تاریخ بغداد: ترجمہ: محمد بن الحسن بن فرقہ، ج ۲ ص ۱۷۳، ۱۷۲

امام خلیل بن احمد کی ”العین“، اور ہم اہل کوفہ ان سب کے مقابلے میں حلال و حرام کے ان ستائیں ہزار مسائل پر فخر کرتے ہیں جو کوفہ کے ایک شخص نے جس کا نام محمد بن حسن ہے، (انہوں نے اسے جمع کیا ہے) یہ ایسے قیاس اور عقلی دلائل پر بنی مسائل ہیں کہ لوگوں کے لئے ان سے جاہل رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ کی اس کتاب کو آپ کے تلامذہ کی ایک جماعت نے نقل کیا، جیسے امام ابو سلیمان جوز جانی، محمد بن سماعہ تیمی، ابو حفص الکبیر بخاری رحمہم اللہ، اس کتاب کا مشہور نسخہ وہ ہے جو ابو سلیمان جوز جانی رحمہ اللہ سے منقول ہے۔

اہل کتاب میں سے ایک عقلمند شخص نے مبسوط کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا:

هذا كتاب محمدكم الأصغر! فكيف كتاب محمدكم الأكبر؟ ①
 ترجمہ: جب تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ عالم ہے تو تمہارے بڑے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کتاب (قرآن) کا کیا حال ہوگا۔

اس کتاب کے بہت سے مسائل امام محمد رحمہ اللہ نے ان کے سوالات کے جوابات کے طور پر بیان کئے ہیں، اور بہت سے مسائل از خود بھی بیان کئے ہیں، کتاب کے آغاز میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قد بيَّنت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي وما لم يكن فيه
 اختلاف فهو قولنا جميعاً. ②

ترجمہ: میں نے تمہارے سامنے امام ابوحنیفہ، امام ابویوسف اور اپنا قول واضح کر کے بیان کیا اور جس مسئلے میں اختلاف بیان نہیں کروں تو وہ ہم سب کا متفقہ قول ہوگا۔

① کشف الظنون: المبسوط فی فروع الحنفیة، ج ۲ ص ۱۵۸۱

② المبسوط: ج ۱ ص ۱

اس کتاب کے طرزِ تالیف اور اسلوب کے متعلق علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۷۱ھ) لکھتے ہیں:

وطریقتہ فی الكتاب سرد الفروع علی مذهب أبی حنیفة، وابی یوسف، مع بیان رأیہ فی المسائل، ولا یسرد الأدلة حيث تكون الأحادیث الدالة علی المسائل بمتناول جمهور الفقهاء من أهل طبقته، وإنما یسردھا فی مسائل ربما تعزب أدلتھا عن علمھم فلو جُردت الآثار من هذا الكتاب الضخم تكون فی مجلد لطف. ①

ترجمہ: امام محمد کا اس کتاب میں طریقہ کاریہ ہے کہ وہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے مذهب پر فروعات ذکر کرنے کے ساتھ ان مسائل میں اپنی رائے کو بھی بیان کرتے ہیں، ان مسائل پر دلالت کرنے والی ایسی احادیث جو ان کے طبقے میں سے جمہور فقهاء کی پہنچ چکی ہوں وہ ذکر نہیں کرتے۔ وہ احادیث کو صرف ان مسائل میں ذکر کرتے ہیں جہاں بسا اوقات عام فقهاء کے علم میں دلائل غائب رہتے ہیں۔ اگر اس ضخیم کتاب سے آثار کو الگ کر کے جمع کیا جائے تو وہ ایک مختصر سے جلد میں آجائیں گے۔

علامہ کوثری رحمہ اللہ کی خواہش تھی کہ اس کتاب کی روایات و آثار کو الگ کر کے شائع کیا جائے، یہ روایات اب تک الگ سے طبع تو نہیں ہیں، البتہ ان روایات کی تعداد کتنی ہے، تو ”الأصل“ کا وہ نسخہ جو دکتور محمد بیونوکالن کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ ”دار ابن حزم“ بیروت سے طبع ہے، انہوں نے اس کتاب کے شروع میں نہایت علمی و تحقیقی مقدمہ لکھا ہے، جس میں امام محمد رحمہ اللہ کی سوانح اور ”الأصل“ سے متعلق تفصیلی معلومات ذکر کی ہیں، اس میں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے ”عدد الروایات فی کتاب الأصل“ اس کے تحت

① بلوغ الأمانی فی سیرة الإمام محمد الشیبانی: ص ۶۱



لکھا کہ اس کتاب میں احادیث و آثار کی تعداد (۱۶۳۲) ہے۔ ①

اب اگر ان احادیث و آثار کو تعلیق و تحقیق کے ساتھ الگ سے شائع کر دیا جائے تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔

اس کتاب کو محقق العصر علامہ ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۵ھ) نے نہایت جستجو، تلاش اور مختلف نسخوں سے موازنہ کر کے تحقیق کے بعد شائع کیا ہے، اس نسخے میں مندرجہ ذیل سولہ (۱۶) کتابیں ہیں:

۱ کتاب الصلاۃ ۲ کتاب الحیض ۳ کتاب الزکاۃ
۴ کتاب ما یوضع فیہ الخمس ۵ کتاب الصوم ۶ کتاب نوادر
الصوم ۷ کتاب المناسک ۸ کتاب التحری ۹ کتاب
الاستحسان ۱۰ کتاب الأیمان ۱۱ کتاب المکاتب ۱۲ کتاب
الولاء ۱۳ کتاب الجنایات ۱۴ کتاب الديات ۱۵ کتاب
العلل ۱۶ کتاب البيوع

یہ نسخہ مندرجہ بالاسولہ (۱۶) کتابوں پر مشتمل ہے، یہ نسخہ پانچ (۵) جلدوں میں طبع ہے، لیکن یہ ناقص ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ لکھتے ہیں:

لکن المطبوع من الكتاب ليس كاملا، بل هو مشتمل على ستة عشر كتابا، بينما كتاب "الأصل" يحتوى على ثلاثة و خمسين كتابا، ذكرها

الندیم فی "الفهرست" ②

ترجمہ: لیکن اس کتاب کا شائع شدہ حصہ مکمل کتاب نہیں، بلکہ وہ صرف اس کی سولہ

① الأصل: مقدمة المحقق، ج ۱ ص ۱۹۷

② أصول الإفتاء وآدابه: ص ۱۲۱

کتابوں پر مشتمل ہے، جبکہ یہ کتاب یعنی ”الأصل“ تریپن (۵۳) کتابوں پر مشتمل تھی، جیسا کہ ندیم نے ”الفہرست“ میں ذکر کیا ہے۔

علامہ ندیم (متوفی ۹۳۸ھ) نے ”الفن الشانی: فی أخبار أبي حنيفة وأصحابه العراقيین“ کے عنوان کے تحت ان تریپن (۵۳) کتابوں کے نام ذکر کئے ہیں، دیکھئے تفصیلاً: ①

(نوت: اہل علم اسے ”ابن ندیم“ کہتے اور لکھتے ہیں یہ درست نہیں، ندیم اس کی صفت ہے اس کے والد کی نہیں، اس کا نام ”محمد بن اسحاق بن محمد“ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۲ھ) نے اس کے ترجمہ میں صرف ”الندیم“ ذکر کیا ہے بغیر لفظ ”ابن“ کے۔ اسی طرح کتاب کے آخر میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ”الندیم صاحب الفہرست) محمد بن إسحاق“ ②

اسی طرح ”الفہرست“ کا وہ نسخہ جو شیخ ایمن فواد سید کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ طبع ہے، اس کے مقدمہ میں بھی محقق نے اس کی تصریح کی ہے۔

”الأصل“ کا وہ نسخہ جو دکتور محمد بولینو کان کی تحقیق کے ساتھ طبع ہے، اس کے شروع میں (۳۱۲) صفحات پر نہایت محققانہ مقدمہ ہے، محقق نے ایک عرصہ دراز لگا کر اس کتاب کے (۷۱) نسخوں اور مخطوطات کو جمع کیا، پھر نہایت عرق ریزی کے ساتھ ان میں موازنہ کر کے تحقیق کے ساتھ اسے طبع کیا۔ محقق نے مقدمہ میں ”الموجود من كتاب الأصلاليوم“ کے عنوان کے تحت لکھا کہ یہ نسخہ جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ستاون (۷۵) کتابوں پر مشتمل ہے، پھر انہوں نے کتاب کی ترتیب کے مطابق ان کے اسماء ذکر کئے جو درج ذیل ہیں:

① الفہرست: ج ۱ ص ۲۵۳، ۲۵۴ ② لسان المیزان: حرف المیم، ترجمہ:

محمد بن إسحاق بن محمد، ج ۵ ص ۷۲، ۷۳ / ج ۷ ص ۱۲۱

الصلوة والحيض والزكاة والصوم والتحرى والاستحسان والأيمان
والبيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة والإجرات والشركة
والمضاربة والرضاع والطلاق والعتاق والعتق في المرض والصيد
والذبائح والوصايا، والوصايا في الدين والعين والفرائض والمكاتب
والولاء والجنایات والديات الدور والحدود والسرقة والإکراه والسير
والخرج والعشر والدعوى والبيانات والشرب والإقرار والوديعة والعارية
والحجر والعبد المأذون والشفعه والخنزى والمفقود وجعل الآبق والعقل
والحيل واللقطة والمزارعة والنکاح والحوالہ والکفالة والصلح والوکالة
والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة والغصب۔ ①
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اب بھی ہمارے پاس جو نسخہ ہے یہ نقص ہے اور بہت سی اہم
كتب جیسے ”كتاب السجادات“، كتاب أدب القاضي، كتاب حساب الوصايا،
كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، كتاب الشروط“، وغيرها اس میں
موجود نہیں ہیں۔ ②

”الأصل“، کے مطبوعہ نسخوں میں یہ سب سے جامع اور محقق ہے، جو ستاون (۵۷) میں
کتابوں پر مشتمل ہے، یہ نسخہ ۱۲ جلدوں میں ”دار ابن حزم“، بیروت سے ۱۳۳۳ھ
بمطابق ۲۰۱۲ء میں شائع ہوا ہے۔

اس کتاب کا دوسرا نسخہ علامہ ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ طبع
ہے، جو سولہ (۱۶) کتابوں پر مشتمل ہے۔ ۵ جلدوں پر مشتمل یہ نسخہ ”ادارة القرآن والعلوم
الإسلامية“، کراچی سے طبع ہے۔

① الأصل: مقدمة المحقق، ج ۱ ص ۱۱۵

② الأصل: مقدمة المحقق، ج ۱ ص ۱۱۵

”المبسوط“ کی چار شروحات

۱..... شمس الائمه حلواني رحمه اللہ (متوفی ۳۳۸ھ) نے مبسوط کی شرح لکھی جو ”شرح المبسوط“ کے نام سے معروف ہے، اس شرح کا ایک نسخہ ”مکتبہ سلیمانیہ آیا صوفیہ“ میں رقم (۱۳۸۱) کے تحت موجود ہے، جو (۸۵۲) اوراق پر ہے۔

دکتور محمد بولینو کالن کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نسخہ مبسوط کی شرح نہیں ہے بلکہ امام حاکم شہید رحمہ اللہ کی ”الكافی“ کی شرح ہے، میں نے یہ نسخہ خود دیکھا ہے۔
امام حلوانی رحمہ اللہ نے دو کتابیں لکھی تھیں، ایک مبسوط کی شرح تھی جو ہم تک نہیں پہنچی اور دوسرا کافی کی شرح ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ ①

۲..... امام علی بن منصور اسپیجی بی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۰ھ) کی یہ شرح ”شرح المبسوط لاسپیجابی“ کے نام سے معروف ہے، ان کی تصانیف میں ”شرح مختصر الطحاوی“ بھی ہے، اس کتاب کی نقول بعض کتب احناف میں موجود ہیں، دیکھئے: ②

۳..... فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۲ھ) کی یہ شرح ”المبسوط للفتاویٰ“ کے نام سے معروف ہے، اس کتاب کا نسخہ ”مکتبہ بازیزید“ میں رقم (۱۳۵۲) کے تحت موجود ہے، اور اس پر یہ عنوان ہے ”المبسوط للفتاویٰ لفخر الإسلام على البازدوي“، اس نسخہ کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ مبسوط کی شرح ہے۔ یہ نسخہ ناقص ہے، (۲۳۱) اوراق پر مشتمل ہے، اس کتاب کا اسلوب مبسوط کے اسلوب سے مختلف ہے، اس میں مسائل کے عقلی دلائل اور علتوں کا ذکر ہے اور جا بجا فقہی وجدید اصطلاحات کو بھی

① الأصل: مقدمة المحقق، ج ۱ ص ۷۱

② كشف الأسرار: ج ۲ ص ۲۳۵ / التلویح: ج ۲ ص ۳۲۶

استعمال کیا ہے، درج ذیل کتب حنفیہ میں اس کی نقول موجود ہیں۔ ①

شیخ الاسلام امام ابو بکر خواہزادہ رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ) کی شرح ”مبسوط البکری“ کے نام سے معروف ہے۔ یہ کتاب اب تک مفقود ہے، البتہ بعض کتب حنفیہ میں اس کی نقول موجود ہیں، (مثلاً ”المحيط البرهانی“ ج اص ۲۵، ۲۸، ج ۲۸ ص ۱۱۹)

ان دو شروحات کا ذکر حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے (کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۵۸۱)

میں کیا ہے۔

”المبسوط“ کے نام سے لکھی گئی دس کتابیں علمائے احناف میں سے بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے ”المبسوط“ کے نام سے کتابیں لکھیں، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۰ھ) نے متفرق مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے:

(۱) امام ابو یوسف رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۲ھ) کی ”المبسوط“
 (۲) امام محمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ) کی ”المبسوط“، ”جو الأصل“ کے نام سے معروف ہے۔

(۳) امام ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۳ھ) کی ”المبسوط للسمرقندی“

(۴) شمس الائمه حلوانی رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۸ھ) کی ”شرح المبسوط“

(۵) علامہ علاء الدین اسیجیابی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۰ھ) کی ”شرح المبسوط

للاء سبیح حابی“

(۶) علامہ فخر الاسلام بزدوجی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۲ھ) کی ”شرح المبسوط“

① کشف الأسرار: ج ۱ ص ۳۲، ۲۳۷، ۲۸۲، ج ۳ ص ۲۸۲ / التلویح: ج ۱ ص ۳۸۵

التقریر والتحبیر: ج ۲ ص ۱۶۲، ج ۳ ص ۲۲۲

- (۷) شمس الائمه سرخسی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ) کی ”المبسوط للسرخسی“ جو ”دار المعرفة“ سے ۳۰ جلدوں میں میں طبع ہے۔
- (۸) شیخ الاسلام خواہ زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ) کی ”مبسوط البکری“
- (۹) صدر الاسلام ابوالیسر محمد بن محمد البزر دوی رحمہ اللہ (متوفی ۳۹۳ھ) کی ”المبسوط للبزر دوی“
- (۱۰) علامہ ناصر الدین محمد بن یوسف سرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۵۵۶ھ) کی ”المبسوط“ ①

۔۔۔ الجامع الصغیر

امام محمد رحمہ اللہ نے ”المبسوط“ کے بعد ”الجامع الصغیر“ لکھی ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) فرماتے ہیں:

الْجَامِعُ الصَّغِيرُ بَعْدَهُ فَمَا فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ لِذَاتِ قَدْمَاهُ ②

ترجمہ: مبسوت کے بعد ”الجامع الصغیر“ (باقی کتابوں سے مقدم) ہے، لہذا جو بات ”الجامع الصغیر“ میں ہے وہ اسی وجہ سے ”مبسوط“ سے مقدم ہے (چونکہ ”الجامع الصغیر“ کی تصنیف بعد میں ہے اس لئے وہ بمنزلہ ناخن ہے اور بوقت تعارض اس کے اقوال اصل (مبسوط) کے اقوال سے مقدم ہوں گے۔)

حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۶ھ) نے ”الجامع الصغیر“ کا تعارف ان الفاظ میں کیا ہے:

وهو كتاب قدیم مبارک مشتمل على: ألف و خمسين و اثنتين
.....

① کشف الظنون: ج ۱ ص ۸۱، ج ۲ ص ۱۳۷۸، ج ۲ ص ۱۵۸۰، ج ۱ ص ۱۵۸۱

② شرح عقود رسم المفتی: ص ۴۷



وثلاثين مسألة، كما قال البزدوى. وذكر الاختلاف في مائة وسبعين مسألة، ولم يذكر القياس والاستحسان إلا في مسائلتين. والمشایخ يعظمونه حتى قالوا: لا يصلح المرء للفتوى ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله. ①

ترجمہ: ”الجامع الصغير“، ایک قدیم اور بار برکت کتاب ہے، امام بزدوى رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پندرہ سو بیس (۱۵۳۲) مسائل پر مشتمل ہے، اس میں ایک سو ستر (۱۷۰) مسائل میں اختلاف ہے، قیاس اور استحسان کا ذکر صرف دو مسائل میں ہے، مشائخ اس کتاب کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کوئی شخص فتویٰ دینے کی اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھنا جب تک کہ اُسے اس کتاب کے مسائل کا علم نہ ہو۔

”الجامع الصغير“ کا سبب تالیف

علامہ سرسی رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۸۳ھ) ”الجامع الصغير“ کی شرح میں اس کتاب کے سبب تالیف میں یہ بات نقل کی ہے:

كان سبب تأليف محمد: أنه لما فرغ من تصنيف الكتب، طلب منه أبو يوسف أن يؤلف كتاباً يجمع فيه ما حفظ عنه مما رواه له عن أبي حنيفة، فجمع ثم عرضه عليه، فقال: نعماً حفظ عنى أبو عبد الله إلا أنه أخطأ في ثلاط مسائل، فقال محمد: أنا ما أخطأت، ولكنك نسيت الرواية. ②

ترجمہ: اس کتاب کی تالیف کا سبب یہ ہے کہ جب امام محمد گیر کتابوں کی تالیف سے فارغ ہوئے تو امام ابو یوسف نے جتنے مسائل ان کو امام ابو حنیفہ سے روایت کئے ہیں اور ان کو یاد ہیں وہ سب جمع کر دیں۔ انہوں نے یہ مسائل جمع کر کے یہ کتاب امام ابو یوسف کے

① کشف الظنون: الجامع الصغير، ج ۱ ص ۵۶۳

② کشف الظنون: الجامع الصغير، ج ۱ ص ۵۶۳

سامنے پیش کی، تو امام ابو یوسف نے (ان کی تحسین کرتے ہوئے) فرمایا کہ انہوں نے مسائل کو خوب یاد رکھا لیکن تین مسائل میں ان سے غلطی ہوئی ہے، اس پر امام محمد نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے لیکن آپ اپنی روایت کو بھول گئے ہیں۔

نوت: یہ تین مسائل نہیں ہیں بلکہ چھ مسائل ہیں، ان چھ مسائل کو علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۰ھ) نے ”باب الوتر والنوافل“ میں نقل کیا ہے، اہل علم حضرات اصل کتاب کی طرف مراجعت فرمائیں، دیکھئے: ①

”الجامع الصغير“ کے متعلق اہل علم کی آراء
امام علی القمي رحمہ اللہ (متوفی ۳۰۵ھ) فرماتے ہیں:

أن أبا يوسف مع جلاله قدره كان لا يفارق هذا الكتاب في حضر ولا سفر. ②

ترجمہ: امام ابو یوسف اپنی جلالت شان کے باوجود سفر و حضر میں بھی اس کتاب کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابنا، ومن حفظه كان أحفظ أصحابنا، وأن المتقدمين من مشايخنا كانوا لا يقلدون أحد القضاء حتى يمتحنوه، فإن حفظه قلدوه القضاء، وإنما أمروه بالحفظ. ③

ترجمہ: جو شخص یہ کتاب سمجھ گیا تو وہ ہمارے علماء میں سب سے زیادہ فہم رکھنے والا ہو گا،

❶ البحر الرائق: كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ج ۲ ص ۲۵، ۲۶

❷ كشف الظنون: الجامع الصغير، ج ۱ ص ۵۲۳

❸ كشف الظنون: الجامع الصغير، ج ۱ ص ۵۲۳

اور جس نے یہ کتاب یاد کر لی تو وہ ہمارے علماء میں سب سے زیادہ یادداشت والا ہو گا، ہمارے مشائخ متقد میں تو کسی کو عہدہ قضاء اس وقت تک نہیں سونپتے تھے جب تک اس کتاب کا امتحان اس سے نہ لے لیتے۔ اگر اس کو یہ کتاب یاد ہوتی تو وہ اس کو عہدہ قضاء سونپ دیتے ورنہ اس کو حکم دیتے کہ تم یہ کتاب یاد کرو۔

بادشاہ معظم ایوبی رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ جس کو ”الجامع الكبير“ حفظ ہوتی اُسے سو (۱۰۰) دینار اور جسے ”الجامع الصغير“ حفظ ہوتی اُسے پچاس (۵۰) دینار دیتے: و کان عادته ان يعطى مائة دينار لمن يحفظ الجامع الكبير، و خمسين دينار لمن يحفظ الجامع الصغير. ①

”الجامع الصغير“ کے مسائل کی نوعیت

حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۰ھ) نقل کرتے ہیں:

أن أكثر مسائله مذكورة في المبسوط، وهذا لأن مسائل هذا الكتاب تنقسم ثلاثة أقسام: قسم لا يوجد لها رواية إلا هاهنا. وقسم يوجد ذكرها في الكتب، ولكن لم ينص فيها أن الجواب قول أبي حنيفة أم غيره، وقد نص هاهنا في جواب كل فصل على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وقسم ذكرها أعادها هنا بلفظ آخر، واستفيد من تغيير اللفظ فائدة لم تكن مستفادة باللفظ المذكور في الكتب، قال: ومراده بالقسم الثالث ما

ذكره الفقيه: أبو جعفر الهندواني في مصنف سماه: (كشف الغواض) ②

ترجمہ: ”الجامع الصغير“ کے زیادہ تر مسائل ”مبسوط“ میں موجود ہیں، اس لئے

① کشف الظنون: الجامع الكبير، ج ۱ ص ۵۶۹

② کشف الظنون: الجامع الصغير، ج ۱ ص ۵۶۳

کہ درحقیقت اس کتاب کے مسائل کی تین قسمیں ہیں (۱) وہ مسائل جن کی روایت اس کتاب کے علاوہ کہیں نہیں پائی جاتی۔ (۲) وہ مسائل جن کا ذکر دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے لیکن وہاں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ مسئلہ امام ابوحنیفہ کے قول کے مطابق ہے، یا کسی اور کے قول کے، جبکہ یہاں ”الجامع الصغیر“ میں اس باب کی ہر فصل کے ہر مسئلے میں تصریح ہے کہ امام ابوحنیفہ کا قول ان میں سے کون سا ہے۔ (۳) وہ مسائل (جود دیگر کتابوں میں موجود ہیں لیکن) امام محمد نے ان کو یہاں دوبارہ الگ الفاظ سے بیان کیا ہے، اور الفاظ کے بد لئے سے ایسا فائدہ حاصل ہو گیا ہے جو پہلی کتابوں میں ذکر کردہ الفاظ سے حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی مراد تیسری قسم سے وہ مسائل ہیں جنہیں فقیہ ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف کردہ کتاب ”کشف الغواض“ میں ذکر کیا ہے۔

”الجامع الصغیر“ کے مؤلف اور مرتب

امام قاضی خان رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۲ھ) ”الجامع الصغیر“ کی شرح میں لکھتے ہیں:

واختلفوا فی مصنفه، قال بعضهم: هو من تأليف أبي يوسف ومحمد،
وقال بعضهم: هو من تأليف محمد، فإنه حين فرغ من تصنیف المبسوط،
أمره أبو يوسف أن يصنف كتاباً ويروى عنه، فصنف ولم يرتب مسائله،
 وإنما رتبه أبو عبد الله: الحسن بن أحمد الزعفراني، الفقيه، الحنفي
المتوفى: سنة عشر وستمائة تقريباً۔ ①

ترجمہ: علماء کا اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ ”الجامع الصغیر“ کا مصنف کون ہے؟ بعض حضرات نے اس کو امام ابو یوسف اور امام محمد کی مشترکہ تالیف کہا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ امام محمد کی تالیف ہے، کیوں کہ امام محمد جب ”المبسوط“

کی تالیف سے فارغ ہوئے تو امام ابو یوسف نے ان کو حکم دیا کہ وہ ایک کتاب لکھیں جس میں امام ابو یوسف سے مسائل روایت کریں، امام محمد نے اس کتاب کی تالیف تو کی مگر ترتیب نہیں دی، ابو عبد اللہ حسن بن احمد زعفرانی الفقیر الحنفی نے اس کتاب کو مرتب کیا، ان کی سن وفات تقریباً چھ سو دس (۶۱۰ھ) ہے۔

یہ بات اہل علم کے ہاں وثوق سے ثابت ہے کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ کی تالیف ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف نسبت شاید اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کتاب کی تالیف کا حکم دیا تھا۔

اس کتاب کو ابو عبد اللہ حسن بن احمد زعفرانی رحمہ اللہ (متوفی ۶۱۰ھ) نے مرتب کیا ہے، اور ان کی ترتیب نہایت عمدہ ہے، انہوں نے اُن مسائل کو جو امام محمد امام ابو یوسف رحمہما اللہ سے نقل کرتے ہیں الگ کر کے بیان کیا ہے، نیز انہوں نے اس کتاب کو ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ ①

(نوت: امام زعفرانی رحمہ اللہ کی سن وفات میں تسامح ہے، اس لئے کہ امام زعفرانی رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام محمد رحمہ اللہ کا انتقال (۱۸۹ھ) میں ہوا ہے، اور اُن کے شاگرد کا انتقال (۶۱۰ھ) میں، استاذ اور شاگرد کے درمیان (۳۲۱) سال کا تباعد ہے، اگر شاگرد کی عمر اس قدر واقعی طویل ہوتی تو تراجم احناف میں اس کا یقیناً تذکرہ ہوتا، اُن کے شاگرد ہونے پر علامہ بدرا الدین عینی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ) اور علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۱ھ) کی تصریحات موجود ہیں:

ثم رتبها الزعفرانی على هذا الترتيب الذي عليه اليوم، والزعفرانی

هذا تلميذ محمد بن الحسن. ②

الفوائد البهية: ص ۲۰

البنيان: كتاب الكفالۃ، فصل في الضمان، ج ۸ ص ۲۷۳

فَإِنَّهُ تَرْتِيبٌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزَّعْفَرَانِيِّ تَلْمِيذٌ مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ فَإِنَّهُ غَيْرَ تَرْتِيبٍ مُحَمَّدٍ إِلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْآنَ۔ ①

امام زعفرانی رحمہ اللہ کے متعلق معلومات بہت کم ملتی ہیں، اس لئے تحقیقی طور پر معلوم نہیں ہوا کہ ان کی سن وفات کیا ہے، واللہ اعلم

”الجامع الصغیر“ کے دوسرے مبوب اور مرتب قاضی محمد بن محمد ابو طاہر دباس رحمہ اللہ ہیں، جو امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے معاصر ہیں، یہ نسخہ علامہ صدر الشہید کی شرح کے ساتھ طبع ہے۔ اس ترتیب کا ذکر دکتور محمد بولینو کالن نے ”الجامع الصغیر“ کے تعارف میں کیا ہے۔ ②

”الجامع الصغیر“ کے شروع میں ہے:

ثُمَّ إِنَّ الْقَاضِيَ الْإِمَامَ أَبَا طَاهِرِ الدَّبَّاسَ بْنَ بُوْبَهِ وَرَتِبَهُ لِيُسْهَلَ عَلَى المُتَعَلِّمِينَ حِفْظَهُ وَدِرَاسَتِهِ۔ ③

ترجمہ: پھر قاضی ابو طاہر دباس نے (اس کتاب کی) تبویب اور ترتیب کا اہتمام کیا، تاکہ طلباء کرام کے لئے اس کا پڑھنا اور حفظ کرنا آسان ہو۔

”الجامع الصغیر“ کا اسلوب تحریر

امام محمد رحمہ اللہ ہر باب کے شروع میں اس سند کے ساتھ مسائل نقل کرتے ہیں ”محمد عن یعقوب عن أبي حنیفة“، امام محمد رحمہ اللہ نے اس کتاب میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ذکر ان کے نام کے ساتھ کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کنیت کے ساتھ کسی

① فتح القدیر: کتاب الكفالۃ، فصل فی الضمان، ج ۷ ص ۲۲۶

② الأصل: مقدمة المحقق، ج ۱ ص ۳۲

③ الجامع الصغیر وشرحه النافع الكبير: ص ۲

کاذکر تعظیم کے لئے ہوتا ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ دونوں کے شیخ تھے، اس لئے ان کاذکر کنیت کے ساتھ کیا ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں تو ان کاذکر اپنے شیخ کے ساتھ نام سے کیا ادب اور تعظیم کی وجہ سے۔ یا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے خود فرمایا تھا کہ جب میرا ذکر میرے شیخ امام ابوحنیفہ کے ساتھ ہو تو میرا نام ذکر کیا کرو۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی دیگر تصنیف میں آپ کاذکر کنیت کے ساتھ کیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا اس لئے ان کاذکر کنیت کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔

امام کاتب اتقانی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۷ھ) ہدایہ کی شرح ”غاية البيان ونادرۃ الأقران“ کے ”باب الأذان“ میں لکھتے ہیں:

ذَكْرُ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي رِوَايَةِ الْمُسَائِلِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبِ
(وَهُوَ اسْمُ أَبِي يُوسُفِ) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى لا يَكُونُ وَهُمُ التَّسْوِيَةُ فِي
الْتَّعْظِيمِ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ لَاَنَّ الْكُنْيَةَ لِلتَّعْظِيمِ وَكَانَ مُحَمَّدٌ مَأْمُورًا مِنْ أَبِي
يُوسُفَ أَنْ يَذْكُرَهُ بِاسْمِهِ حَيْثُ يَذْكُرُ أَبَا حَنِيفَةَ فَعَنْ هَذَا قَالَ مَشَاikhُنَا إِنْ مِنْ
الْأَدَبِ أَنْ لَا يَدْعُوا الطَّلَبَةَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ بِلِفْظِ مَوْلَانَا عِنْدَ أَسْتَاذِهِمْ احْتِرَازًا
عَنِ التَّسْوِيَةِ بَيْنِ الْأَسْتَاذِ وَالْتَّلَمِيذِ. ①

ترجمہ: امام محمد نے ”الجامع الصغیر“ میں مسائل روایت کرنے میں امام ابو یوسف کا تذکرہ ان کی کنیت سے نہیں کیا بلکہ نام (یعقوب) سے کیا ہے، تاکہ شیخین کے درمیان تعظیم میں برابری کا وہم نہ ہو، کیونکہ کنیت تعظیم کے لئے ہوتی ہے، اور امام محمد کو خود امام ابو یوسف کی طرف سے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ جہاں وہ امام ابوحنیفہ کا تذکرہ کریں

وہاں ان کا صرف نام ذکر کریں، اسی بنیاد پر ہمارے مشائخ بخارا نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ادب میں شامل ہے کہ بعض طلبہ دیگر طلبہ کو اپنے استاد کی موجودگی میں ”مولانا“ کے لفظ سے نہ پکاریں تاکہ استاد اور شاگرد کے درمیان تعظیم میں برابری سے بچا جاسکے۔

”الجامع الصغیر“ کی متنوع خدمات

علمائے احناف نے اس کتاب کی مختلف جہات سے خدمت کی ہے، بعض نے شروحات لکھیں، بعض نے حواشی لکھے، بعض نے تلخیصات کیں، بعض نے اسے منظوم کیا۔ اس کتاب کی شروحات کا تفصیلًا ذکر علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) نے ”النافع الكبير“ کی ”الفصل الرابع فی ذکر شراح الجامع الصغیر“ کے تحت کیا ہے، اس کے تحت انہوں نے چھتیس (۳۶) شروحات کا ذکر کیا ہے، اور ہر مصنف کی مختصر سوانح بھی ذکر کی ہے، دیکھئے: ①

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) فرماتے ہیں:

يطلق لفظ المبسوط على مبسوط محمد و شروحه لعلها تبلغ عدة شروح، والتمييز بالإضافة إلى مصنفه، مثل أن يقال: مبسوط محمد و مبسوط السرخسي، وكذلك حال الجامع الصغير، وله شروح تبلغ خمسين شرحًا.

ترجمہ: ”المبسوط“ کا اطلاق امام محمد کی کتاب ”المبسوط“ پر ہوتا ہے، اور اس کی شروح پر جو متعدد ہیں، ان کے درمیان فرق مصنف کے نام کی طرف اضافت کرتے ہوئے ہوتا ہے، مثلاً ”المبسوط للسرخسی“ اسی طرح ”الجامع الصغیر“ بھی

① النافع الكبير: الفصل الرابع، ص ۵۰ تا ۶۲

② العرف الشذى: أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، ج ۱ ص ۷۰



ہے، اس کی شروحات کی تعداد پچاس (۵۰) تک پہنچتی ہے۔

”الجامع الصغير“ امام محمد رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، جن مشائخ نے اس کتاب کی شروحات لکھیں، ان کا تذکرہ ”الجامع الفلانی“ کے نام سے کیا جاتا ہے، مثلاً امام بزدی رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے تو ان کا تذکرہ ”الجامع البزدی“ کے نام سے کیا جاتا ہے، اسی طرح امام سرسی، علامہ عتابی، علامہ محبوبی اور علامہ قاضی خان حبیم اللہ وغیرہم: یعرف شرح ذلیک الشیخ بالجامع الفلانی کا الجامع البزدی
والجامع السرخسی والجامع العتابی والجامع المحبوبی والجامع الحسامی والجامع الحانی ای القاضی خان وغیر ذلیک کجامع أبي الیسر والجامع البرهانی والجامع الكشانی للخطیب مسعود بن الحسینی الكشانی وغیر ذلیک ممّا یطول تعدادہ وكل ذلیک شروع علیہ۔ ①

”الجامع الصغير“ کے تیرہ معروف شارحین کے اسماء

۱.....امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۱ھ)

۲.....امام ابو عمر والطبری رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۰ھ)

۳.....امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۰ھ)

۴.....امام ابو جعفر الہندوانی رحمہ اللہ (متوفی ۳۶۲ھ)

۵.....امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۰ھ)

۶.....فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۳ھ)

۷.....قاضی احمد بن منصور اسیجیابی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۰ھ)

۸.....علامہ فخر الاسلام بزدی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۲ھ)
.....



۹.....علامہ عمر بن عبد العزیز المعروف صدر الشہید رحمہ اللہ (متوفی ۵۳۶ھ)

۱۰.....امام ابو بکر ظہیر ملخی رحمہ اللہ (متوفی ۵۵۳ھ)

۱۱.....امام ابو نصر العتابی رحمہ اللہ (متوفی ۵۸۰ھ)

۱۲.....امام قاضی خان رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۲ھ)

۱۳.....علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) ①

متقد میں کے ہاں شرح لکھنے کی نوعیت کیا تھی

متقد میں کے ہاں عموماً شروحات کا مطلب اصل کتاب میں تصرف کرنا ہے، چاہے وہ ترتیب کے لحاظ سے ہو، یا اضافات کے لحاظ سے ہو، یا ابواب کی ترتیب پر ہو، یا دلائل کا ذکر ہو، یا تنقیح و تہذیب ہو، ان سب پر شرح کا اطلاق ہوتا ہے، متأخرین کی طرح ایک ایک لفظ اور مسئلہ کی تشریح و توضیح مراد ہیں ہوتی:

وأكثراً هذه الشروح المذكورة تصرفات على الأصل بنوع من تغيير،
أو ترتيب، أو زيادة، كما هو دأب القدماء في شروحهم. ②
فائد़ه: متقد میں کی کتابوں میں متن اور شرح آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ تمیز مشکل ہوتی ہے، یہ اُس دور کا طرزِ تالیف تھا، بعد میں متن اور شرح کو الگ کیا جانے لگا، اس لئے یہ اشکال ذہن میں نہ آئے کہ مشائخ کے ہاں اصل اور شرح کا امتیاز نہیں ہوتا:

لأن طريقة التأليف هكذا كانت في تلك العصور. ③

① كشف الظنون: ج ۱ ص ۵۲۳ / النافع الكبير: ص ۱۵۱ تا ۲۲

② كشف الظنون: الجامع الصغير، ج ۱ ص ۵۲۳

③ الأصل: مقدمة المحقق، ج ۱ ص ۱۱۹

”الجامع الصغير“ کی مطبوعہ شروحات

رقم کی معلومات کے مطابق ”الجامع الصغير“ کی مطبوعہ شروحات دو ہیں:

۱ شرح الصدر الشهید علی الجامع الصغير

امام عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازہ المعروف صدر الشہید رحمہ اللہ (متوفی ۵۳۶ھ)

یہ شرح ”دار الكتب العلمية“ بیروت سے ۱۹۲۷ھ میں طبع ہوئی ہے۔

۲ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير

علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) کی یہ شرح ”عالم الكتب“ بیروت

سے ۱۹۰۶ھ میں ایک جلد میں طبع ہے، یہ شرح (۵۳۲) صفحات پر مشتمل ہے۔

یاد رہے ایک ہے ”النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير“ یہ (۷۲)

صفحات پر مشتمل رسالہ ہے، جس میں علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ نے فقہاء کے طبقات سبع، اصحاب

તخریج، اصحاب ترجیح، متون ثلاثة، معتبر وغیر معتبر کتب وفتاوی، ائمۃ ثلاثة کے تراجم، ”الجامع

الصغير“ کا تعارف اور اس پر لکھی گئی چھتیس (۳۶) شروحات اور ان کے مصنفین کے

تراجم اور آخر میں اپنے مختصر حالات اور تصانیف کا ذکر کیا ہے۔ یہ رسالہ ”مجموعۃ رسائل

اللکھنؤی“ کی تیسرا جلد میں موجود ہے، جو ”ادارة القرآن والعلوم الإسلامية“

کراچی سے طبع ہے۔

”الجامع الصغير“ پر لکھی گئی منظومات

بہت سے علمائے احناف نے ”الجامع الصغير“ کے مسائل کو نظم کی صورت میں

اشعار میں بیان کیا ہے، ان میں معروف اہل علم درج ذیل ہیں:

۱..... امام نجم الدین ابو حفص عمر شفی رحمہ اللہ (متوفی ۵۳۷ھ)



۲.....امام شمس الدین احمد العقیلی البخاری رحمہ اللہ (متوفی ۷۶۵ھ)

۳.....محمد بن محمد قباوی رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۶ھ)

۴.....شیخ بدر الدین ابو نصر محمود الفراہی رحمہ اللہ نے ”لمعة البدار“ کے نام سے نظم لکھی۔
اس منظوم کلام کی شرح علامہ علاء الدین محمد بن عبد الرحمن مجندی رحمہ اللہ نے ”ضوء
اللمعة“ کے نام سے لکھی۔ ①

۸.....الجامع الكبير

امام محمد رحمہ اللہ نے ”الجامع الصغير“ کے بعد ”الجامع الكبير“ تصنیف کی،
علامہ امیر کاتب القانی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۷ھ) ہدایہ کی شرح ”غاية البيان و نادرة
الأقران“ میں ”باب الأذان“ کے تحت لکھتے ہیں:

إنما سمي ”المبسوط“ أصلا لأنه صنفه محمد أولا، ثم صنف
”الجامع الكبير“ ثم ”الجامع الكبير“ ثم الزيادات. وفي شرح شمس
الأئمة السر خسی للسیر الكبير أن آخر تصانیفہ هو ”السیر الكبير“ وقبله
صنف ”السیر الصغير“ ②

ترجمہ: ”المبسوط“ کا نام ”أصل“ اس لئے رکھا گیا کیونکہ امام محمد نے اس کو
سب سے پہلے تصنیف کیا تھا، پھر انہوں نے ”الجامع الصغير“ پھر ”الجامع الكبير“
اور پھر ”زيادات“ کی تصنیف کی، شمس الأئمة سر خسی رحمہ اللہ ”السیر الكبير“ کی شرح
میں لکھتے ہیں کہ امام محمد کی آخری تصنیف ”السیر الكبير“ اور اس سے پہلے انہوں نے
”السیر الصغير“ تصنیف کی ہے۔
.....

① کشف الظنون: الجامع الصغير، ج ۱ ص ۵۶۳

② النافع الكبير: الفصل الثاني، ص ۷۳

”الجامع الكبير“ کے متعلق اہل علم کی آراء

یہ کتاب فقہ کے دقيق مسائل اور کثرت تفريعات میں لا جواب ہے، اس کتاب کا تعارف صاحب عنایہ علامہ اکمل الدین بابری رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۷ھ) کی زبانی سنئے:

هو کاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع کبیر، قد اشتمل على عيون الروايات، و متون الدراسات، بحيث کاد أن يكون معجزاً، ول تمام لطائف الفقه منجزاً، شهد بذلك بعد إنفاذ العمر فيه، داروه ولا يکاد يلم بشيء من ذلك عاروه. ولذلك امتدت أعناق ذوى التحقيق نحو تحقيقه، و اشتدت رغباتهم فى الاعتناء بحلى لفظه و تطبيقه، و كتبوا له شروحاً، و جعلوه مبيناً مشروحاً۔ ①

ترجمہ: یہ کتاب واقعی اپنے نام کی طرح تمام اہم اور بڑے مسائل فقہ کی بہت زیادہ جامع ہے، یہ کتاب اہم روایات اور مستحکم عقلی اصولوں پر مشتمل ہے، گویا کہ یہ دوسروں کو عاجز کر دینے والی ہے اور فقہ کی تمام باریک باتوں کو پورا پورا بیان کرنے والی ہے، جو بھی اس کی وادی میں اُترا اس نے اپنی پوری عمر کھپا دینے کے بعد اس بات کی گواہی دی ہے اور اس سے دور ہنے والا ممکن نہیں ہے کہ ان چیزوں میں سے بھی کچھ حاصل کر پائے، اسی لئے تو محققین میں اس کے لفظی حل اور تطبیق مسائل کی طرف توجہ کی شدید رغبت رہی ہے، محققین نے اس کی بہت سی شروحات لکھیں اور اس کو بہت واضح اور خوب تشرح شدہ کتاب بنادیا ہے۔

امام جمال الدین بن عبید اللہ رحمہ اللہ نے محرم ۶۱۵ھ کو موصل سے قاضی شرف الدین بن عُنین رحمہ اللہ کی طرف خط میں یہ لکھا:

كَتَتْ مِذْنَةٌ طَوِيلٌ تَأْمَلْتْ كَابِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

رحمہ اللہ وارتقم علی خاطری منه شیء والکتاب فی فنه عجیب غریب
لم یصنف مثله۔ ①

ترجمہ: میں ایک طویل عرصے سے امام محمد بن حسن رحمہ اللہ کی کتاب ”الجامع الکبیر“ میں غور و فکر کر رہا ہوں اور میرے دل میں اس کا کچھ حصہ نقش ہو گیا ہے، اور یہ کتاب اپنے فن میں عجیب و غریب ہے، اس جیسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔
امام محمد بن شجاع شلبی رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۶ھ) ”الجامع الکبیر“ کے متعلق فرماتے ہیں:

ما ووضع فی الإسلام کتاب مثل جامع محمد بن الحسن الکبیر،
وقال: مثل محمد بن الحسن فی ”الجامع الکبیر“ کر جل بنی دارا، فكان
كلما علاها بنی مرقاة يرقى منها إلى ما علاه من الدار، حتى استتم بناء ها
كذلك، ثم نزل عنها و هدم مراقيها، ثم قال للناس: شأنكم فأصعدوا. ②

ترجمہ: زمانہ اسلام میں کوئی بھی کتاب فقہ میں امام محمد بن حسن کی ”الجامع الکبیر“ کے مثل نہیں لکھی گئی، اور پھر فرماتے ہیں کہ امام محمد بن حسن کی حالت ”الجامع الکبیر“ میں ایسی ہے جیسے ایک شخص گھر بنائے، اُس گھر کی جتنی بھی منزلیں اور بنا تا جائے تو ساتھ ہی ایک سیڑھی بھی بنا تا جائے، جس سے وہ گھر کی اوپر والی منزل پر پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ گھر کو اس طرح مکمل تعمیر کر لے، تو پھر خود اس سے نیچے اُتر آئے اور ساری سیڑھیاں توڑ دے اور اب لوگوں کو کہے کہ تم جیسے اس گھر پر چڑھ سکتے ہو چڑھ جاؤ۔

علامہ ابو بکر جصاص رازی رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۰ھ) ”الجامع الکبیر“ کی شرح

① بلوغ الأمانی: کتب محمد بن الحسن و مصنفوہ، ص ۷۹

② بلوغ الأمانی: ص ۵۸

میں لکھتے ہیں:

كنت أقرأ بعض المسائل من الجامع الكبير على بعض المبرزين في النحو (يعني أبا علي الفارسي) فكان يتعجب من تغلغل واضح هذا الكتاب في النحو. ①

ترجمہ: میں نے ”الجامع الكبير“ کے بعض مسائل نحو کے ایک معروف ماہر (یعنی امام ابو علی فارسی رحمہ اللہ (متوفی ۷۳۷ھ) کو پڑھ کر سنائے، تو وہ اس کتاب کے مصنف کی علم نحو میں مہارت اور تبحر بہ پر تعجب کرتے رہے۔

علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۲۷ھ) ”الجامع الكبير“ کے متعلق لکھتے ہیں:

والحق أن هذا الكتاب آية في الإبداع، ينطوي على دقة بالغة في التفريع على قواعد اللغة وأصول الحساب خلا ما يحتوى عليه من المضى على دقائق أصول الشرع الأغر. ②

ترجمہ: حق بات یہ ہے کہ یہ کتاب جدت طرازی میں ایک نمایاں نشانی کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ یہ قواعد لغت اور اصول حساب پر تفریعات میں انتہائی باریک باتوں پر مشتمل ہے، پھر ساتھ ہی یہ کتاب شریعت مبارکہ کے دقیق اصولوں کے استعمال پر بھی مشتمل ہے۔

شمس الانیمہ سرخسی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ) فرماتے ہیں:

من أراد امتحان المتبّرين في الفقه فعليه بأيمان الجامع. ③

ترجمہ: جو شخص ماہر علماء کافی فقہ میں امتحان لینا چاہے تو اُسے چاہئے کہ ”الجامع الكبير“ کی ”كتاب الأيمان“ کو لازم پکڑے (یعنی اس کا امتحان لے)۔

.....

④ بلوغ الأمانی: ص ۵۸

٦٣

● شرح السیر الكبير: باب أمان الحر المسلم والصبي والمرأة، ج ۱ ص ۲۵۲

”الجامع الكبير“ کا طرزِ تالیف

یہ کتاب امام محمد رحمہ اللہ کی تیسری بلند پایہ تصنیف ہے، اس میں آپ نے ایجاز و اختصار کا اسلوب اختیار کیا ہے، جس کی وجہ سے وجہ تفریغ سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور جب تک ان کی وضاحت نہ کی جائے سمجھ میں نہیں آتیں۔ اس کتاب میں امام محمد نے مسائل فقہیہ کو لغوی و نحوی مہارت کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ امام ابوعلی فارسی اور امام انہش رحمہما اللہ جیسے ائمہ لغت و نحو بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مصنف لغت و فقہ ہر دو علوم میں بیک وقت امامت کے درجے پر فائز ہیں۔ ①

دکتور محمد بولینو کالم اس کتاب کے تعارف اور اسلوب کے متعلق لکھتے ہیں:

وهو أحد كتب ظاهر الرواية. وقد ألفه الإمام محمد تأليفاً مستقلاً من دون روایة عن أبي يوسف. وهو أكبر حجماً من الجامع الصغير. ولم يذكر في أبواب العبادات إلا مسائل قليلة، وتوسع في الأبواب الأخرى. وهو مثل الجامع الصغير من حيث خلوه عن الأدلة. وظهور فيه ملحة المؤلف الفقهية أكثر حيث يبني مسائل كل باب على قواعد فقهية من غير أن يصرح بتلك القواعد، وقد بين الفقهاء تلك القواعد في شروحهم على الكتاب. ②

ترجمہ: یہ ظاهر الروایہ کتابوں میں سے ایک ہے جسے امام ابویوسف سے روایت کے بغیر مستقلًا تالیف کیا ہے، یہ کتاب ”الجامع الصغير“ سے حجم میں بڑی ہے، اس میں عبادات سے متعلق مسائل کی تعداد کم ہے، البتہ دیگر ابواب سے متعلق مسائل تفصیل

①الأصل: مقدمة المحقق، ج ۱ ص ۳۳

②بلوغ الأمانی: ص ۲۳

سے بیان کئے ہیں۔ یہ کتاب ادله کا تذکرہ نہ ہونے میں ”الجامع الصغیر“ کی طرح ہے، اس کتاب سے مصنف کی فقہی مہارت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر باب کے مسائل کو فقہی قواعد کی بنیاد پر ذکر کیا ہے، اگرچہ انہوں نے ان قواعد کی تصریح نہیں کی ہے، فقہاء کرام نے اس کتاب کی شرح کے دوران ان قواعد کو بیان کیا ہے۔

”الجامع الكبير“ کے مسائل و تفریعات کے فہم پر منی لکھی گئی کتبِ قواعد اس کتاب میں مصنف نے نفس مسائل بیان کئے ہیں، دلائل ذکر نہیں کئے، امام محمد رحمہ اللہ نے ہر باب کے مسائل کو فقہی اصولوں کے تحت بیان کیا ہے، لیکن آپ نے یہ اصول صراحتاً ذکر نہیں کئے، اس لئے فہم مسائل میں دشواری پیش آتی تھی، تو شارحین نے اپنے طور پر ان قواعد کا ذکر کیا، لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ ان تمام قواعد کو ہر باب کے تحت یکجا بیان کیا جائے، تو علامہ محمود حمز اوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۵ھ) نے اس پر مستقل ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام ”النور اللامع فی اصول الجامع“ ہے، اس میں انہوں نے ہر باب سے متعلق ان قواعد کا ذکر کیا ہے جس پر باب کے مسائل متفرع ہوتے ہیں۔

علامہ محمود بن احمد المعروف جمال الدین حکیم رحمہ اللہ (متوفی ۶۳۶ھ) نے ”الجامع الكبير“ کی دو شرحدیں لکھیں، ایک مختصر اور دوسری طویل، ان کی مختصر شرح کا نام ”الوجيز“ ہے، اور مطول شرح کا نام ”التحریر“ ہے، یہ چار جلدیں پر مشتمل ہے، اس میں مصنف نے ہر باب کے شروع میں ان اصولوں کو ذکر کیا ہے، جس پر باب کے مسائل متفرع ہیں، ہر باب کے آغاز میں لکھتے ہیں ”أصل الباب كذا“، اس وجہ سے تفریعات کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے:

حيث يقول في صدر كل باب من أبواب الكتاب: أصل الباب كذا

وبني الباب على كذا، فبذلك سهلت معرفة وجوه التفريع جدا۔ ①



ترجمہ: ابواب کتاب میں سے ہر باب کے شروع میں یہ کہتے ہیں ”اس باب کا بنیادی قاعدہ یہ ہے“ اور ”اس باب کی بناء فلاں فلاں قاعدہ پر ہے“ یوں اس کتاب کی وجہ تفریعات کو سمجھنا اب بہت آسان ہو گیا ہے۔

اس کتاب میں موجود تمام قواعد و ضوابط کو شیخ علی احمد نے نہایت تتفق اور عرق ریزی کے ساتھ اپنی کتاب ”القواعد والضوابط الفقهية الواردة في التحرير شرح الجامع الكبير“ میں جمع کر دیا ہے۔ اس کتاب کی روشنی میں ”الجامع الكبير“ کا سمجھنا اور تفریعات کی بناء بہت آسان ہو گئی ہے۔

”الجامع الكبير“ کے ناقلين

امام محمد رحمہ اللہ سے ”الجامع الكبير“ کو آپ کے متعدد تلامذہ نے نقل کیا ہے، ان میں معروف ابو سلیمان جوز جانی، امام ابو حفص کبیر، امام علی بن معبد بن شداد، ہشام بن عبید اللہ رازی اور محمد بن سماعہ تیمی رحمہم اللہ ہیں۔ ①

”الجامع الكبير“ کی شروحات

حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۰ھ) نے ”الجامع الكبير“ کے تعارف کے تحت تین تالیس (۲۳) شروحات کا ذکر کیا ہے۔ علامہ عبد القادر قرشی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۷ھ) نے ”أسامي شرّاح الجامع الكبير“ کے تحت تینیس (۲۳) شارحین کا ذکر کیا ہے، ان میں معروف شارحین درج ذیل ہیں:

۱..... امام ابو حازم عبد الحمید بن عبد العزیز رحمہ اللہ (متوفی ۲۹۲ھ)

۲..... امام علی بن موسیٰ قمی رحمہ اللہ (متوفی ۳۰۵ھ)

۳..... امام طحاوی رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۱ھ)

۳.....امام ابو عمر واحمد بن محمد طبری رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۰ھ)

۵.....امام محمد بن علی الجرجانی رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۷ھ)

۶.....امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۰ھ)

۷.....امام ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۷ھ)

۸.....قاضی ابو زید عبید اللہ بن عمر الدبوی رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۲ھ)

۹.....شمس الائمه حلوانی رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۸ھ)

۱۰.....علامہ فخر الاسلام بزدوى رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۲ھ)

۱۱.....شمس الائمه سرخی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ)

۱۲.....امام ابو بکر محمد بن حسین خواہر زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ)

۱۳.....علامہ صدر الشہید حسام الدین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ (متوفی ۵۳۶ھ)

۱۴.....امام رکن الدین عبد الرحمن بن ابی محمد کرمانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۳۳ھ)

۱۵.....امام علاء الدین محمد بن عبد الحمید سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۵۵۲ھ)

۱۶.....امام ابو نصر احمد بن محمد عثّابی رحمہ اللہ (متوفی ۵۸۶ھ)

۱۷.....علامہ قاضی خان رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۲ھ)

۱۸.....امام برہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۳ھ)

۱۹.....امام برہان الدین محمود بن احمد صاحب محيط برہانی (متوفی ۶۱۶ھ)

۲۰.....امام جمال الدین محمود بن احمد حسیری رحمہ اللہ (متوفی ۶۳۶ھ) ①

”الجامع الكبير“ کے مسائل پر وارد اعتراضات کے جوابات کے لئے امام محمد بن احمد المعروف ابن ربوہ دمشقی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۷ھ) کی ”الدرر النظیم المنیر“

فی حل إشكال الجامع الكبير، کامطالعہ بہت مفید ہے۔ ①

”الجامع الكبير“ کے مسائل پر مشتمل منظومات

اس کتاب کی مقبولیت اور نافعیت کی وجہ سے بہت سے اہل علم نے اس کے مسائل کو نظم کی صورت میں بیان کیا، ان میں معروف درج ذیل ہیں:

۱.....امام احمد بن ابوالمنور محمودی نسفی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے مسائل کو پانچ ہزار پانچ سو پچھن (۵۵۵۵) اشعار میں بیان کیا ہے، اس منظوم کلام کی شرح امام ابوالقاسم محمود بن عبد اللہ بن صاعد حارثی رحمہ اللہ (متوفی ۶۰۶ھ) نے کی، اور اس کا نام ”تفہیم التحریر“ رکھا۔

۲.....امام ابوالحسن علی بن خلیل مشقی رحمہ اللہ (متوفی ۶۵۰ھ)

۳.....امام احمد بن عثمان بن ابراہیم ترکمانی رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۳ھ) ②

۹ الزیادات و زیادات الزیادات

یہ دونوں کتابیں ”الجامع الكبير“ کا تکملہ اور تتمہ ہیں، علامہ ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۵ھ) علامہ قاضی خان رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۲ھ) کے حوالے سے مقدمے میں نقل کرتے ہیں:

لأنه لما فرغ من تأليف الجامع الكبير تذكّر فروع العالم يذكرها فيه،
فصنف كتابا آخر ليذكر فيه تلك الفروع، وسمّاه الزيادات ثم تذكّر
فروع آخر فصنف كتابا آخر ليذكر فيه تلك الفروع الأخرى وسمّاه

زيادات الزيادات فقطع عن ذلك ولم يتمّه. ③

① کشف الظنون: الجامع الكبير، ج ۱ ص ۵۶۹

② کشف الظنون: الجامع الكبير، ج ۱ ص ۵۶۹


③ أصول الإفتاء وآدابه: الزيادات وزيادات الزيادات، ص ۱۳۰

ترجمہ: جب امام محمد رحمہ اللہ "الجامع الكبير" کی تالیف سے فارغ ہوئے تو انہیں کچھ ایسی تفریعات یاد آئیں جو انہوں نے "الجامع الصغیر" میں ذکر نہیں کی تھیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تاکہ اس میں وہ تفریعات ذکر کر دیں، اس کتاب کا نام انہوں نے "الزيادات" رکھا، پھر انہیں مزید کچھ فروعات یاد آئیں تو انہوں نے ایک کتاب ان فروعات کے ذکر کے لئے تصنیف کی اور اس کا نام "زيادات الزيادات" رکھا، اس کی تکمیل سے پہلے ہی امام محمد رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اسے مکمل نہیں کر پائے۔

چونکہ یہ کتاب "الجامع الكبير" کا تکملہ ہے اس لئے اس کا اسلوب بھی مسائل کی باریک بینی اور فرضی تفریعات کے توسع میں اس سے مختلف نہیں ہے، یہ کتاب چونکہ تکملہ ہے اس وجہ سے یہ تمام ابواب فقہ پر مشتمل نہیں ہے، اس کے زیادہ تر مسائل کا تعلق معاملات سے ہے۔

یہ بھی ایک روایت ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنی ایک علمی مجلس میں املاء کروار ہے تھے، انہوں نے چند دقیق تفریعات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان مسائل کی یہ تفریعات محمد بن حسن کے لئے بڑی مشکل ہوں گی، جب یہ بات امام محمد رحمہ اللہ کو پہنچی تو انہوں نے "الزيادات" تالیف کی، تاکہ یہ اس بات کی دلیل بن جائے کہ ایسی تفریعات اور "وما أدق منها لا يشق عليه تفريعها" اور اس سے باریک تر تفریعات کو امام محمد رحمہ اللہ کے لئے بیان کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ①

اور یہ بھی روایت ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ مسائل اماکررواتے تھے، اور امام محمد رحمہ اللہ کا بیٹا ان مسائل کو لکھا کرتا تھا، تو امام محمد رحمہ اللہ نے ان مسائل کو ابواب پر مرتب کر کے اصلاحاً ذکر کیا، اور جو مسائل، تفریعات ان سے چھوٹ گئی تھیں ان کا اضافہ



”الزيادات“ کے نام سے کیا، یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے کلام پر اضافہ۔ ①

علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۷۲ھ) لکھتے ہیں:

وَهُمَا مِنَ الْكِتَابَ الْمَرْوِيَّةِ عَنْهُ بِطَرِيقِ الشَّهْرَةِ وَغَلْطُ مِنْ ذِكْرِهِمَا فِي

عَدَادِ النَّوَادِرِ . ②

ترجمہ: یہ دونوں کتابیں (یعنی ”زيادات“ اور ”زيادات الزيادات“ امام محمد) سے شہرت کے ساتھ مروی ہیں (یعنی کتب ظاہر الروایہ میں ان کا شمار ہے) جنہوں نے ان دو کتابوں کو نوادر میں شمار کیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔

فائدہ: کتب ظاہر الروایہ تو چھ ہیں ”المبسوط، الجامع الصغير، الجامع الكبير، الزيادات، السیر الصغير، السیر الكبير“ اب ان کے ساتھ اگر ”زيادات الزيادات“ کو ملایا جائے تو یہ کل سات کتابیں بن جاتی ہیں، چھ ہیں رہتیں، اس کے جواب میں علامہ ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۵ھ) ”شرح زيادات الزيادات“ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

وَكَتَبَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ سَتَّةً، وَإِذَا ضَمَّتْ إِلَيْهَا ”زيادات الزيادات“ تصير سبعة، ولا يقدح هذا لأن ”الزيادات“ مع ”زيادات الزيادات“ كشيء واحد . ③

ترجمہ: کتب ظاہر الروایہ چھ ہیں، جب اس کے ساتھ ”زيادات الزيادات“ کو ملائیں تو یہ سات ہو جائیں گے، تو یہ اشکال نہ ہو، اس لئے کہ ”زيادات“ اور ”زيادات الزيادات“ دونوں مل کر ایک ہیں (گویا یہ ایک ہی کتاب ہے، اور ایک ہی نوعیت کے

① کشف الظنون: ج ۲ ص ۹۲۲ ② بلوغ الأمانی: ص ۲۶

③ شرح زيادات الزيادات: ص ۸

مسائل ان میں کیجا ہیں)۔

ان دونوں کتابوں میں بعض ایسے مسائل کا بھی ذکر ہے جن کا اُس وقت تک وقوع نہیں ہوا تھا، جنہیں فرضی مسائل کہا جاتا ہے، اور بعض جزئیات کا وقوع بظاہر مستبعد معلوم ہو رہا تھا، تو علامہ سرخی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ) اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

قلنا لا يتهيأ للمرء أن يعلم ما يُحتاج إليه إلا بتعلم ما لا يُحتاج إليه،
فيصير الكل من جملة ما يُحتاج إليه لهذا الطريق، وإنما يستبعد للبلاء قبل

نزو له۔ ①

ترجمہ: ہم اس کے جواب میں یوں کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اس علم کو سیکھے بغیر جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس علم کے لئے تیار نہیں ہو سکتا جس کی اس کو ضرورت ہے، تو اس طرح سارا علم فقه ہی اس علم میں سے جس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کسی مصیبت سے نمٹنے کے لئے تو اس کے پیش آنے سے پہلے ہی تیاری کی جاتی ہے (یعنی اگر کوئی مسئلہ آج پیش نہیں آیا تو آنے والے وقت میں پیش آجائے گا، اس لئے اس کے تعلیم و تعلم کو بے فائدہ نہیں کہا جاسکتا ہے)۔

”زيادات“ اور ”زيادات الزيادات“ کے مخطوطات اور شروحات کے لئے دکتور بروکلمان کی (تاریخ الأدب العربي: ج ۳ ص ۲۲۸، ۲۲۹) کا مطالعہ کریں، اسی طرح دکتور سرنگین کی (تاریخ التراث العربي: ج ۱ ص ۵۸، ۵۹) کا مطالعہ کریں۔ علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۳۱ھ) فرماتے ہیں کہ ان دونوں کتابوں کے

مخطوطات استنبول کے کتب خانہ میں موجود ہیں۔ ②

① المبسوط للسرخسی: كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۱ ص ۲۲۲

② بلوغ الأمانی: ص ۲۶



”الزيادات“ اور ”زيادات الزيادات“ کی شروحتان کتابوں کی مقبولیت اور نافعیت کی وجہ سے کباراً ہل علم نے ان کی شروحت لکھیں، ان میں معروف شارحین درج ذیل ہیں:

۱.....امام محمد بن سماحة رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۳ھ)

۲.....امام حاکم شہید رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۳ھ) نے اصل کتاب کا اختصار ”أصول الزيادات“ کے نام سے کیا۔

۳.....امام ابو عبد اللہ جرجانی رحمہ اللہ (متوفی ۴۳۹ یا ۴۹۸ھ)

۴.....شمس الائمه حلوانی رحمہ اللہ (متوفی ۴۲۸ھ)

۵.....شمس الائمه سرخسی رحمہ اللہ (متوفی ۴۸۳ھ) نے ”زيادات الزيادات“ کی شرح ”نکت زیادات الزيادات“ کے نام سے لکھی، یہ شرح علامہ ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ کی تعلیقات کے ساتھ طبع ہے۔

۶.....علامہ تاج الدین گردنی رحمہ اللہ (متوفی ۵۶۲ھ)

۷.....امام ابونصر عثیابی رحمہ اللہ (متوفی ۵۸۰ھ) نے ”زيادات الزيادات“ کی شرح لکھی ہے، یہ شرح بھی علامہ ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ کی تعلیقات کے ساتھ طبع ہے۔

۸.....علامہ قاضی خان رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۲ھ) کی یہ شرح عرصہ دراز سے نادر الوجود تھی، مولانا محمد قاسم اشرف صاحب مدظلہ نے نہایت تتبع اور جستجو کے ساتھ مختلف مخطوطات سے موازنہ کر کے تصحیحات کیں اور گراں قدر تعلیقات لکھیں، یہ کتاب چھ جلدیں میں ”ادارة القرآن والعلوم الإسلامية“، کراچی سے طبع ہے۔ محقق نے کتاب کے شروع میں ایک نہایت مفید علمی مقدمہ لکھا ہے، جس میں امام محمد اور امام قاضی خان رحمہما اللہ کی سوانح اور تصانیف کا ذکر کیا ہے۔ ”زيادات“ اور ”زيادات الزيادات“ کے نسخوں کے

متعلق معلومات ذکر کی ہیں۔

اس شرح کی خصوصیت یہ ہے کہ امام قاضی خان رحمہ اللہ ہر باب کے شروع میں ان اصولوں کو ذکر کر کے اس کی وضاحت کرتے ہیں جن پر امام محمد رحمہ اللہ نے اس باب کے مسائل کی بنیاد رکھی ہے، محقق نے کتاب کے آخر میں ان قواعد و ضوابط کو ذکر کیا ہے، جن کی تعداد (۱۰۲۵) بنتی ہے۔ اگر یہ اصول اردو زبان میں ترجمہ کے ساتھ الگ سے طبع کر دیئے جائیں تو فقہی بصیرت کے لئے عموماً اور ہدایہ پڑھانے والوں کے لئے خصوصاً نہایت مفید ہوں گے۔

۹.....امام برہان الدین بن ما زہ رحمہ اللہ (متوفی ۶۱۶ھ)

۱۰.....امام ابو حفص سراج الدین ہندی رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۷ھ) ①

۱ السیر الصغیر

فقہ کی اصطلاح میں ”سیر“، اُن قوانین کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق جنگ و امن، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات اور مسلم و غیر مسلم ممالک کے باہمی روابط سے ہوتا ہے۔ قانون کی تاریخ میں اس موضوع پر پہلی کتاب امام محمد رحمہ اللہ نے تالیف کی ہے، یاد رہے کہ فقهاء متقد میں اور محدثین ”سیر“ کا لفظ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے لئے استعمال کرتے تھے، اور آب لفظ سیرت کا استعمال عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کے لئے ہوتا ہے۔

امام حاکم شہید رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۲ھ) نے اپنی کتاب ”الكافی“ میں اس کو نقل کیا ہے، علامہ خسروی رحمہ اللہ (متوفی ۴۸۳ھ) نے ”المبسوط“ میں اس کی شرح کی ہے، دسویں جلد کے آخر میں آپ فرماتے ہیں:

۱ کشف الظنون: الزیادات، ج ۲ ص ۹۶۲ / اصول الافتاء و آدابہ: ص ۱۵۵، ۱۵۶

انتهی شرح السیر الصغیر المُشتمل علی معنی اثیر یاملاء المتكلّم بالحق
المُنیر المُحصّور لاجلہ شبہ الاسیر المُنتظر للفرج من العالم القديم۔ ①

ترجمہ: ”السیر الصغیر“ کی شرح مکمل ہوئی جو بہت پراثر معانی پر مشتمل ہے اور اس شرح کو ایک ایسے شخص نے اپنے شاگردوں کو املاء کروایا ہے جس نے بالکل روشن حق بیان کیا تھا، اور اب وہ حق کہنے کی پاداش میں ایک قیدی کی طرح گرفتار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو عالم و قدیر ہے اس سے اپنی رہائی کا منتظر ہے۔

یہ کتاب پہلے مستقلًا الگ سے موجود نہیں تھی، امام حاکم رحمہ اللہ نے ”الكافی“ میں اس کا اختصار کیا تھا، لیکن ”الكافی“ اس وقت مفقود ہے، البته امام سرسی رحمہ اللہ نے جو ”الكافی“ کی شرح ”المبسوط“ کے نام سے لکھی ہے، اس کی دسویں جلد میں یہ موجود ہے۔
دکتور مجید خدو ری نے ۱۹۷۵ء میں امام محمد رحمہ اللہ کی ”الأصل“ سے اس کا انتخاب کیا، اور اسے الگ سے ابواب کی ترتیب پر طبع کیا، یہ نسخہ (۲۸۳) صفحات پر مشتمل ہے، جو ”الدار المتحدة للنشر“ بیروت سے طبع ہے، اسی نسخہ کا عکس ”ادارة القرآن والعلوم الإسلامية“ کراچی سے طبع ہے۔

اللہ تعالیٰ جزاً نیر عطا فرمائے حضرت ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کو جنہوں نے نہایت جستجو و تلاش اور مختلف علمی نسخوں اور مخطوطات سے تحقیق کر کے عمده حواشی اور تشریحات کے ساتھ انگریزی زبان میں اس کی شرح اور مقدمہ لکھا، یہ کتاب ”ادارہ بحوث اسلامی“، اسلام آباد سے شائع ہوئی ہے۔

۱۱..... السیر الكبير

یہ کتاب ظاہر الروایہ کی چھ کتابوں میں تصنیف کے اعتبار سے سب سے آخری کتاب

① المبسوط: کتاب السیر، باب آخر فی الغیمة، ج ۱۰ ص ۱۲۳

ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَآخِرُ السَّتَّةِ تَصْنِيفًا وَرَدَ السَّيْرُ الْكَبِيرُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ①

ترجمہ: اور منقول ہے کہ چھ کتابوں میں آخری تصنیف سیر کبیر ہے، پس وہی معتمد ہے۔

علامہ سرسی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ) اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

ثُمَّ أَمَرَ مُحَمَّدَ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الْكِتَابُ فِي سِتِّينَ دَفْتَرًا، وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى عَجَلَةٍ إِلَى بَابِ الْخَلِيفَةِ فَقِيلَ لِلْخَلِيفَةِ: قَدْ صَنَفَ مُحَمَّدٌ كِتَابًا يُحْمَلُ عَلَى الْعَجَلَةِ إِلَى الْبَابِ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَعَدَهُ مِنْ مَفَاحِرِ أَيَامِهِ فَلَمَّا نَظَرَ فِيهِ ازْدَادَ إِعْجَابُهُ بِهِ ثُمَّ بَعَثَ أُولَادَهُ إِلَى مَجْلِسِ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ لِيَسْمَعُوا مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ الْقُزوِينِيُّ مُؤَذِّبَ أُولَادِ الْخَلِيفَةِ، فَكَانَ يَحْضُرُ مَعَهُمْ لِيُحْفَظُهُمْ كَالرَّقِيبِ، فَسَمِعَ الْكِتَابَ ثُمَّ اتَّفَقَ أَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الرُّوَاةِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيَّ، فَهُمَا رَوَيَا عَنْهُ هَذَا الْكِتَابَ ②

ترجمہ: امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب کی تکمیل کے بعد یہ حکم دیا کہ اس کو سائٹھ (۲۰) رجسٹروں میں لکھا جائے اور اس کو بیل گاڑی میں لا دکر دربارہ شاہی میں پیش کیا جائے، خلیفہ کو یہ بتایا گیا کہ امام محمد نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب بیل گاڑی پر رکھ کر لائی جارہی ہے، تو خلیفہ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اس کارنامے کو اپنے زمانے کے قابل فخر کارناموں میں سے قرار دیا۔ جب خلیفہ نے اس کتاب کو دیکھا تو اس کی مسیرت دو بالا ہو گئی، پھر خلیفہ نے اپنی اولاد کو امام محمد رحمہ اللہ کی مجلس میں بھیجا تا کہ وہ امام محمد رحمہ اللہ سے اس کتاب کی سماعت کریں۔ اسماعیل بن توبہ قزوینی رحمہ اللہ خلیفہ کی اولاد کے اتابیق تھے

اور وہ ان کی حفاظت کے لئے ان کے ساتھ ہی ایک نگران کی طرح امام محمد رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، انہوں نے بھی اس کتاب کی ساعت کی، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اس کتاب کے راویوں میں سے اسماعیل بن توبہ اور ابو سلیمان جوزجانی رحمہما اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہا اور انہی دونوں حضرات نے امام محمد رحمہ اللہ سے اس کتاب کی روایت کی۔

یہ کتاب بین الاقوامی قوانین پر لکھی گئی ہے، اس میں جنگ اور صلح، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلقات، حالتِ جنگ، قیدیوں اور غنائم کے متعلق تفصیلی احکامات ہیں۔ یہ کتاب اُس دور میں لکھی گئی جب بین الاقوامی تعلقات کے لئے نہ تو کوئی مدون قانون تھا اور نہ ہی اس کو کوئی جانتا تھا۔ یہ کتاب الگ سے تو طبع نہیں ہے، البتہ علامہ سرخسی رحمہ اللہ کی نہایت محققانہ شرح کے ساتھ طبع ہے۔

البتہ امام سرخسی رحمہ اللہ کی شرح اصل کتاب کے ساتھ اس طرح ملی ہوئی ہے کہ اصل کتاب اور شرح میں امتیاز نہیں ہوتا:

والكتاب موجود ممزوجاً بشرح السرخسي، وقد امتزجت مسائله مع الشرح فلم تتميز تماماً۔ ①

اس کتاب کے مخطوطات اور شروع کا ذکر تفصیلًا دکتور بر و کلمان اور سر زگین نے کیا ہے، دیکھئے: ②

اس کتاب کی مطبوعہ شرح علامہ سرخسی رحمہ اللہ (متوفی ۲۸۳ھ) کی ”شرح السیر الكبير“ ہے، مصنف کا اسلوب یہ ہے کہ مسئلہ کی دلیل میں آیت یا حدیث یا اثر نقل کر کے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور حکم شرعی بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب (۲۵۷) مسائل پر

① الأصل: مقدمة المحقق، ج ۱ ص ۳۳

② تاريخ الأدب العربي: ج ۳ ص ۲۵۵ / تاريخ التراث العربي: ج ۱ ص ۷۲، ۷۳

مشتمل ہے۔ اس کتاب میں جابجا آیات، احادیث و آثار سے استدلال ہے، شارح کے طرزِ استدلال و استنباط سے آپ کی مجتہدانہ بصیرت معلوم ہوتی ہے، اگر ایسے مسائل کو ان کے طرزِ استدلال کے ساتھ الگ کر کے اردو میں شائع کیا جائے تو اس کی افادیت عام ہوگی۔ یہ شرح چار جلدیوں میں ”حیدر آباد دکن“ سے ۱۳۳۵ھ میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کا محقق نسخہ دکتور صلاح الدین منجد کی تحقیق کے ساتھ ”جامعہ عربیہ“ کے معهد المخطوطات سے شائع ہوا ہے۔ جامعہ قاہرہ نے اس شرح کی پہلی جلد شیخ ابو زہرا اور استاد ڈاکٹر مصطفیٰ زید کی تحقیق کے ساتھ شائع کی تھی، البته بقیہ جلدیں اب تک طبع نہیں ہوئیں۔ اس کتاب کی ایک شرح علامہ جمال الدین حسیری رحمہ اللہ (متوفی ۶۳۶ھ) کی ہے

جوتا ہنوز غیر مطبوعہ ہے۔ ①

”السیر الكبير“ کے سبب تالیف میں نقل کردہ واقعہ کی تحقیق علامہ خرسی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ) نے ”شرح السیر الكبير“ کے مقدمہ میں سبب تالیف کے دوران یہ واقعہ لکھا ہے:

فَأَمَّا سَبْبُ تَضْنِيفِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ السِّيرَ الصَّغِيرَ وَقَعَ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرُو الْأَوْزَاعِيِّ عَالِمِ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا الْكِتَابُ؟ فَقَالَ: لِمُحَمَّدٍ الْعِرَاقِيِّ. فَقَالَ: وَمَا لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَالتَّضْنِيفِ فِي هَذَا الْبَابِ؟ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ لَهُمْ بِالسِّيرِ. وَمَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ كَانَتْ مِنْ جَانِبِ الشَّامِ وَالْحِجَازِ دُونَ الْعِرَاقِ. فَإِنَّهَا مُحَدَّثَةٌ فَتَحًا. فَبَلَغَ مَقَالَةُ الْأَوْزَاعِيُّ مُحَمَّدًا فَغَاظَهُ ذَلِكَ وَفَرَغَ نَفْسَهُ حَتَّى صَنَفَ هَذَا الْكِتَابَ. فَحَكَى أَنَّهُ لَمَّا نَظَرَ فِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: لَوْلَا مَا ضَمَّنَهُ مِنْ

الْأَحَادِيثُ لَقُلْتُ إِنَّهُ يَضْعُفُ الْعِلْمُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ. وَإِنَّ اللَّهَ عَيْنَ جِهَةً إِصَابَةً
الْجَوَابِ فِي رَأْيِهِ. صَدَقَ اللَّهُ (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ). ①

ترجمہ: اس کتاب کا سبب تالیف یہ ہے کہ جب ”السیر الصغیر“، اہل شام کے عالم عبدالرحمٰن بن عمر اوزاعی کے ہاتھ لگی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ یہ محمد عراقی کی کتاب ہے، اس پر (امام اوزاعی) نے کہا: بھلا اہل عراق کو اس باب (یعنی سیر و مغازی) میں تصنیف کا کیا حق پہنچتا ہے (ان کے پاس تو سیر کا علم ہی نہیں ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے معرفہ کہ تو شام اور حجاز کی طرف ہوئے نہ کہ عراق کی طرف، عراق تو بھی نیا فتح ہوا ہے۔ امام اوزاعی کی یہ بات جب امام محمد کو پہنچی تو انہیں اس پر غصہ آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر کے یہ کتاب ”السیر الکبیر“ تصنیف کی۔ یہ بات بھی منقول ہے کہ جب امام اوزاعی نے یہ دوسری کتاب دیکھی تو فرمایا: اگر یہ کتاب (بہت سی) احادیث پر مشتمل نہ ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص تو علم گھڑتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی رائے میں جواب کی درستگی کو متعین طور پر رکھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل سچا ہے ”وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ“ (اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا ہے)۔

اس واقعہ کو علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے (رد المحتار: ج ۱ ص ۱۵) پر بھی نقل کیا ہے۔ شیخ محمد ابو زہرا اپنی کتاب ”أبو حنيفة حیاته و عصره و آراء و فقهه“ کے (ص ۱۹۰) پر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ناقابل تسلیم ہے، اس لئے کہ امام اوزاعی کی وفات ۷۱۵ھ میں ہوئی، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کی ولادت ۱۳۲ھ میں ہوئی ہے، امام اوزاعی رحمہ اللہ کی وفات کے وقت امام محمد رحمہ اللہ کی عمر صرف پچیس (۲۵) سال تھی، اب

یہ بات عقلًا بعید ہے کہ آپ پچھیس سال کی عمر میں اپنی تمام تالیفات سے فارغ ہو چکے تھے، کیونکہ ”السیرالکبیر“ آپ کی آخری تصنیف ہے، گویا آپ نے ۷۱۵ھ سے لے کر اپنی وفات ۱۸۹ھ تک کوئی کتاب نہیں لکھی، یعنی امام محمد رحمہ اللہ جیسے کثیر التصانیف شخص بتیس (۳۲) سال تک بغیر کسی عذر کے بالکل فارغ رہیں اور کوئی تحریری کام نہ کریں، یہ بات بعید از عقل ہے۔ نیز کتاب کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد کی تصنیف ہے، اس لئے اس میں کئی مسائل میں آپ نے اپنے شیخ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اختلاف کیا ہے اور ان سے مناقشہ بھی کیا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ علم و عمل، عمر اور مرتبہ میں اس مقام پر پہنچ گئے ہوں کہ اپنے استاد سے دلائل میں اختلاف کر سکیں۔ نیز بادشاہ وقت کا آپ کی کتاب کو اس قدر اعزاز دینا حالانکہ یہ آپ کے عین شباب کا دور تھا، اس وقت تک آپ کے علم و عمل اور تصانیف کی شہرت نہیں ہوئی تھی، قرین قیاس یہی ہے کہ یہ کتاب آپ نے امام اوزاعی رحمہ اللہ کے اعتراض کے جواب میں نہیں لکھی، نیز امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ”السیرالکبیر“ نہیں دیکھی وہ اس سے قبل وفات پا چکے تھے۔ اس واقعہ کی تردید محدث بیرونی شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب ”آپ فتویٰ کیسے دیں“ میں ”السیرالکبیر“ کے تعارف میں حاشیہ میں کی ہے۔

فائدہ: علامہ سرخسی رحمہ اللہ (متوفی ۲۸۳ھ) کی ”شرح السیرالکبیر“ کی اچھی شرح علامہ محمد نبی العینتائی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۸ھ) نے ”تیسیر المسیر فی شرح السیرالکبیر“ کے نام سے لکھی۔ مصنف نے اس شرح کا ترجمہ ترکی زبان میں بھی کیا ہے۔ یہ شرح ۱۲۳۱ھ میں استنبول سے طبع ہوئی ہے۔ ①

یہ چھ کتابیں ”ظاہر الروایہ“ کہلاتی ہیں کیونکہ یہ شہرت و تواتر کے ساتھ مستند طریقے پر منقول ہیں اس لئے انہیں ”أصول“ بھی کہا جاتا ہے۔ مذہب حنفی کو سمجھنے کے لئے یہ کتابیں بنیاد ہیں، اس لئے امام حاکم شہید رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۲ھ) نے ظاہر الروایہ کی چھ کتابوں سے مکرر مسائل کو حذف کر کے اس کی تلخیص ”الكافی فی فروع الحنفیۃ“ کے نام سے لکھی، لیکن یہ تلخیص اب تک الگ سے طبع نہیں ہے۔ اس کتاب کی شرح علامہ سرخی رحمہ اللہ (متوفی ۴۸۳ھ) نے ”المبسوط“ کے نام سے لکھی، یہ شرح ”دار المعرفة“ سے ۱۴۱۲ھ میں تیس (۳۰) جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کا تعارف ان شاء اللہ آگے آئے گا۔

امام محمد رحمہ اللہ کی مذکورہ بالا چھ کتابوں کے علاوہ تین کتابیں اور بھی مشہور ہیں، بعض اہل علم نے ان کو کتب ظاہر الروایہ کے ساتھ ملحظ کیا ہے، وہ تین کتابیں یہ ہیں:

۱..... الموطأ للإمام محمد کتاب الآثار

۲..... کتاب الحجۃ علیٰ أهل المدینۃ

چنانچہ دکتور علی احمد ندوی لکھتے ہیں:

و هنالک ٹلائیہ کتب اخیری للإمام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر بعض المؤلفین فیها أنها يمكن إلحاقدھا بالقسم الأول يعني بكتب ظاهر الروایۃ لشهرتها وأهميتها، وهي الموطأ للإمام محمد و کتاب الآثار و کتاب الحجۃ علیٰ أهل المدینۃ. ①

ترجمہ: امام محمد کی مزید تین کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بعض مؤلفین نے یہ لکھا ہے کہ ان کو پہلی قسم یعنی کتب ظاہر الروایہ کے ساتھ ملحظ کرنا ممکن ہے، کیونکہ یہ تینوں

① الإمام محمد بن الحسن الشیبانی: نابغة الفقه الإسلامی، ص ۱۲۲

کتابیں مشہور بھی ہیں اور اہم بھی، ان کے نام یہ ہیں:

الموطأ للإمام محمد، كتاب الآثار، الحجة على أهل المدينة
ان کتابوں کی اہمیت اور شہرت کی وجہ سے ان کا تعارف ذکر کیا جا رہا ہے اگرچہ اصالۃ
ان کا شمار کتب فقہ میں نہیں ہے۔

۱۲ الموطأ للإمام محمد

امام محمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ) نے اوائل عہد مہدی میں مدینہ منورہ کا سفر کیا اور تین سال تک مدینہ منورہ میں قیام کیا، موطا کی ساعت کی غرض سے مسلسل تین سال امام مالک رحمہ اللہ (متوفی ۹۷ھ) کی مجلس علم میں شریک رہے، امام محمد رحمہ اللہ کا مرتب کردہ موطا کا نسخہ تمام نسخوں میں مفید ترین ہے، آپ نے اسکیلے امام مالک رحمہ اللہ سے اس کی ساعت کی، اور اس دوران ایک سے زائد بار ان سے براہ راست ساعت کی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے صرف امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کردہ احادیث بیان کرنے پر ہی اکتفاء نہیں کیا، بلکہ روایات مالک کے ساتھ دیگر روایات بالخصوص علماء حجاز و عراق سے ساعت کردہ روایات کا بھی اس میں اضافہ کیا۔ موطا میں آپ نے امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر علماء کی روایت اور خود اپنے اجتہادات اور فقہی آراء بھی بیان کی ہیں اس لئے یہ ”موطا محمد“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ امام محمد رحمہ اللہ کی تعلیقات دقیق نظر اور اختصار کی وجہ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہیں، آپ نے تعصب اور تنگ نظری سے اپنے دامن کو محفوظ رکھا۔ یہ نسخہ اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اس میں اہل حجاز کی اُن احادیث کو بیان کیا ہے جنہیں اہل عراق نے اختیار کیا، اور اُن احادیث کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے ادلہ کے طور پر اختیار نہیں کیں مگر امام محمد رحمہ اللہ نے انہیں بیان کر دیا۔ یہ کتاب فقہی مذاہب کے نشوونما کے زمانے میں فقهہ مقارن کی امین و صادق صورت لئے ہوئے ہے۔

موطا امام محمد میں احادیث کی تعداد

موطا امام محمد میں کل احادیث (مرفوٰعہ، موقوفہ اور مقطوعہ چاہے وہ مندہ یا غیر مندہ) کی تعداد گیارہ سو اسی (۱۱۸۰) ہے، اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے طریق سے مرویات کی تعداد ایک ہزار پانچ (۱۰۰۵) ہے اور دوسرے طرق سے ایک سو پچھتر (۷۵) ہے، پھر ان میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے تیرہ (۱۳) روایات ہیں اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے طریق سے صرف چار (۴) ہیں، اور باقی دیگر ائمہ کرام سے مروی ہیں۔

موطا امام محمد کی موطا مالک پر وجودہ ترجیح

۱..... امام تیجی اندرسی رحمہ اللہ نے موطا کا سماع امام مالک رحمہ اللہ سے مکمل نہیں کیا بلکہ انہوں نے تکمیل سماع ان کے بعض تلامذہ سے کی ہے، بخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے کہ انہوں نے مکمل موطا کا سماع امام مالک رحمہ اللہ سے کیا ہے۔

۲..... امام تیجی اندرسی رحمہ اللہ تو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس اس کے سن وفات میں حاضر ہوئے اور امام محمد رحمہ اللہ تو تین سال تک آپ کے عین حیات میں آپ کے ساتھ رہے اور یہ بات تو امر بدیہی ہے کہ طویل اصحابت راوی کی روایت بنسخت قلیل الملازمنت کے قوی ہوا کرتی ہے۔

۳..... امام تیجی اندرسی رحمہ اللہ کی موطا تو صرف امام مالک رحمہ اللہ کے پسندیدہ اجتہادات، استنباطات اور مسائل فقہیہ پر مشتمل ہے، نیز اس کے اکثر تراجم میں بغیر امام مالک رحمہ اللہ کے اجتہادات اور استنباطات کے کسی حدیث، خبر اور اثر کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، بخلاف موطا امام محمد کے کہ اس میں کوئی بھی ترجمۃ الباب ایسی روایات سے خالی نہیں ہوتا جو عنوان سے موافق نہ رکھتا ہو، چاہے وہ احادیث مرفوٰعہ ہوں یا موقوفہ یا مقطوعہ۔

۳.....امام تیجی اندرسی رحمہ اللہ کی روایت کردہ موطا صرف ان احادیث پر مشتمل ہے جو صرف بطریق امام مالک مردی ہیں نہ کہ بطریق غیر مالک پر، اور موطا امام محمد امام مالک کے طریق پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی احادیث مردیہ پر بھی مشتمل ہے جو کہ امام نے اپنے دوسرے شیوخ سے روایت کی ہیں اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو کتاب کہ مختلف شیوخ کی مردیات پر مشتمل ہو وہ افضل ہو گی اس کتاب سے جو اس فائدہ سے خالی ہو۔ ①

موطا امام محمد کا طرزِ تالیف

علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) نے موطا امام محمد کی شرح میں امام محمد رحمہ اللہ کا طور طریقہ بے سلسلہ ذکر احادیث بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کی عادات میں سے ہے:

۱.....ترجمۃ الباب کے بعد متصل اپنی روایات کا تذکرہ امام مالک رحمہ اللہ سے کرتے ہیں خواہ وہ روایت مرفوع ہو یا موقوف۔

۲.....شروع عنوان میں یا تلفظ ”الكتاب“ یا ”الباب“ کا ذکر کرتے ہیں اور بھی لفظ ”الأبواب“ بھی ذکر کر دیتے ہیں اور اس میں لفظ ”فصل“ کا تذکرہ بالکل نہیں ہے، مگر جہاں نسخوں کا اختلاف ہو اور شاید یہ بھی کاتبین کا کارنامہ ہو۔

۳.....ایک حدیث یا چند احادیث کے تذکرے کے بعد اس سے مستفاد حکم کا ذکر ”وبهذا نأخذ“ کے ساتھ کر کے پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

۴.....امام محمد کی روایت ”عن مالک“ سے جو چیز آپ کے مذہب کے مخالف معلوم ہوتی ہے تو اس پر تنبیہ کر دیتے ہیں اور پھر اس کی سند امام مالک کے طریق کے علاوہ.....

① المصنفات فی الحدیث: ص ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۲ / التعليق الممجد: مقدمة،



ذکر کر دیتے ہیں۔

۵..... آپ جو روایات امام مالک کے علاوہ دوسرے شیوخ سے نقل کرتے ہیں تو اس میں کسی شیخ معین (مثلاً ابو حنیفہ) پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی اور دوسرے مشائخ سے بھی نقل کرتے ہیں۔

۶..... امام محمد رحمہ اللہ کا معمول مشائخ سے روایت نقل کرنے میں صرف ”خبرنا“ ہے نہ بصورت ”حدثنا“ اور نہ کوئی دوسرے الفاظ میں تھا۔

۷..... اکثر مقامات پر مختار قول ذکر کرنے کے بعد اپنی موافقت اپنے شیخ کے ساتھ بتانے کے لئے ”وهو قول أبي حنيفة“ کا فرمایا ہے، مگر شاذ و نادر جہاں آپ کی رائے امام صاحب کی رائے کے مخالف ہو تو وہاں ”وهو قول أبي حنيفة“ کا ذکر نہیں کرتے۔

۸..... اکثر موضع میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں ”والعامة من فقهائنا“ اور ان فقہاء سے مراد فقہاء عراق اور کوفہ ہوتے ہیں۔

۹..... کبھی ابراہیم بن حنفی رحمہ اللہ کے مذهب کی تصریح کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے مذهب پر مسلک حنفیہ کا دار و مدار ہے۔

۱۰..... آپ نے موطا امام محمد اور ”كتاب الآثار“ میں اپنے ساتھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مذهب کا تذکرہ بالکل نہیں کیا، نہ موافقت کی صورت میں اور نہ مخالفت کی صورت میں (اس پر علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ لکھتے ہیں) کہ اس سے آپ حضرات بطورِ مفہوم مخالف ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اپنے مذهب اور اپنے شیخ ابو حنیفہ کے مذهب کے تذکرے پر اکتفاء کر لینے سے امام ابو یوسف کی مخالفت مقصود ہوتی تھی۔

۱۱..... اکثر موطا میں جو آپ فرماتے ہیں ”هذا حسن“ یا ”جمیل“ اور

”مستحسن“ تو اس سے مراد واجب کے بالمقابل عام معنی مراد ہوتا ہے جو سنت مؤكدہ اور غیر مؤكدہ سب کو شامل ہوتا ہے اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ عرض موضع میں خود یہ تصریح کر دیتے ہیں ”هذا حسن ولیس بواجب“ اس لئے ”هذا حسن“ وغیرہ سے بھی ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اس وہ صرف مستحب ہی کے لئے ہے سنت کے لئے نہیں ہے۔

۱۲..... آپ موطا میں بعض سنن کے بارے میں لفظ ”لا بأس“ کا ذکر کر دیتے ہیں جیسے کہ باب التراویح وغیرہ میں اور اس سے مراد صرف نفس جواز ہوتا ہے، حالانکہ متاخرین کے نزدیک لفظ ”لا بأس“ مکروہ تشرییبی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لئے ”لا بأس“ کے دونوں استعمالات میں اس سے مراد لینے میں محتاط رہنا چاہئے۔

۱۳..... اکثر موطا میں آپ یہ قول بھی فرماتے رہتے ہیں ”ينبغى كذا و كذا“ اور چونکہ متاخرین اس جیسے الفاظ استحباب کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لئے علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان الفاظ سے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ کام صرف مستحب ہی ہے، نہ سنت ہے اور نہ واجب، کیونکہ یہ لفظ متقید میں کی اصطلاح میں عام معنی میں مستعمل ہوتا ہے جو کہ (مستحب کے ساتھ ساتھ) سنت مؤكدہ اور واجب کو بھی شامل ہوتا ہے۔

۱۴..... کبھی کبھار آپ موطا میں اپنے شیخ امام مالک کا مذہب (چاہے موافق ہو یا مخالف) نیز صحابہ کرام کے مذہب چاہے مند ہوں یا غیر مند کا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں۔

۱۵..... آپ لفظ ”اثر“ کا ذکر کر کے اس سے عام معنی مراد لیتے ہیں یعنی یہ کہ وہ حدیث مرفوع، موقوف اور مقطوع سب کو شامل ہے۔

۱۶..... آپ بعض آثار اور اخبار کا تذکرہ تو بطور غیر مند ہونے کے کرتے ہیں اور بعض کو ”بلغنا“ سے شروع کرتے ہیں، البته محدثین نے یہ ذکر کیا ہے جیسے کہ ”رد المحتار“ وغیرہ میں ہے کہ موطا امام محمد کی بلاغات مند ہی ہیں۔

پھر ”التعليق الممجد“ کے صفحہ ۱۳۶ اپر خاتمه کا عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں کہ اس کتاب (موطا امام محمد) میں کوئی حدیث موضوع نہیں ہے، ہاں اس میں ضعیف روایات ہیں لیکن اکثر میں معمولی ضعف ہے، جس کی تلافی کثرت طرق سے ہو جاتی ہے، البتہ بعض میں ضعف شدید ہے لیکن وہ اس لئے مضر اور نقصان دہ نہیں کہ اس جیسے مضمایں کا تذکرہ طرق صحاح میں بھی ہے۔ ①

”موطا امام محمد“ کی شروحات

”موطا امام محمد“ کی بہت سی شروحات لکھی گئیں، ان میں معروف مطبوعہ شروح دو ہیں:

۱..... فتح المغطی ۲..... التعليق الممجد

”فتح المغطی“ محدث کبیر ملا علی قاری رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۰۲ھ) کی تصنیف ہے، اس شرح میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ سند میں موجود روایات کے مختصر احوال ذکر کرتے ہیں، غریب الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں، عام فہم انداز میں حدیث کی تشریح نقل کرتے ہیں، فقهاء کے مذاہب اور اختصار کے ساتھ ان کے دلائل، متعارض فیہ روایات میں تطبیق اور حنفی مسلک کی وجہ ترجیح ذکر کرتے ہیں۔ مشہور اختلافی مسائل کا تذکرہ قدرے تفصیل سے کرتے ہیں۔ قدیم نسخے میں کافی اغلاط تھیں اور روایات کی تخریج و تعلیق بھی نہیں تھی، لیکن اب یہ نسخہ حضرت مولانا مفتی محمد مفیض الرحمن کی عمدہ تعلیقات، تخریج اور اعلام و ترجم کے ساتھ عمدہ کتابت میں طبع ہوا ہے۔ اس کے شروع میں ملا علی قاری رحمہ اللہ کے حالات اور آپ کی (۱۵۱) تصنیف اور رسائل کے نام بھی ذکر کئے ہیں، مخشی نے اس کتاب کی تعلیقات میں زیادہ تر استفادہ علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ کی ”التعليق الممجد“ سے کیا ہے،

① المصنفات في الحديث: ص ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱ / التعليق الممجد: مقدمة،

اب اس میں بیک وقت اصل متن بھی ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح بھی ہے اور حواشی میں ”التعليق الممجد“ کے اہم مباحث بھی ہیں اور تعلیق و تخریج بھی ہے، اس لئے یہ نسخہ قدیم تمام نسخوں سے بہتر ہے۔ یہ محقق نسخہ ”مکتبۃ البشیری“ سے ایک جلد میں طبع ہے۔

”موطأ امام محمد“ کی دوسری شرح ”التعليق الممجد علی موطأ الإمام محمد“ ہے، یہ شرح محقق اعصر علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) کی ہے، یہ شرح اصل کتاب کے ساتھ پاکستانی نسخوں میں حواشی کے طور پر طبع ہے، ”قدیمی کتب خانہ“ سے جو نسخہ طبع ہے اس کے حواشی میں یہ مکمل شرح موجود ہے۔

اس شرح کے شروع میں مصنف نے مفید مقدمہ لکھا ہے، اس میں درج ذیل تیرہ
(۱۳) فوائد پر گفتگو ہے:

الفائدة الأولى في كيفية شيوخ كتابة الأحاديث وبدأ تدوين التصانيف.
يعني پہلے فائدے کے تحت احادیث کی کتابت، تدوین حدیث اور اس فن پر لکھی گئی تصانیف کا ذکر ہے۔

الفائدة الثانية في ترجمة الإمام مالك.

دوسرے فائدے میں امام مالک رحمہ اللہ کی جامع انداز میں سوانح ہے۔


الفائدة الثالثة في ذكر فضل الموطأ.

تیسرا فائدے میں موطأ مالک کے فضائل کا ذکر ہے۔

الفائدة الرابعة في دفع التعارض بين قول الشافعى وقول الجمهور.

چوتھے فائدے میں امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور کے قول کے درمیان تعارض کو دور کیا ہے۔

الفائدة الخامسة في ذكر أصح الأسانيد.




- پانچویں فائدے میں اسناد میں صحیح الاسانید کا ذکر کیا ہے۔
- الفائدة السادسة في ذكر الرواۃ عن مالک.
- چھٹے فائدے میں امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کرنے والے روایات کا تذکرہ ہے۔
- الفائدة السابعة في ذكر نسخ الموطأ.
- ساتویں فائدے میں موطاکے نسخوں کا ذکر ہے۔
- الفائدة الثامنة في عدد أحاديث موطاً مالك.
- آٹھویں فائدے میں موطا مالک کی احادیث کی تعداد ذکر کی گئی ہے۔
- الفائدة التاسعة في ذكر من علق على الموطأ.
- نویں فائدے میں موطا مالک کی مرسل اور معلق روایات ذکر کی گئی ہیں۔
- الفائدة العاشرة في نشر آثار الإمام محمد و شیخیہ.
- دویں فائدے میں امام محمد اور آپ کے دو شیوخ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہمَا اللہ کی سوانح اور آپ پر کئے گئے نقد و جرح کے جوابات ذکر کئے گئے ہیں۔
- الفائدة الحادية عشر في ترجيح موطاً محمد.
- گیارہویں فائدے میں موطا محمد کی ترجیحات کا ذکر ہے۔
- الفائدة الثانية عشر في تعداد الأحاديث التي في موطاً محمد.
- بازہویں فائدے میں موطا محمد میں موجود احادیث کی تعداد کا ذکر ہے۔
- الفائدة الثالثة عشر في عادات الإمام محمد في الموطأ.
- تیرہویں فائدے میں امام محمد رحمہ اللہ کے موطا میں جواہل و عادات رہی ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔
- آپ کا یہ مقدمہ اہل علم کے لئے ایک گراں قدر اور مفید معلومات پر مشتمل ایک نایاب

تحفہ ہے۔ اس شرح میں آپ کا اسلوب یہ ہے کہ متن حدیث میں موجود غریب الفاظ کیوضاحت کرتے ہیں، فقہاء کے مذاہب اور اختصار کے ساتھ ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں، متفقہ میں اور متأخر میں شارحین حدیث کی تشریحات جا بجا ذکر کرتے ہیں، خصوصاً ”فتح الباری، عمدة القاری“ سے، اگر وہ روایت بظاہر متعارض فیہ ہو تو اس کی تطبیق و ترجیح ذکر کرتے ہیں، کسی صحابی کا نام پہلی مرتبہ آئے تو ”الاستیعاب، اسد الغابة“ اور ”الإصابة“ سے مختصر آن کے احوال ذکر کرتے ہیں، اس میں شرح حدیث کے ساتھ ساتھ کئی احادیث سے متعلق مفید مباحث کا ذکر ہے، خصوصاً اختلافی مسائل کو بڑے بسط کے ساتھ باحوالہ لکھا ہے۔ مصنف صرف ناقل ہی نہیں بلکہ محقق و ناقد عالم ہیں، آپ میں مذہبی تعصب نہیں تھا، اس شرح میں فقہاء اربعہ کے ساتھ دیگر ائمہ محدثین و فقہاء کی آراء بھی ذکر کی ہیں، جا بجا ملا علی قاری رحمہ اللہ کے اُن تسامفات کی بھی نشاندہی کی ہے جو ان سے موطا امام محمد کی شرح میں ہوئے ہیں، اس شرح کا محقق نسخہ وہ ہے جو دکتور تقی الدین ندوی کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ تین جلدیں میں ”دار القلم“ سے طبع ہے۔

۱۳ کتاب الآثار للإمام محمد

یہ امام محمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ) کی تالیف ہے، یہ کتاب اس لحاظ سے بڑی قدر و قیمت کی حامل ہے کہ یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے مروی احادیث و آثار صحابہ و تابعین کا مأخذ ہے، اس میں امام محمد رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے مروی روایات کو نقل کیا ہے، اس سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے احادیث میں کثرت شیوخ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس میں بہت سی روایات ثلاثی ہیں، اس میں اکثر روایات ”أَخْبَرْنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ“ کی سند سے مروی ہیں۔ اس کتاب میں کل (۲۶۸) احادیث ہیں۔ احادیث نقل کرنے کے بعد عموماً امام محمد رحمہ اللہ اپنی اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی اس



مسئلے سے متعلق فقہی آراء بھی ذکر کرتے ہیں۔

امام محمد رحمہ اللہ کی ”کتاب الآثار“ کا یہ نسخہ تمام شخصوں میں سب سے مشہور، متدالوں اور مقبول ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۲ھ) اس نسخے کے تعارف میں فرماتے ہیں:

والموجود من حديث أبي حنيفة مفردا إنما هو كتاب الآثار التي

رواهها محمد بن الحسن عنه. ①

امام محمد رحمہ اللہ سے اس نسخے کو ان کے کئی تلامذہ نے روایت کیا ہے، مطبوعہ نسخہ امام ابو حفص کبیر رحمہ اللہ اور ابو سلیمان جوزجانی رحمہ اللہ کا روایت کردہ ہے، علامہ قاسم بن قطلو بغا رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۹ھ) نے بھی ”کتاب الآثار“ کے اس نسخے کا ذکر کیا ہے۔ ②

حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۱ھ) نے ”کتاب الآثار“ کے عنوان کے تحت اس کتاب کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس پر لکھی گئی شروحات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ③

علامہ کتابی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۵ھ) نے ان الفاظ میں ”کتاب الآثار“ کا ذکر کیا ہے:

وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وأحد رواة الموطأ وهو مرتب على الأبواب الفقهية في مجلدة لطيفة. ④

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ) نے اس کتاب کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

وصله محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن أبي حنيفة. ⑤

● تعجیل المنفعۃ: مقدمة، ج ۱ ص ۲۳۹

● تاج التراجم: ترجمة: محمد بن الحسن، ص ۲۸

● کشف الظنون: باب الكاف / كتاب الآثار: ج ۲ ص ۱۳۸۲

● الرسالة المستطرفة: کتب مرتب على الأبواب الفقهية، ص ۳۲

● فتح الباری: كتاب الإکراه، باب یمین الرجل لصاحبہ، ج ۱۲ ص ۲۵۲

علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ) نے بھی امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ”کتاب الآثار“ کا ذکر کیا ہے:

رواہ محمد بن الحسن فی کتاب الآثار. ①

علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) نے ”تحفة الأحوذی“ میں متعدد مقامات پر اس کتاب کا حوالہ دیا ہے:

وروی محمد بن الحسن فی الآثار عن أبي حنيفة. ②

”کتاب الآثار“ کے رجال پر لکھی گئی کتابیں

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۲ھ) نے اس کتاب کے رجال پر دو کتابیں لکھی ہیں: ”الإیشار بمعروفة رواة الآثار“، ”تعجیل المنفعة بزواائد رجال الأئمة الأربعۃ“.

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”الإیشار بمعروفة رواة الآثار“ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ بعض ساتھیوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ”کتاب الآثار“ برداشت امام محمد کے رجال پر لکھوں، میں نے ان کی یہ درخواست قبول کی اور حروفِ تہجی کے اعتبار سے رجال کے احوال لکھے، جن اکابر کا تذکرہ ”تهذیب الکمال فی أسماء الرجال“ میں ہے ان کا صرف نام ذکر کیا، کیونکہ ”تهذیب“ میں ہر راوی کے حالات تفصیلًا موجود تھے، اور جن کے حالات نہیں تھے تو اختصار کے ساتھ ان کے حالات اور ان کی تعدل و توثیق سے متعلق اقوال نقل کر دیئے اور میں نے اس کا نام ”الإیشار بمعروفة رواة الآثار“ رکھا۔ ③

① عمدة القارى: کتاب موافیت الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين، ج ۲ ص ۱۵

② تحفة الأحوذی: أبواب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام، ج ۳ ص ۳۲۹،

ج ۱ ص ۳۶۸، ج ۳ ص ۲۹۳، ج ۲ ص ۱۱۹، ج ۲ ص ۵۳۹، ج ۵ ص ۵۰۷

③ الإیشار بمعروفة رواة الآثار: مقدمة، ص ۳۵

”الإِيْشَارَ“ کا یہ سخنہ اب محقق سید کسری حسن کی تحقیق کے ساتھ ایک جلد میں ”دار الکتب العلمیة“ سے ۱۴۳۲ھ میں طبع ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی دوسری کتاب ”تعجیل المفہوم بزوال وائد رجال الأئمۃ الأربعة“ ہے، اس کتاب میں انہوں نے ائمہ اربعہ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ کی کتابوں میں جو رجال ہیں صرف ان کے حالات پر لکھے ہیں۔ حافظ نے اس کتاب میں زیادہ تر استفادہ ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حمزہ الحسینی المشقی رحمہ اللہ (متوفی ۶۵ھ) کی کتاب ”التذکرة بمعروفة رجال الکتب العشرة“ سے کیا ہے، اس کتاب میں صحاح ستہ اور ائمہ اربعہ کے رجال کے حالات ہیں۔ حافظ نے صحاح ستہ کے رجال پر دو کتابیں لکھیں ”تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب“ حافظ نے ”تعجیل المفہوم“ میں ان روایات کے حالات نہیں لکھے ہیں جن کا ذکر کتب ستہ کے رجال میں آچکا تھا، اس کتاب میں صرف ائمہ اربعہ کی کتب کے ان رجال کا تذکرہ ہے جن کا ذکر کتب ستہ کے رجال میں نہیں تھا۔

علامہ ابو جعفر کتانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۲۵ھ) صحاح ستہ اور ائمہ اربعہ کی کتابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ دو کتابیں ہیں جن پر دین اسلام کا مدار ہے:

فهذه هي كتب الأئمۃ الأربعة ویاضافتها إلى الستة الأولى تکمل

الکتب العشرة التي هي أصول الإسلام وعليها مدار الدين. ①

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ”تعجیل المفہوم بزوال وائد رجال الأئمۃ الأربعة“ کا ذکر ملا کاتب چلپی رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۶ھ) نے بھی کیا ہے:

تعجیل المفہوم برواية رجال الأئمۃ الأربعة يعني: المذاهب. للشيخ

شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى سنة

① الرسالة المستطرفة: کتب الأئمۃ الأربعة، أرباب المذاهب المتّبعة، ص ۱۹

۸۵۲ اثنین و خمسین و ثمانمائے۔ ①

”کتاب الآثار“ کے رجال پر علامہ قاسم بن قطلو بغارحہ اللہ (متوفی ۹۷۶ھ) نے بھی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا ذکر علامہ سخاوی رحمہ اللہ (متوفی ۹۰۲ھ) نے کیا ہے:
للذين قاسم الحنفى رجال كل من الطحاوى والموطا لمحمد بن

الحسن والآثار ومسند أبي حنيفة لابن المقرى۔ ②

علامہ ابو جعفر الکتانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۵ھ) نے بھی اس کتاب کا ذکر کیا ہے:

للسیخ قاسم بن قطلو بغا الحنفی وهو المسماى بالإیثار فی رجال

معانی الآثار۔ ③

”کتاب الآثار“ کی شروحات

ا..... ملا کاتب چلپی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۷ھ) نے نقل کیا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ (متوفی ۹۳۲ھ) نے ”کتاب الآثار“ بروایت امام محمد کی شرح لکھی ہے:

كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن وهو مختصر على ترتيب الفقه
ذكر فيه ما روی عن أبي حنيفة من الآثار وعليه شرح للحافظ الطحاوی
الحنفی۔ ④

ب..... شمس الائمه سرخی رحمہ اللہ (متوفی ۹۸۳ھ) نے ”کتاب الآثار“ کے متعلق خود امام محمد رحمہ اللہ کی شرح کا حوالہ دیا ہے:

۱ کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: باب النساء: تعجیل المنفعة: ج ۱ ص ۲۱۸

۲ الإعلان بالتوبیخ: کتب رجال الحديث، ص ۱۱۲

۳ الرسالة المستطرفة: کتب فی بیان حال الرواۃ غیر الكتب المتقدمة، ص ۹۰۲

۴ کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: باب الكاف، کتاب الآثار، ج ۲ ص ۲۱۸



فقد ذكر محمد في شرح الآثار أنه بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم

يُفعل۔ ①

۳..... علامہ ابوالفضل محمد خلیل بن احمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۰۶ھ) نے علامہ ابوالفضل نور الدین علی بن مروان العمری الموصلي الشافعی رحمہ اللہ کے حالات میں ”کتاب الآثار للإمام محمد“ پر ان کی شرح کا ذکر کیا ہے:

وله تأليفات لطيفة منها شرح كتاب الآثار للإمام محمد وشرح الفقه

الأكبر للإمام الأعظم وله على كل فن تعليقات. ②

۴..... مولانا قیام الدین عبدالباری فرنگی محلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۲ھ) کی ایک نادر تالیف ”تعليق المختار على كتاب الآثار“ یہ کتاب ”رحمۃ الکیدمی“ سے شائع ہوئی ہے، اس کتاب میں حنفی مذهب کی تاریخ، کتب حدیث کی اہمیت اور ان کے مراتب و درجات، کتاب الآثار کا مقام و مرتبہ، لفظ ”آثر“ کی تحقیق، تعداد احادیث، ”کتاب الآثار“ میں امام محمد کا انداز بیان و استدلال، بحث جرح و تعلیل، بحث ارسال حدیث وغیرہ کا ذکر ہے۔

۵..... محقق الحصر علامہ ابوالوفاء الافغانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۵ھ) صدر ”احیاء المعارف النعمانیہ“ حیدر آباد الدکن بالہند نے ”کتاب الآثار“ کی نہایت مفید شرح لکھی ہے، تمام روایات کی تحقیق و تخریج بھی کی ہے، فقهاء کے اختلافات کو بھی نہایت بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے۔
.....

① المبسوط: كتاب الصلاة، باب الوضوء والغسل، ج ۱ ص ۸۰

② سلک الدرر فی أعيان القرن الثاني عشر: حرف العین، ترجمة: علی العمري،

کتاب کے شروع میں (۱۳۹) صفحات پر مشتمل ایک مبسوط مقدمہ ہے، جس میں امام اعظم رحمہ اللہ کا ذکر خیر، امام صاحب کے شیوخ، آپ کے اخلاق، سخاوت، تقویٰ، آپ کی فقہی بصیرت، امام محمد رحمہ اللہ کے حالات، ”کتاب الآثار“ اور اس کے متعدد نسخوں کی نشاندہی، امام صاحب کی مسانید کا ذکر اور اس کے علاوہ نہایت گراں قدر علمی مباحثہ کا ذکر کیا ہے، یہ شرح ”دار الكتب العلمية“ سے طبع ہے۔

۶..... حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن شاہ جہاں پوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۶ھ) نے نہایت تفصیل کے ساتھ ایک مبسوط و محققانہ شرح لکھی ہے، جس کا نام ”قلائد الأزهار علی کتاب الآثار“ ہے جو تین صیخیم جلدوں میں ہے، اس شرح کے متعلق علامہ ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

شرح حسن لام یہ مثلہ۔

رقم کی رائے کے مطابق موجودہ ”کتاب الآثار“ کی شروحات اس سے مفصل و مدلل اور محقق شرح نظر سے نہیں گزری، جامعہ دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں یہ شرح موجود ہے، کاش کوئی عالم جو فن حدیث، رجال اور فقہ پر عمیق مطالعہ رکھتا ہو تو اس شرح پر کام کر کے اس کو تحقیق و تخریج کے ساتھ عمدہ طباعت سے شائع کروائے تو یہ اہل علم کے لئے نہایت مفید کاوش ہوگی۔

۷..... شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ کی ”المختار شرح کتاب الآثار“ ہے، یہ ”کتاب الآثار“ کا اردو ترجمہ اور مختصر تشریح ہے۔

۸..... حضرت مولانا مفتی حفیظ الرحمن مدظلہ کی ”الازہار علی کتاب الآثار“ دو صیخیم جلدوں میں اردو زبان میں مدلل و مفصل شرح ہے، شرح میں تقریباً (۲۵۰) صفحات پر مشتمل علم حدیث سے متعلق نہایت مبسوط مقدمہ ہے، شرح میں حل لغات بھی ہے، تمام اختلافی

مسائل کی نہایت مفصل شرح ہے، ہر مسئلے کو عنوان کے تحت دلائل کے ساتھ لکھا ہے، اردو زبان میں ”کتاب الآثار“ کی اس قدر مفصل شرح نظر سے نہیں گزری۔

^۹..... حضرت مولانا محمد حسین صدیقی صاحب کی اردو زبان میں ”روضۃ الازہار شرح کتاب الآثار“ کے نام سے مختصر شرح ہے، اس میں مذکورہ اختلافی مسائل کو دلائل کے ساتھ لکھا کیا ہے، جس صحابی یا تابعی سے روایت مردی ہے، باحوالہ اختصار کے ساتھ ان کے حالات بھی لکھے ہیں، حل لغات، مصادر اور مراجع کا بیان بھی ہے، ۲۳۶ صفحات پر مشتمل یہ شرح ”مکتبہ جامعہ بنوریہ“ سے طبع ہے۔

۱۳ الحجۃ علی اہل المدینۃ

یہ امام محمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ) کی تصنیف ہے، اس کتاب میں امام محمد رحمہ اللہ نے اہم اختلافی مسائل میں اہل کوفہ اور اہل مدینہ کے درمیان اختلاف بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا اسلوب تحریر یہ ہے کہ ہر باب کے شروع میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بیان کی جاتی ہے، پھر اہل مدینہ کی رائے اور ان کے دلائل کا بیان ہوتا ہے، پھر امام محمد رحمہ اللہ ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آپ کا یہ نقد روایت اور درایت دونوں پہلو سے ہوتا ہے، نقد کے دوران احادیث، آثار صحابہ و تابعین کا ذکر بالسند کرتے ہیں، چنانچہ مسح علی الخفین کے مسئلہ میں اہل مدینہ کی رائے ہے کہ موزوں کے اوپر اور نیچے دونوں جگہ مسح کیا جائے گا، امام محمد رحمہ اللہ اہل مدینہ کا نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسْنِ وَكَيْفَ قَالَ هَذَا اهْلُ الْمَدِينَةَ فَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا

یبصر شیئاً یتَکَلَّمُ بِمِثْلِ هَذَا فَقَدْ جَاءَ الْحَدِیثُ الْمَعْرُوفُ. ①

امام محمد رحمہ اللہ متغصب نہیں تھے، آپ حق اور دلیل کے پیروکار تھے، بعض مقامات پر

① الحجۃ علی اہل المدینۃ: باب المسح علی الخفین، ج ۱ ص ۳۵

آپ نے اہل مدینہ کی رائے کو ترجیح دی ہے اور فرمایا کہ اہل مدینہ کا قول مجھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول سے زیادہ پسند ہے، چنانچہ اس مسئلہ میں اگر جمعہ کا دن یوم عرفہ یا یوم نحر یا ایام تشریق میں آتا ہو تو ان دنوں میں منی کے سوا کہیں جمعہ ادا نہ کیا جائے گا، بشرطیکہ زمانہ حج کا ذمہ دار خلیفہ ہو، یا حجاز کا امیر ہو یا مکہ کا امیر ہو۔ اہل مدینہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر جمعہ کا دن یوم عرفہ یا یوم النحر یا ایام تشریق میں بنتا ہو تو منی میں بھی ان ایام میں جمعہ ادا نہ کیا جائے گا۔

امام محمد رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسْنِ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا أَعْجَبٌ إِلَيَّ مِنْ

قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. ①

اسی طرح مزید دو اور مقامات پر آپ نے اہل مدینہ کے قول کو ترجیح دی ہے، دیکھئے

تفصیلاً: ②

یہ امام محمد رحمہ اللہ کا کمال تھا کہ رد کے دوران بھی آپ سے اعتدال کا دامن نہیں چھوٹتا تھا۔

اس کتاب میں مندرجہ ذیل بارہ کتب کے تحت اختلافی مسائل کا ذکر ہے:

۱ کتاب الطهارة، ۲ کتاب الصلاۃ، ۳ کتاب الصیام، ۴ کتاب الزکاة، ۵ کتاب المناسک، ۶ کتاب البيوع، ۷ کتاب الكراہیۃ والاستحسان، ۸ کتاب المضاربة، ۹ کتاب النکاح، ۱۰ کتاب المسافۃ، ۱۱ کتاب الفرائض من الحج، ۱۲ کتاب الديات

والقصاص

① الحجۃ علی اهل مدینۃ: کتاب المناسک، ج ۲ ص ۳۳۱

② الحجۃ علی اهل مدینۃ: ج ۱ ص ۱۲۸ / ج ۲ ص ۲۲

اس کتاب میں امام صاحب سے مروی دلائل سند کے ساتھ ذکر ہیں، احادیث، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس کتاب میں احناف کے اکثر نقلی دلائل موجود ہیں، مرفوع، موقوف اور مقطوع روایات کا سند کے ساتھ ایک بیش بہا ذخیرہ ہے، صرف ایک مسی ذکر کے مسئلے میں سولہ مرفوع، موقوف اور مقطوع روایات نقل کی ہیں، اسی طرح ہر ہر مسئلے میں۔ یہ کتاب جواب ہے ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں احناف کے پاس احادیث نہیں ہیں، یہ صدر اول کی کتاب ہے، امام صاحب کے براہ راست شاگرد اور حنفی مسلک کے ترجمان کی تصنیف ہے، کتاب میں موجود دلائل، جوابات اور وجہ ترجیح دیکھ کر امام محمد رحمہ اللہ کی ذہانت و فصاحت کا اندازہ ہوتا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ قول یاد آتا ہے جو انہوں نے اپنے استاذ کے متعلق کہا:

لو أشاء أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت

لفصاحتہ۔ ①

اس کتاب میں اکثر روایات ثانی یا ثلاثی ہیں، کاش کوئی صاحب علم و تحقیق ان احادیث و روایات کے دلائل کو تعلیق و تخریج کے ساتھ الگ سے شائع کر دے تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، اور ان لوگوں کے لئے دنдан شکن جواب ہوگا جو کہتے ہیں ان کے پاس احادیث نہیں ہیں۔

یہ کتاب محقق العصر حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن شاہ جہاں پوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۶ھ) کی نہایت مفید تعلیق و تحقیق، تخریج اور علمی مقدمے کے ساتھ چار جلدیں میں مکتبہ ”دارالمعارف عثمانیہ“ لاہور سے طبع ہے۔ اسی طرح ”عالم الكتب“ بیروت سے بھی چار جلدیں میں طبع ہے۔

امام محمد سے مروی کتب نوادر

امام محمد رحمہ اللہ کی معروف چھ کتابوں کے علاوہ جو مسائل ائمہ مذہب سے منقول ہیں اور وہ کتب ظاہر الروایہ میں نہیں ہیں، انہیں ”نوادر مسائل“ کہا جاتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ایسے مسائل درج ذیل کتابوں میں موجود ہیں:

۱..... ”کیسانیات“ یہ وہ مسائل ہیں جو شعیب بن سلیمان کیسانی رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ سے روایت کئے ہیں۔

۲..... ”الهارونیات“ یہ وہ مسائل ہیں جو ہارون الرشید کے لئے یا اس سے تعلق کے زمانے میں بیان کئے۔

۳..... ”الرقیات“ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں امام محمد رحمہ اللہ نے ”رفہ“ شہر کے قیام کے زمانے میں مستنبط کیا، اسے امام ابن سماعہ رحمہ اللہ نے آپ سے روایت کیا۔


۴..... ”الجرجانیات“ یہ وہ مسائل ہیں جو علی بن صالح جرجانی رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ سے روایت کئے۔

۵..... ”النوادر“ امام ابراہیم بن رستم رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ سے روایت کی ہے۔ ①

یہ مذکورہ بالا کتابیں یا تو ان اشخاص کی طرف منسوب ہیں جنہوں نے اسے روایت کیا، یا جب امام محمد رحمہ اللہ ان شہروں کے قاضی تھے اس وقت آپ سے یہ مسائل نقل کئے گئے۔

جس طرح ان کتابوں کے مسائل نوادرات میں سے ہیں، اسی طرح اب یہ کتابیں بھی نادر الوجود ہیں، چنانچہ علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۶ھ) ان کتابوں کے

متعلق لکھتے ہیں:
.....



وقد أصبحت تلك الكتب نوادر في الخزانات كما أن مسائلها تعد
نوادر في المذاهب. ①

ترجمہ: جیسے ان کتابوں کے مسائل مذهب حنفی کے نوادر میں سے شارکئے گئے ہیں،
اسی طرح اب یہ کتابیں بھی لا بھر بیوں کے نوادرات میں سے ہیں۔
نوادر کے مسائل پر مشتمل مذکورہ بالا کتب اور دیگر کئی کتابیں ضائع ہو گئیں ہیں، اس
وقت ان کتابوں کے مطبوعہ نسخ موجود نہیں ہیں، البتہ ایسے مسائل علامہ سرخسی رحمہ اللہ
(متوفی ۳۸۳ھ) نے اور متقدمین میں فقہاء الحنف نے ذکر کئے ہیں، اسی طرح کتب فتاوی
کے ذریعے بھی اس کے بعض مسائل ہم تک پہنچے ہیں:

وقد ضاعت معظم هذه النوادر ويدرك السرخسي وغيره من الفقهاء
الأحناف المتقدمين نقولاً كثيرة عن هذه النوادر. ②

٥ أدب القاضي

یہ امام ابو بکر احمد بن عمر والخصاف رحمہ اللہ (متوفی ۲۶۱ھ) کی تصنیف ہے، انہوں
نے اپنے والد عمر بن مہیر سے علم حاصل کیا اور انہوں نے امام حسن سے اور انہوں نے امام ابو
حنیفہ رحمہ اللہ سے، گویا یہ دو واسطوں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ خلیفہ مہتدی
باللہ کے ہاں یہ بڑے مرتبے والے تھے۔ ان کی تصنیف میں ”كتاب الحيل“، ”كتاب الحيل“، ”كتاب
الوصايا“، ”كتاب الشروط“، ”كتاب الرضاع“، ”كتاب المحاضر والسجلات“،
”كتاب النفقات على الأقارب“، ”كتاب أحكام الوقف“، اور ”كتاب ذرع
الكعبة“ ہیں۔ ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ (متوفی
۷۴۷ھ) نے ان کے ترجمہ کا آغاز ان القبابات سے کیا ہے ”العلامة، شیخ الحنفیة،
.....“

الفقيه، المحدث ”اور فرمایا“ ویذکر عنہ زهد و ورع ”ان کا تذکرہ زہد اور رُتقوی سے کیا جاتا ہے۔ علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) لکھتے ہیں کہ انہیں ”خضاف“، اس لئے کہتے ہیں کہ جو تے بنانے کا کام کرتے تھے اور اس نام کے ساتھ اس لئے مشہور ہوئے کہ ”لأنه كان يأكل من صنعته“، یہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ شمس الائمه حلوانی رحمہ اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں:

الخضاف رجل كبير في العلوم وهو من يصح الاقتداء به.

ترجمہ: خضاف علوم میں بہت بڑے آدمی ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کی

اقتداء کرنا درست ہے۔ ①

”أدب القاضى“ کی شروحات

اس کتاب کی قبولیت اور نافعیت کی وجہ سے کئی اکابر اہل علم نے اس کی شروحات لکھیں، جن میں معروف شارحین درج ذیل ہیں:

۱.....امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۰ھ) نے ”شرح أدب القاضى للجصاص“ کے نام سے شرح لکھی۔

۲.....امام ابو الحسن احمد بن محمد القدوری رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۸ھ) نے ”شرح أدب القاضى للقدوری“ کے نام سے شرح لکھی۔

۳.....شمس الائمه حلوانی رحمہ اللہ (متوفی ۴۲۸ھ) نے ”شرح أدب القاضى للحلوانى“ کے نام سے شرح لکھی، اس شرح کے حوالے سے بھی بعض مسائل ”المحيط البرهانی“ میں موجود ہیں۔

۴.....امام علی بن حسین سعدی رحمہ اللہ (متوفی ۴۶۱ھ) نے ”شرح أدب

القاضی للسگدی“ کے نام سے شرح لکھی۔

۵..... شمس الائمه سرخسی رحمہ اللہ (متوفی ۴۸۳ھ) نے ”شرح أدب القاضی للسرخسی“ کے نام سے شرح لکھی، اس شرح کے حوالے سے بعض مسائل ”المحيط البرهانی“ میں موجود ہیں۔

۶..... امام خواہزادہ رحمہ اللہ (متوفی ۴۸۳ھ)

۷..... امام عمر بن عبد العزیز المعروف صدر الشہید رحمہ اللہ (متوفی ۵۳۶ھ) نے ”شرح أدب القاضی للصدر الشہید“ کے نام سے شرح لکھی، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”وهو المشهور المتداول اليوم من بين الشروح“ یہ شرح تمام شروع میں آج کل مشہور و معروف ہے۔

۸..... علامہ قاضی خان رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۲ھ) ①

۱۶ مختصر الطحاوی

یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۱ھ) کی تصنیف ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ مسائل میں امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر اور امام حسن بن زیاد رحمہم اللہ کے اقوال نقل کرتے ہیں اور پھر اس میں ترجیح دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان حضرات کی رائے کے مقابل اپنی مستقل رائے نقل کرتے ہیں، بنیادی طور پر اس کتاب کی ترتیب امام طحاوی رحمہ اللہ کے ماموں اور استاذ امام مزنی رحمہ اللہ (متوفی ۴۶۳ھ) کی ”مختصر المزنی“ کی ترتیب پر ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ مسئلہ نقل کرنے کے بعد قرآن و سنت سے دلیل ذکر کرتے ہیں، اس کتاب میں احادیث و آثار سے استدلال واستشهاد کثرت سے ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ

چونکہ مجتهدانہ صلاحیت و بصیرت رکھتے تھے، اس لئے بعض مسائل میں انہوں نے ائمہ مذہب سے بھی اختلاف کیا ہے۔ علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) امام طحاوی رحمہ اللہ کو امام ابو یوسف اور امام محمد جہما اللہ کے طبقے میں شمار کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ قوی قول کے مطابق ان کا درجہ ان حضرات سے کم نہیں ہے:

و بالجملة فهو من طبقة أبي يوسف ومحمد، لا ينحط عن مرتبتها

على القول المسدد. ①

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۹ھ) امام طحاوی رحمہ اللہ کی ”مختصر الطحاوی“ کے متعلق لکھتے ہیں:

باید دانست کہ مختصر طحاوی دلالت می کند کہ وہی مجتهد منتب بود و محض مقلد مذہب حنفی نبود زیرا کہ در ان مختصر چیز ہا اختیار کردہ کہ مخالف مذہب ابوحنفیہ است ولہذا آن مختصر در فقہائے این مذہب کہ محض مقلد انہ چند ان شیوں پیدا نکردا۔

ترجمہ: ”مختصر الطحاوی“ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حنفی مذہب کے محض مقلد ہی نہ تھے بلکہ مجتهد منتب تھے، کیونکہ اس مختصر میں بہت سے ایسے مسائل لکھے ہیں جو حنفی مذہب کے خلاف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فقہائے حنفیہ میں اس مختصر کی اس قدر شهرت نہیں ہوئی۔ ②

یہ کتاب علامہ ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۵ھ) کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ ”إحياء المعارف النعمانية“ ہند سے طبع ہے۔

”مختصر الطحاوی“ کی شروحات

امام طحاوی رحمہ اللہ کے اس مختصر مگر جامع متن کی مقبولیت و نافعیت کی وجہ سے کئی ایک

② بستان الحمد شیع مترجم: ص ۲۳۰

الطبقات السنیۃ: ص ۳۱

اہل علم نے اس کی شروحات لکھیں، ان میں معروف شارحین درج ذیل ہیں:
 ۱.....امام احمد بن علی المعروف امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۰ھ) کی یہ
 شرح متعدد محققین کی تحقیق کے ساتھ آٹھ جلدیں میں ”دار البشائر الإسلامية“ سے
 ۱۴۳۱ھ میں طبع ہوئی ہے۔

۲.....امام ابو عبد اللہ حسین بن علی بن محمد الصیری رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۶ھ)

۳.....امام ابو نصر احمد بن محمد قطع رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۳ھ)

۴.....امام احمد بن منصور مظہری اسیجابی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۰ھ)

۵.....شمس الائمه سرسی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ) ①

۶.....شیخ الاسلام علی بن محمد سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۵۳۵ھ)

۷.....علامہ محمد بن عبدالکریم المعروف ابن المہندس دمشقی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۹ھ)

۸.....علامہ نجم الدین مستنصری رحمہ اللہ (متوفی ۶۵۲ھ) نے ”النور الامع

والبرهان الساطع فی شرح مختصر الطحاوی“ کے نام سے شرح لکھی۔

۹.....علامہ قاسم بن قطلوبغار رحمہ اللہ (متوفی ۸۷۹ھ) ②

۱ الكافی فی فروع الحنفیة

امام ابو الفضل محمد بن محمد بن احمد مروزی المعروف امام حاکم شہید رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۳ھ) آپ ایک مشہور محدث، قاضی اور فقیہ تھے، آپ ابتداء میں بخارا کے قاضی تھے، پھر خلیفہ حمید نے آپ کو وزارت کے عہدہ پر فائز کیا۔ آپ ایک عوامی شورش میں فجر کی نماز میں بحالت سجدہ شہید کئے گئے۔ ③

۱ کشف الظنون: مختصر الطحاوی، ج ۲ ص ۱۶۲

۲ هدیۃ العارفین: ج ۱ ص ۳۰۹ / ج ۱ ص ۸۳۰ / ج ۲ ص ۱۰۵ / ج ۲ ص ۳۷۷

۳ الجوہر المضیۃ: ج ۲ ص ۱۱۳

آپ ایک واسطے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۱ھ) کے حدیث میں شاگرد ہیں، آپ کے شیخ ابو جاء محمد بن حمدویہ ہو رقانی ہیں، یہ امام احمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام حاکم نیساپوری رحمہ اللہ (متوفی ۴۰۵ھ) ”تاریخ نیساپور“ میں ان کے متعلق فرماتے ہیں:

ما رأيت في جملة من كتب عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ
للحاديث وأهدي إلى رسومه وأفهم له منه. ①

ترجمہ: میں نے محمد بن احناف میں جن سے میں نے حدیث پڑھی ہے، حاکم شہید سے بڑا حدیثوں کا حافظ قواعدِ تحدیث سے واقف اور حدیثوں کو سمجھنے والا نہیں دیکھا۔

اماں حاکم شہید رحمہ اللہ صاحبِ متدرک امام حاکم رحمہ اللہ (متوفی ۴۰۵ھ) کے شیخ ہیں، ”إنه كان يحفظ ستين ألف حديث“ یہ سانچھہ ہزار احادیث کے حافظ تھے، صوم و صلوٰۃ اور اذکار کے پابند تھے، ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے ”اللهم ارزقني الشهادة“ اے اللہ! مجھے شہادت نصیب فرما، جس صبح کو یہ شہید کئے گئے تو انہوں نے جام کو بلوا کراپنے سر کا حق کروایا اور غسل کر کے بہترین کفن پہن لیا، پھر آپ پوری رات نماز میں مصروف رہے، یہاں تک کہ صبح کے وقت سجدہ کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا:


ثم دعا بالحلاق فحلق رأسه واغتسل ولبس أحسن الكفن، ولم يزل طول الليل يصلى إلى أن أصبح، وقد اجتمعوا عليه، وبعث السلطان إليهم

عسكراً يمنعهم، فقاتلوا هم وقتلوه وهو ساجد. ②

یہ بات مشہور ہے کہ امام حاکم شہید رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ کی چھ کتابوں کا اختصار

① الجوادر المضية: ج ۲ ص ۱۱۳

② الفوائد البهية: ص ۱۸۵، ۱۸۶



”الكافی“ کے نام سے کیا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

للحاکم الشہید فهو الكافی
ويجمع الست کتاب الكافی
أقرى شروحه الذى كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخسى ①

ترجمہ: اور اصول ستہ کو ”کتاب الكافی“ جمع کرتی ہے، جو حاکم شہید کی ہے، پس وہ کافی ہے۔ اس کی نہایت عمدہ شرح جو سورج کی طرح ہے، شمس الاممہ سرخسی کی مبسوط ہے۔ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۱ھ) فرماتے ہیں:

إن کتاب الكافی هو جمع کلام محمد فی کتب الستة التي هی
كتب ظاهر الروایة. ②


ترجمہ: ”الكافی“ میں امام محمد رحمہ اللہ کی وہ سب باتیں جمع کردی گئی ہیں جو اصول ستہ میں ہیں، جو ظاہر الروایہ کی کتابیں ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی اس کتاب کو ”المختصر“ بھی کہا جاتا ہے، ”المختصر الكافی“، بھی اور ”مختصر الحاکم الشہید“ بھی۔ یہ ایک ہی کتاب کے تینوں نام ہیں، علامہ شامی رحمہ اللہ اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں ”وہ کتاب معتمد فی نقل المذهب“ یہ کتاب نقلِ مذهب میں قابلِ اعتماد ہے۔ ③

اس کتاب کی بہت سے مشائخ نے شرح لکھی، جس میں معروف مطبوعہ شرح علامہ سرخسی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ) کی ”المبسوط“ ہے، جو ”دار المعرفة“ سے تیس جلدوں میں طبع ہے۔ اس کتاب کی ایک شرح علامہ احمد بن منصور اسیجاپی رحمہ اللہ (متوفی ۴۸۰ھ) نے لکھی، جو اس وقت نایاب ہے۔ ④

➁ شرح عقود رسم المفتی: ص ۹ ➂ شرح عقود رسم المفتی: ص ۷

➃ رد المحتار علی الدر المختار: مقدمة، ج ۱ ص ۱۹

➄ کشف الظنون: الكافی فی فروع الحنفیة، ج ۲ ص ۱۳۷۸



کیا ”الکافی“، مکمل کتب ظاہر الروایہ کا اختصار ہے؟

یہ بات مشہور ہے کہ امام حاکم شہید رحمہ اللہ کی ”الکافی“، امام محمد رحمہ اللہ کی کتب ظاہر الروایہ یعنی ”المبسوط، الجامع الصغیر، الجامع الكبير، زیادات، زیادات الزیادات، السیر الصغیر، السیر الكبير“ کی تلخیص ہے، جیسا کہ علامہ ابن ہمام اور علامہ شامی رحمہما اللہ کے حوالے سے بات گزری، حالانکہ درست بات یہ ہے کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ کی زیادہ تر ”الأصل“، یعنی ”المبسوط“ کی تلخیص ہے، آپ کی مکمل چھ کتابوں کی تلخیص نہیں ہے، اس میں بیان ”الأصل“ ہے، پھر حسب ضرورت کتب ظاہر الروایہ کے مسائل بھی ذکر کئے اور بعض جگہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتب کے حوالے سے بھی مسائل ذکر کئے، اور بعض جگہوں میں تو امام طحاوی کے حوالے سے بھی مسائل نقل کئے ہیں۔ اس لئے محققین علماء کی بھی رائے ہے کہ یہ زیادہ تر ”الأصل“ کی تلخیص ہے۔ علامہ ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۵ھ) ”الأصل“ کی تعلیقات میں ”کتاب المناسک“ کے شروع میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ”الأصل“ کے متعدد مخطوطات اور قلمی نسخوں میں ”کتاب المناسک“ کے مسائل تلاش کئے لیکن ہمیں نہ ملے، باوجود یہ کہ یہ مسائل ”الکافی“ میں موجود تھے، یعنی اصل کے متعدد نسخوں میں سے کسی نسخے میں مناسک سے متعلق مسائل نہیں تھے، لیکن امام حاکم رحمہ اللہ کی ”الکافی“، ”الأصل“ کا اختصار ہے (مکمل کتب ستہ کا اختصار نہیں ہے):

ولما أردنا أن ننشر كتاب ”الأصل“ فتشنا نسخه في مكاتب
الآستانة ومصر ومكتبة حرم مكتبة الحرم، فلم نجد في نسخة منها كتاب
المناسك مع أنه موجود في ”المختصر الكافي“ فرجعنا إلى كتاب
الحاكم لأنأخذ منه كتاب المناسك ونضعه في مكان الأصل، لئلا يخلو



الكتاب من فروع المنساک وينجبر به لأنه مختصر "الأصل" ①
دکتور محمد بولینو کالن "الأصل" کے مقدمہ میں "الكافی" کا تعارف کرتے ہوئے²
لکھتے ہیں:

والذى لاحظناه من الاطلاع على كتاب الكافى للحاكم أنه يختصر
لفظ كتاب الأصل ويتخذه أساساً ثم يضيف إليه ما يراه مناسباً من كتب
الإمام محمد الأخرى وأحياناً من كتب أبي يوسف، لكن الأساس هو
كتاب الأصل والعبارة هي عبارة كتاب الأصل في معظمها. ②

ترجمہ: ہم نے جہاں تک دیکھا، امام حاکم کی "الكافی" (امام محمد کی) "الأصل"
کا اختصار ہے، اور اسی کو بنیاد بنا�ا ہے، پھر اس کے ساتھ جہاں مناسب سمجھا امام محمد کی دیگر
كتب سے (مسائل ذکر کئے) اور بسا اوقات امام ابو یوسف کی کتابوں سے بھی۔ لیکن
"الكافی" کی بنیاد "الأصل" ہے، اور اس میں زیادہ تر حصہ "الأصل" کی عبارت
کا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ "الكافی" "الأصل" کی تلخیص ہے، لیکن حسب ضرورت
اس میں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہمَا اللہُ کے دیگر کتب کے مسائل بھی ہیں۔

فائدہ: "الكافی" الگ سے طبع نہیں ہے، علامہ سرخسی رحمہ اللہ کی "المبسوط"
کے ضمن میں موجود ہے:


ولم يطبع الكافي طبعة مستقلة وإن كتانا مطبوعاً ضمن شرح

السرخسي له في المبسوط. ③

① الأصل: التعليق على بداية كتاب المنساک، ج ۲ ص ۳۹۱

② الأصل: مقدمة المحقق، ج ۱ ص ۱۱۹

③ الأصل: مقدمة المحقق، ج ۱ ص ۱۲۰



”الكافی“ میں چھیا سٹھ ابواب سے متعلق مسائل ہیں

دکتور محمد بونینا لن کی تحقیق کے مطابق ”الكافی“ میں درج ذیل چھیا سٹھ (۶۶)

ابواب کے مسائل موجود ہیں:

الصلوة، السجدة، الزكاة، الصوم، الحيض، المناسك، النكاح،
الطلاق، العتاق، المكاتب، الولاء، الأيمان، الاستحسان، التحرى،
اللقيط، اللقطة، الآبق، المفقود، الغصب، الوديعة، العارية، الشركة،
الصيد، الذبائح، الوقف والصدقة، الهبة، الحدود، السرقة، السير،
البيوع، الصرف، الشفعة، القسمة، الإجرارات، أدب القاضي، الشهادات،
الرجوع عن الشهادات، الدعوى والبيانات، الإقرار، الوکالة، الكفالة
والحوالة، الصلح، الرهن، المضاربة، من كتاب المضاربة الصغير،
المزارعة، الشرب، الأشربة، الإكراه، الحجر، المأذون الكبير، المأذون
الصغير، الدييات، الجنایات، المعامل، الوصايا، العین والدين، العتق في
المرض، الدور، الفرائض، فرائض الخشى، الخشى، حساب الوصايا،
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، الشروط، الحيل. ①

۱۸ المنتقى في فروع الحنفية

امام حاکم شہید رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۲ھ) نے اس کتاب میں کتب ظاہر الروایہ کے
علاوہ ”نوادر“ اور ”امالی“ کے مسائل جمع کئے، چنانچہ امام حاکم فرماتے ہیں:

نظرت في ثلاثة جزء مؤلف مثل (الأمالی) و (النوادر) حتى

① الأصل: مقدمة المحقق، ج ۱ ص ۱۱۹، ۱۲۰



۱۔ انتقیت کتاب (المنتقی).

ترجمہ: میں نے ”امالی“ اور ”نوادر“ جیسی تین سو کتابوں سے اس کا انتخاب کیا ہے،
(اس لئے اس کا نام ”المنتقی“ ہے، یعنی پہنچنے ہوئے مسائل)

حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۴۰ھ) لکھتے ہیں کہ یہ کتاب اس وقت موجود نہیں ہے:

و لا يوجد المنتقى في هذه الأعصار كذا قال: بعض العلماء.

علامہ عبدالحکیم لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) لکھتے ہیں:

و کتاب ”الكافی“ و ”المنتقی“ أصلان من أصول المذهب بعد کتب
محمد ولا يوجد ”المنتقی“ فی دیارنا فی أعصارنا.

ترجمہ: امام محمد کی کتابوں کے بعد ”الكافی“ اور ”المنتقی“ نہب کی دونیادی
کتابوں میں سے ہیں، لیکن ”المنتقی“ ہمارے زمانے میں ہمارے دیار (ہندوستان
وغیرہ) میں موجود نہیں ہے۔

اس کتاب کے بعض حوالے ”المحيط البرهانی، التاتارخانیة“ اور
”الهنديۃ“ میں موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب شاید اس زمانے موجود تھی
اور آج ناپید ہے۔ واللہ عالم۔

فائدہ: امام حاکم رحمہ اللہ نے ”الكافی“، میں ”ظاهر الروایة“، مسائل کو جمع کیا تھا،
اور ”المنتقی“، میں ”نوادر“ اور ”امالی“ کے مسائل کو جمع کیا تھا، لیکن اس وقت یہ دونوں
کتابیں موجود نہیں ہیں۔

۹ شرح مختصر الطحاوی

.....
یہ امام احمد بن علی ابو بکر جصاص رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۰ھ) کی تصنیف ہے، یہ کتاب

۱۔ کشف الظنون: المنتقی، ج ۲ ص ۱۸۵

۲۔ کشف الظنون: المنتقی، ج ۲ ص ۱۸۵

الفوائد البهیة: ص ۱۸۵

امام طحاوی رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۱ھ) کی ”مختصر الطحاوی“ کی شرح ہے، ”مختصر الطحاوی“ متن کی مطبوعہ شروحات میں یہی ایک مفصل شرح ہے، مصنف کا اسلوب یہ ہے کہ ”قال أبو جعفر“ کہہ کہ مسئلہ نقل کرتے ہیں، پھر ”قال أحمد“ سے اس مسئلہ کی توضیح کرتے ہیں، پھر ”والدلیل علیه“ کہہ کر قرآن و سنت اور آثار سے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ اس میں عموماً ہر مسئلہ کو روایت و درایت دونوں پہلوؤں سے اجاگر کیا ہے۔ انہم احناف کے مذاہب اور دلائل ذکر کرتے ہیں، قول راجح کی وجہ ترجیح بھی ذکر کرتے ہیں، اس شرح میں روایات و آثار کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور بعض مقامات پر اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہیں، فقہی بصیرت اور دلائل سے طرزِ استدلال میں بے نظیر ہے۔ اگر اس شرح سے نفس مسائل اور دلائل بغیر اختلاف کے الگ سے ذکر کئے جائیں تو یہ اہل علم کے لئے بہت مفید ہو گا۔ یہ شرح ان لوگوں کے دندان شکن جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس روایات و آثار نہیں ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کی تصانیف کے بعد روایات و آثار سے استدلال میں یہ شرح تمام فقہی کتب میں ممتاز ہے۔ احناف کا کوئی مسئلہ اگر روایت کے بظاہر متعارض ہو تو متعدد جوابات ذکر کرتے ہیں۔

”شرح مختصر الطحاوی“ میں موجود اصول و ضوابط

مصنف نے لفظ ”الأصل“ کہہ کر جا بجا اس میں فقہی اصول و ضوابط بھی ذکر کئے ہیں۔ اگر کوئی صاحبِ علم ان اصولوں کو اور علامہ قاضی خان رحمہ اللہ کی ”شرح زیادات الزیادات“ اور علامہ سرحتی رحمہ اللہ کی ”المبسوط“ سے اصول و قواعد کو الگ سے شائع کرے تو یہ فقہی ذوق رکھنے والوں کے لئے ایک گراں قدر سرمایہ ہو گا۔ چند ایک اصول درج ذیل ہیں، اگرچہ اس امر کی ضرورت ہے کہ ان اصولوں کو مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کیا جائے، چنانچہ مسی ذکر کے مسئلہ میں فرماتے ہیں:

۱.....الأصل فيه عندنا أن ما كان بالناس إليه حاجة عامة، فسبيله أن يرد النقل بحكمه مستفيضاً متواتراً؛ لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا محالة يوقفهم عليه، وهم مأمورون بالنقل والإبلاغ، فلا جائز فيما كان هذا سبيله أن يرد نقله من طريق الآحاد.

فعل يسير کے ترک سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں تو اصول ذکر کرتے ہیں:

۲.....الأصل فيه: أن الفعل اليسير في الصلاة، مثل الالتفاتة ونحوها، لا يوجب سجود السهو بالاتفاق.

اگر خوارج کسی کو قتل کر دیں یا کسی کو مظلوماً قتل کیا جائے تو اسے غسل دیا جائے گا یا نہیں:

۳.....الأصل فيه: كل مقتول ظلماً، لم يجب عن نفسه بدل هو مال: فإنَّه لا يغسل، ومن وجب عن نفسه بدل هو مال، مثل قتل الخطأ، وشبه العمدة، فإنه يغسل.

انسان اپنے والد اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس پر اصول ذکر کرتے ہیں:

۴..... والأصل فيه أن كل من لا تجوز له شهادته: لا يجوز أن يعطيه الزكاة.


اگر کوئی شخص طوافِ صدر چھوڑ دے اور اپنے گھر لوٹ آئے تو اس پر دم ہے، اب اس دم کی ادائیگی کہاں ہوگی:

➊ شرح مختصر الطحاوى: ج ۱ ص ۳۸۸

➋ شرح مختصر الطحاوى: ج ۲ ص ۱۱

➌ شرح مختصر الطحاوى: ج ۲ ص ۲۰۲

➍ شرح مختصر الطحاوى: ج ۲ ص ۳۹۵



٥ والأصل فيه أن كل دم تعلق وجوبه بالإحرام: لم يجز ذبحه إلا

بمكة. ①

إفادة قارئين كـ لئے چند دیگر اصول بھی درج ذیل ہیں:

٦ والأصل فيه: أن كل ما أخذ علينا تعجيله في مجلس العقد،

فإنـ لا يجوز التصرف فيـ قبل القبض، مثل ثمن الصرف، ورأس مال
السلم.

٧الأصل فيه: أن المسلم لا يبدأ بالخرجـ؛ لأنـ فيـ، والكافـ
لا يبدأ بالعشر الذي هو صدقةـ؛ لأنـ الصدقةـ قربـةـ، ولا قربـةـ للكافـرـ.

٨ والأصل فيه: النـوزـ أنهـ يـطلـ النـفـقـةـ؛ لأنـ المـنـعـ جاءـ منـ قبلـهاـ
بـمعـصـيـةـ، وأـماـ السـكـنـىـ فإنـهاـ حـقـ اللـهـ تـعـالـىـ، فـلاـ يـسـقطـ بـفـعـلـهاـ.

٩الأصل فيه: أنـ كلـ ماـ دـلـ منـ فـعـلـهاـ عـلـىـ الإـعـراضـ عـنـ
الـجـوـابـ، وـتـرـكـ الإـيقـاعـ؛ فإنـ يـطـلـ الـخـيـارـ، وـمـاـ لـمـ يـدـلـ عـلـىـ ذـلـكـ: فإنـ
لاـ يـطـلـ الـخـيـارـ.

١٠الأصل فيه: أنـ منـفـعـةـ الـجـنـسـ إـذـ كـانـ باـقـيـةـ فـيـماـ يـبـتـغـيـ منـ
الـرـقـابـ: أـجـزـأـتـ، فإنـ كـانـ منـفـعـةـ الـجـنـسـ زـائـلـةـ: لمـ يـجزـ.

١١الأصل فيه: أنـ الرـجـلـ قدـ كـانـ مـعـلـومـاـ حـيـاتـهـ يـقـيـناـ، فـلاـ يـجـوزـ
الـحـكـمـ بـزـوـالـهـ إـلـاـ بـيـقـيـنـ، كـمـ أـنـاـ مـتـىـ عـلـمـنـاـ مـلـكـاـ لـإـنـسـانـ: لمـ يـجزـ لـنـاـ
الـحـكـمـ بـزـوـالـهـ إـلـاـ بـيـقـيـنـ.

یہ شرح عرصہ دراز سے نایاب تھی، متعدد محققین کی تحقیق کے ساتھ آٹھ جلدیوں میں
”دار البشائر الإسلامية“ سے ۱۴۲۳ھ میں طبع ہوئی ہے۔

۲۰ کشف الغواص

یہ محمد بن عبد اللہ بن محمد بن عمر المعروف ابو جعفر الہندوانی رحمہ اللہ (متوفی ۳۶۲ھ) کی تصنیف ہے، مصنف رحمہ اللہ اپنے فقہی استعداد و صلاحیت اور استحضارِ متون کے متعلق فرماتے ہیں:

لو أحرقت جميع أقوال أبي حنيفة، وأمالى أبي يوسف، ونواذر
وزيادات محمد بن الحسن لاستطعت كتابتها عن ظهر قلب، لا يتقى
حرف ولا يتاخر. ①

ترجمہ: اگر (بالفرض) امام ابو حنیفہ کے تمام اقوال، امام ابو یوسف کے "امالی" اور "نواذر" اور امام محمد بن حسن کی "زیادات" جل جائیں، تو میں (ان شاء اللہ) اتنی صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں اپنے قلب (و حافظہ) سے سب لکھوادوں گا، ایک حرف کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔

امام ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ نے اپنی اس تصنیف میں "الجامع الصغير" اور دیگر کتب سے مسائل کو جمع کیا ہے۔ ②

۲۱ عيون المسائل

امام ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۳ھ) کی تصانیف میں معروف "بحر العلوم المعروف تفسیر السمرقندی" اور "تنبیہ الغافلین" ہیں۔ مصنف نے اس کتاب میں فقہی ابواب کی ترتیب پر مشايخ کے ائمہ مذہب سے مردی وہ مسائل نقل کئے ہیں جو معروف کتب میں موجود نہیں تھے۔ ترقیمات کے ساتھ اس کتاب

① مشايخ بلخ: ج ۱ ص ۹۱

② کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۳۹۳ / الفوائد البهیة: ص ۷۹

میں موجود مسائل کی تعداد (۲۲۲۹) ہے، اس میں فقہاء کے مابین اختلافی مسائل اور دلائل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ نفس مسائل کا ذکر ہے، یہ کتاب صلاح الدین ناہی کی تحقیق کے ساتھ ۱۳۸۶ھ میں ”مطبعة أَسْعَد“ بغداد سے طبع ہے۔ علامہ علاء الدین محمد بن عبد الحمید اسمندی رحمہ اللہ (متوفی ۵۵۲ھ) نے اس کتاب کی شرح ”بحر المسائل و قصر الدلائل“ کے نام سے لکھی۔ ①

۲۲..... کتاب النوازل

امام ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۳ھ) نے اپنی اس کتاب میں وہ نئے پیش آمدہ مسائل ذکر کئے، جن کے بارے میں انہمہ مذہب سے کوئی صراحة نہیں ہے، اور وہ مسائل بعد کے علماء نے استنباط کئے۔ ”نوازل“ (نئے پیش آمدہ مسائل) کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان مسائل کو امام ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے جمع کیا:


وَأَوَّلُ كِتَابٍ جَمْعٍ فِي فَتْوَاهُمْ فِيمَا بَلَغَنَا كِتَابُ النَّوَازِلِ لِلْفَقِيهِ أَبِي الْلَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيِّ. ②

یہ کتاب ”فتاویٰ النوازل“ کے نام سے بھی معروف ہے، اور اسے ”مجموع النوازل“ بھی کہا جاتا ہے، یہ کتاب غیر مطبوعہ ہے۔

فائدہ: امام ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے دو کتابیں تصنیف کیں (۱) ”النوازل“ (۲) ”عيون المسائل“ انہوں نے ”عيون“ میں وہ مسائل اور آراء ذکر کیں جو ان کے مشائخ کی تھیں، اور اس بارے میں کوئی صراحة کتب ظاہر الروایہ اور دیگر کتب میں نہیں تھیں۔ اور ”النوازل“ میں مشائخ کے فتاویٰ اور آراء کو جمع کیا اور کچھ اپنے شیوه کے بھی:

❶ کشف الظنون: ج ۱ ص ۱۸۷

❷ رد المحتار: مقدمہ، ج ۱ ص ۶۹ / کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۲۸۳



و صنف کتابین من أقاویلہم. أحدہما: (عيون المسائل) والآخر: (النوازل) وأوردت فی (العيون) من أقاویل أصحابنا، ما ليست عنهم روایة فی هذه الکتب. وفی (النوازل) من أقاویل المشايخ، وشیئاً من أقاویل أصحابنا، ما لا روایة عنهم أيضاً فی الكتاب، لیسه هل علی الناظر فیها طریق الاجتہاد. ①

٢٣..... خزانۃ الفقه

امام ابواللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۳ھ) نے اس کتاب میں نہایت آسان انداز میں صرف مسائل ذکر کئے ہیں، اس میں انہمہ احناف یا فقہاء کے مذاہب اور دلائل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فقہی ابواب کی ترتیب پر حفظ کے لئے حسن اسلوبی کے ساتھ صرف مسائل ذکر کئے ہیں۔ مصنف کتاب کا تعارف مقدمہ میں ان الفاظ میں کرتے ہیں:

وقد اجتمع فی هذا التأليف من مسائل الفقه معدودة الأجناس
مجموعۃ النظائر تسهیلا للحفظ وتيسیرا للفهم.

مصنف نے جامعیت کے ساتھ ساتھ اختصار کے پہلو کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے، آپ اجمال کے بعد تفصیل ذکر کرتے ہیں جو واقع فی الذہن ہوتی ہے۔ موصوف نے ”کتاب الحج“ میں پہلا عنوان قائم کیا ہے ”من لا يجب الحج عليهم“ اس کے تحت چھ (۶) افراد کا ذکر کیا، پھر ”فرضۃ الحج“ کے تحت تین (۳) فرائض بیان کئے، پھر ”واجبات الحج“ کے تحت چھ (۶) واجبات ذکر کئے، پھر ”سنن الحج“ کے تحت چھ (۶) سننیں بیان کیں، ”ما يحرم المحرم“ کے تحت تیس (۳۰) ممنوعہ چیزیں ذکر کیں، ”ما يجب الدم علی المحرم“ کے تحت اڑتیس (۳۸) ایسی صورتیں ذکر کی ہیں جن میں دم واجب

ہوتا ہے، ”ما یوجب الصدقۃ“ کے تحت بیس (۲۰) ایسی صورتیں ذکر کی ہیں جن میں صدقہ واجب ہوتا ہے، ”ما یحل قتلہ للمحرم“ کے تحت اٹھارہ (۱۸) ایسی اشیاء کا ذکر کیا ہے جن کا قتل جائز ہے، اسی طرح پوری کتاب میں ان کا یہی اسلوب ہے۔ مبتدی طلبہ کے حفظ مسائل کے لئے یہ کتاب نہایت مفید ہے، یہ کتاب محمد عبد السلام شاہین کی تحقیق کے ساتھ ”مکتبہ غفوریہ عاصمہ“ سے طبع ہے۔

۲۳..... مختصر القدوری

یہ امام احمد بن محمد بن احمد قدوری رحمہ اللہ (متوفی ۵۲۸ھ) کی تصنیف ہے، آپ ”امام قدوری“ کے نام سے معروف ہیں۔ علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۱ھ) فرماتے ہیں:

ونسبته بضم القاف والدال المهملة وسکون الواو وبعدها راء مهملة

إلى القدور التي هي جمع قدر ولا أعلم سبب نسبته إليها. ①

ترجمہ: قدوری: قاف اور دال پر ضمہ، واوسا کن اور اس کے بعد بغیر نقطے کی ”راء“ قدور جمع ہے قدر کی، لیکن مجھے اس نسبت کا سبب معلوم نہیں ہے۔

علامہ یافعی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۸ھ) فرماتے ہیں کہ آپ صنعت قدور یعنی ہاذیاں بنایا کرتے تھے، اس مناسبت سے آپ کو قدوری کہتے ہیں۔ ②

علامہ عبدالجھی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) فرماتے ہیں کہ امام قدوری رحمہ اللہ بغداد کے شہروں میں سے ایک شہر ”قدورہ“ کے رہنے والے تھے، اسی مناسبت سے آپ کو قدوری کہتے ہیں کہ آپ وہاں کے رہائشی تھے۔ ③

شہر بغداد میں ۳۶۲ھ کو آپ کی ولادت ہوئی۔

① وفيات الأعيان: ترجمة: أحمد بن محمد بن أحمد، ج ۱ ص ۷۸

② مرآۃ الجنان: سنۃ ثمان وعشرين وأربع مائة، ج ۳ ص ۷۳

③ الفوائد البهیة: ترجمة: أحمد بن محمد بن أحمد، ص ۷۵

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قدوری کہنے کی وجہ ان تین باتوں میں سے کوئی ایک ہے:
۱..... آپ جہاں کے باشندے تھے اُس جگہ کا نام ”قدورہ“ تھا، یا نسبتی کے ساتھ
آپ کو قدوری کہتے ہیں۔

۲..... آپ ہانڈیاں بنایا کرتے تھے۔

۳..... ہانڈیوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔

امام قدوری رحمہ اللہ کا تلمذ فی الفقہ پانچ واسطوں سے امام محمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ)
تک پہنچتا ہے، امام قدوری رحمہ اللہ نے علم فقہ حاصل کیا امام ابو عبد اللہ محمد بن تھجی جرجانی
رحمہ اللہ (متوفی ۳۹۸ھ) سے اور انہوں نے امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۰ھ)
سے اور انہوں نے امام ابو الحسن عبید اللہ کرخی رحمہ اللہ (متوفی ۳۶۰ھ) سے اور انہوں نے
امام ابو سعید بردعی رحمہ اللہ (متوفی ۳۱۸ھ) سے اور انہوں نے امام موسیٰ رازی رحمہ اللہ
(متوفی ۲۶۳ھ) سے اور انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ) سے۔ ①

امام قدوری رحمہ اللہ ایک واسطے سے امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۰ھ)
صاحب ”احکام القرآن“ اور ”الفصول فی الأصول“ کے شاگرد ہیں۔ ”تاریخ
بغداد“ کے مصنف خطیب بغدادی رحمہ اللہ (متوفی ۳۶۳ھ) آپ کے شاگرد ہیں۔

خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے حدیث لکھی ہے، آپ صدقوق
تھے، حدیث کی روایت کم کرتے تھے، عراق میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب کی علمی
ریاست آپ پر ختم تھی، تلاوت قرآن آپ کا دائمی معمول تھا۔ ②

علامہ سمعانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۵۶ھ) آپ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

كان فقيها صدوقاً، ومن أنجب في الفقه لذكائه وحفظه، وانتهت إليه

① الفوائد البهية: ص ۷۵

② تاریخ بغداد: ترجمۃ: احمد بن محمد بن احمد، ج ۵ ص ۱۳۰، ۱۳۱

بالعراق رئاسة أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله وعظم عندهم قدره وارتفع

جاهه، وكان حسن العبارة في النظر، جرى اللسان، مدحه لتلاؤه القرآن۔ ①

ترجمہ: آپ فقیہ اور (علم حدیث میں) صدقہ تھے، فقہ میں اپنی ذکاوت و ذہانت اور حفظ و اتقان کی وجہ سے قابل ستائش لوگوں میں سے تھے، عراق میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب کی علمی ریاست آپ پر ختم تھی، احناف میں آپ کی بڑی قدر و منزلت اور بلند مرتبہ تھا، آپ کی تحریر نہایت عمدہ تھی، زبان کے جری تھے، تلاوتِ قرآن آپ کا دامنی معمول تھا۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (متوفی ۷۷۷ھ) آپ کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

صَاحِبُ الْمُصَنَّفِ الْمُخْتَصِرِ الَّذِي يُحْفَظُ، كَانَ إِمَاماً بَارِعاً عَالِماً وَثَبَّتاً

مناظراً۔ ②

امام قدوری رحمہ اللہ کا انتقال اتوار کے دن ۵ ربیع الثانی ۲۲۸ھ کو ہوا، اور اسی دن اپنے مکان واقع ”درب ابی خلف“ میں مدفن ہوئے، پھر کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر آپ کو وہاں سے نکال کر ”شارع منصور“ کی طرف منتقل کیا گیا، اب امام ابو بکر خوارزمی رحمہ اللہ کے پہلو میں آرام فرمادیا ہے ہیں۔ ③

آپ نے نہایت عمدہ اور مفید کتابیں تصنیف کیں، جو اہل علم کے درمیان متداول ہیں، آپ کی تصنیف کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

ا..... ”المختصر للقدوري“ یعنی نہایت مقبول اور متداول متن ہے، اور ایسی سدا

بہار کتاب ہے کہ صدیاں گزر نے پر بھی اس کی آب و تاب، شہرت اور مقبولیت میں فرق نہیں آیا۔

❶ الأنساب للسمعاني: باب القاف والدال، القدوري، ج ۱ ص ۳۵۲

❷ البداية والنهاية: ترجمة: أحمد بن محمد بن أحمد، ج ۱۲ ص ۳۱

❸ وفيات الأعيان: ج ۱ ص ۹۷



۲.....”التجريد“، اس کتاب کا تعارف ان شاء اللہ آگے آئے گا۔

۳.....”التقریب فی المسائل الخلافیة“، اس کتاب میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے تلامذہ کے درمیان اختلافی مسائل کا ذکر ہے۔ اس میں صرف مسائل ہیں، دلائل کا ذکر نہیں ہے۔

۴.....”التقریب الثاني“، اس کتاب میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب کے درمیان اختلافی مسائل کو نہایت شرح و سط کے ساتھ مدلل لکھا ہے۔ ①

امام قدوری رحمہ اللہ کی ”مختصر القدوری“ پر ایک ہزار (۱۰۰۰) سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اُس وقت سے لے کر آج تک لاکھوں لوگ اس کتاب سے مستفید ہوئے۔ اس مختصر متن میں تقریباً بارہ ہزار (۱۲۰۰) مسائل کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب کے متعلق حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۰ھ) فرماتے ہیں:

وهو متن متین معتبر متداول بين الأئمة الأعيان، وشهرته تغنى عن البيان.

ترجمہ: یہ نہایت مستند و معتبر متن ہے، جو مشہور ائمہ کے درمیان معروف ہے، اس کتاب کی شہرت اس کے تعارف سے مستغنى کر دیتی ہے۔

وهو كتاب مبارك، من حفظه يكون أمينا من الفقر، حتى قيل: إن من قرأه على أستاذ صالح، ودعاه عند ختم الكتاب بالبركة، فإنه يكون مالكا لدرارهم على عدد مسائله. ②

ترجمہ: جو شخص اس کتاب کو حفظ کرے گا وہ فقرو فاقہ سے محفوظ رہے گا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص اس کو کسی صالح استاذ سے پڑھے اور ختم کے وقت برکت کی دعا کرے تو ان

الفوائد البهية: ص ۵۸

۲ کشف الظنون: مختصر للقدوري، ج ۲

شائے اللہ اس کے مسائل کی تعداد کے موافق دراہم کا مالک ہو گا۔

علامہ طاش کبری زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۹۶۸ھ) اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

واعلم أن هذا المختصر مما تبرك به العلماء حتى جربوا قراءاته

أوقات الشدائـد وأيام الطـاعون. ①

ترجمہ: یہ بات جان لیں کہ یہ مختصر کتاب ان کتابوں میں سے ہے جنہیں علماء نے متبرک جانا ہے، حتیٰ کہ مشکلات کے وقت اور طاعون کے دنوں میں اس کتاب کے پڑھنے کو آزمایا ہے (یعنی ان کے پڑھنے سے مشکلات دور ہو گئیں)۔

علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ) نے امام قدوری رحمہ اللہ کی اس کتاب کے متعلق ایک عجیب کرامت نقل کی ہے:

سمعت من أستاذه الكبير يقول إن القدوري رحمه الله لما فرغ من تصنيف مختصره المنسوب إليه حج، وأخذ المختصر معه، ولما فرغ من طوافه سأله سبحانه أن يوقفه على خطأ فيه وسهو منه عن قلم ثم إنه فتح المختصر وتصفحه ورقة إلى آخره فوجد فيه خمسة مواضع أو ستة مواضع ممحوّة، وهذا يعد من كرامته.

ترجمہ: میں نے ایک بڑے استاذ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ امام قدوری جب اپنی مختصر کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو آپ حج کے لئے تشریف لے گئے اور مختصر ساتھ لیتے گئے، جب آپ طواف کر چکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی اگر مجھ سے اس میں کہیں غلطی یا بھول چوک ہو گئی ہو تو مجھے اس پر مطلع فرماء، اس کے بعد آپ نے کتاب کو اول سے آخر تک ایک ایک ورق

❶ مفتاح السعادة ومصباح السعادة: ومن الكتب المعتبرة، منها: مختصر القدوري،

ج ۲ ص ۲۵۳

❷ البناء: كتاب الحج، المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، ج ۲ ص ۲۳۸

کھول کر دیکھا، تو صرف پانچ یا چھوٹے مضمون مٹا ہوا تھا۔ اس کو آپ کی کرامات میں شمار کیا گیا۔

”مختصر القدوری“ کی پچھیں شروحات

اس کتاب کی جامعیت اور اہمیت کی وجہ سے کئی اکابر اہل علم نے اس کتاب کی شرح لکھی، ان میں سے چند ایک کے نام درج ذیل ہیں:

۱..... امام محمد بن حسین بن محمد المعروف ابو بکر خواہزادہ رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۴ھ) نے

”شرح مختصر القدوری“ کے نام سے شرح لکھی۔

۲..... امام احمد بن محمد المعروف ابو نصر قطع رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۲ھ)

۳..... امام عبد المعالی عبد الرب بن منصور غزنوی رحمہ اللہ (متوفی فی حدود سنۃ

۵۰۰ھ) نے ”ملتمس الإخوان“ کے نام سے شرح لکھی۔

۴..... امام جلال الدین ابو سعد مظہر بن حسن یزدی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۱ھ) نے

”اللباب“ کے نام سے شرح لکھی۔

۵..... امام حسام الدین علی بن احمد کنی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۸ھ) نے ”خلاصة

الدلائل فی تنقیح المسائل“ کے نام سے شرح لکھی، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ اس شرح کے

متعلق فرماتے ہیں ”وہ شرح مفید مختصر نافع“

۶..... امام محمد بن ابراہیم رازی رحمہ اللہ (متوفی ۶۱۵ھ) نے ”النوری فی شرح

مختصر القدوری“ کے نام سے شرح لکھی۔


۷..... امام ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الکریم رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۸ھ) نے ”شرح

مختصر القدوری“ کے نام سے شرح لکھی۔

۸..... امام احمد بن مظفر رازی (متوفی ۶۲۲ھ) نے ”حل مشکلات

القدوری“ کے نام سے مبہم اور تشریح طلب مقامات کی وضاحت کی ہے۔

- ۹.....امام اسماعیل بن حسین بیهقی رحمہ اللہ نے ”الکفایہ“ کے نام سے شرح لکھی۔
- ۱۰.....امام نجم الدین مختار بن محمد زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۶۵۸ھ) نے تین جلدیں میں شرح لکھی، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۶ھ) اس شرح کے متعلق فرماتے ہیں ”وہ شرح نفیس“
- ۱۱.....امام محمد بن رسول موقنی رحمہ اللہ (متوفی ۶۶۳ھ) نے ”البیان“ کے نام سے شرح لکھی۔
- ۱۲.....امام احمد بن محمد بن اقبال رحمہ اللہ نے ”البحر الزاخر“ کے نام سے شرح لکھی۔
- ۱۳.....امام ابراہیم بن احمد بن محمد بن معالی رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۳ھ) نے ”شرح مختصر القدوری“ کے نام سے شرح لکھی۔
- ۱۴.....امام محمود بن احمد قونوی رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۷ھ) نے ”التقرید“ کے نام سے شرح لکھی۔
- ۱۵.....شیخ الاسلام محمد بن احمد اسیجابی رحمہ اللہ نے ”زاد الفقهاء“ کے نام سے شرح لکھی۔
- ۱۶.....امام ابو بکر بن علی حدادی رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۰ھ) نے تین جلدیں میں مفصل شرح ”السراج الوهاج الموضح لکل طالب محتاج“ کے نام سے لکھی۔
- ۱۷.....امام ابو بکر بن علی حدادی رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۰ھ) نے اپنی مفصل شرح کی تنجیص ”الجوهرۃ النیرۃ“ کے نام سے کی۔
- ۱۸.....امام ابراہیم بن عبد الرزاق المعروف ابن الحمدث دمشقی رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۷ھ) نے ”شرح مختصر القدوری“ کے نام سے شرح لکھی۔
- ۱۹.....امام محمد بن محمد بن شہاب الدین کردی رحمہ اللہ (متوفی ۸۲۷ھ) نے ”شرح



مختصر القدوری“ کے نام سے شرح لکھی۔

۲۰.....علامہ محمد بن عبد اللہ الشبلی طرابلسی رحمہ اللہ نے ”الینابیع فی معرفة الأصول والتفاریع“ کے نام سے شرح لکھی۔

۲۱.....امام یوسف بن عمر بن یوسف المعروف نبیرہ شیخ عمر بزار رحمہ اللہ (متوفی ۸۳۲ھ) نے ”جامع المضمرات والمشکلات“ کے نام سے شرح لکھی۔

۲۲.....امام عبد الرحیم آمدی رحمہ اللہ نے ”حدائق العيون“ کے نام سے شرح لکھی۔

۲۳.....امام میر محمد طاہر سلام روی رحمہ اللہ نے ”شرح مختصر القدوری“ کے نام سے شرح لکھی۔

۲۴.....امام ابو منصور کرمانی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۹ھ) نے ”المستعدب شرح مختصر القدوری“ کے نام سے شرح لکھی۔

۲۵.....علامہ عبدالغنی بن طالب بن حمادہ دمشقی میدانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۹۸ھ) نے ”اللباب فی شرح الكتاب“ کے نام سے شرح لکھی۔ ①

اگر یہ دو شروحات کسی کے پاس ہوں تو اُسے فی الجملہ کسی اور شرح کی ضرورت نہیں ہے:

۱.....”الجوهرة النيرة علی مختصر القدوری“، علامہ ابو بکر بن علی حدادی یمنی رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۰ھ)

۲.....”اللباب فی شرح الكتاب“، علامہ عبدالغنی میدانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۹۸ھ) ان دونوں شروحات کے ساتھ ائمہ ثلاثہ کی طرف منسوب اقوال میں درست اور مفتی بہ راجح قول کی نشاندہی کے لئے علامہ قاسم بن قطلو بخار رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۹ھ) کی ”التصحیح والترجیح“ بھی مطالعہ میں رکھیں۔

① کشف الظنون: ج ۲ ص ۱ / هدیۃ العارفین: ج ۱ ص ۱۱، ج ۱ ص ۱۳، ج ۱

ص ۱۹، ج ۲ ص ۲۷، ج ۲ ص ۱۸۵، ج ۲ ص ۲۵۰

”مختصر القدوری“ پر مختلف النوع خدمات

۱.....امام محمد بن عمر بن محمد نوح حبادی رحمہ اللہ (متوفی ۶۶۸ھ) نے ”مختصر القدوری“ کی تلخیص ”الملخص فی مختصر القدوری“ کے نام سے کی۔

۲.....امام عبد الرحیم بن رضی الدین محمد بن یوسف المعروف ابن منعہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۶۷ھ) نے ”مختصر القدوری“ کی تلخیص ”جوامع الكلم الشریفة علی مذهب الإمام أبي حنیفة فی اختصار مختصر القدوری“ کے نام سے کی۔

۳.....امام محمد بن مصطفیٰ بن زکریا دور کی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۷۷ھ) نے قدوری کے مسائل کو ”نظم مختصر القدوری“ کے نام سے ترتیب دیا۔

۴.....علامہ عبدال قادر قرقشی رحمہ اللہ (متوفی ۵۷۷ھ) نے امام حسام الدین علی بن احمد مکی رازی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۸ھ) کی ”خلاصة الدلائل فی تنقیح المسائل“ میں موجود احادیث و آثار کی تخریج کی اور اس کا نام ”الطرق والوسائل إلی معرفة احادیث خلاصة الدلائل“ رکھا، اس میں قدوری کی روایات کی تخریج کے ساتھ اختصار سے شرح بھی کی ہے۔

۵.....علامہ قاسم بن قطلو بخاری رحمہ اللہ (متوفی ۸۷۹ھ) نے ”الصحیح والترجیح“ کے نام سے کتاب لکھی، جس میں قدوری کے درست اور راجح اقوال کی نشان دہی کی ہے۔

۶.....امام اسحاق بن محمد بخششی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۳۰ھ) نے قدوری کے مسائل کو نظم کی صورت میں ترتیب دیا، اور اس کا نام رکھا ”نظم مختصر القدوری“ ①

① کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۶۳ / هدیۃ العارفین: ج ۱ ص ۲۰۳، ج ۱ ص ۵۶۱،

ج ۲ ص ۹۷، ج ۲ ص ۱۲۹، ج ۲ ص ۱۳۳

۷..... شیخ عبد اللہ مصطفیٰ مراغی نے ”الشہاب فی توضیح الكتاب“ کے نام سے اس کتاب کی شرح لکھی، یہ شرح ”مصطفیٰ البابی“ حلی سے ۱۳۶۳ھ میں طبع ہوئی ہے۔

۸..... قدوری کے مسائل کو ترتیب جدید اور اضافات کے ساتھ شیخ امین محمود خطاب نے ”منحة الرحمان فی فقه النعمان“ کے نام سے جمع کیا، یہ کتاب ”مکتبة السعادة“، مصر سے ۱۳۲۲ھ میں طبع ہوئی ہے۔

۹..... ”التسهیل الضروری لمسائل القدوری“، مولانا محمد عاشق الہی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں قدوری کے مسائل کو نہایت سہل انداز میں پیش کیا ہے، یہ کتاب ”مکتبة الإیمان“ مدینۃ منورہ سے ۱۴۱۲ھ میں طبع ہوئی ہے۔

۲۵ التجوید

یہ امام احمد بن محمد بن احمد قدوری رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۸ھ) کی تصنیف ہے، آپ کی تصنیف میں معروف ”مختصر القدوری“ ہے، امام قدوری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں قدرے تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو ذکر کیا ہے جن میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، اختلافی مسائل کو طرفین کے دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے، پہلے مسئلہ ذکر کرتے ہیں پھر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل پھر امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ان کے دلائل پھر ہر ہر دلیل کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ اگر کسی مسئلے میں انہما حناف کے درمیان اختلاف ہو تو اُسے بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس میں طرفین کے دلائل قرآن و سنت اور لغت سے نقل کرتے ہیں۔ حناف کے مسلک پر ہونیوالے عقلی و نقلی اعتراضات کے جوابات بھی ذکر کرتے ہیں، اس کتاب میں تمام فقہی مسائل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اختلافی مسائل کا ذکر ہے، اور مسائل بھی صرف وہ جن میں حناف اور شافعی کا اختلاف ہے، حنابلہ یا مالکیہ کے

ساتھ اختلافی مسائل کا بہت کم ذکر ہے۔ اس کتاب میں کل (۱۶۳۳) اختلافی مسائل کا ذکر ہے، یہ کتاب (۲۵۶۳) صفحات پر مشتمل ہے، یہ کتاب احناف کے عقلی، نقلی دلائل کا بیش بہاذ خیرہ ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے فقہی بصیرت اور استنباط مسائل کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، مصنف کی تحریر علمی کا اندازہ اس کتاب سے ہوتا ہے، چونکہ یہ کتاب عرصہ دراز سے نایاب تھی اس لئے بہت سے اہل علم اس سے ناقف ہیں، اور کتب فقہ میں اس کا تذکرہ بھی کم ملتا ہے، اب الحمد للہ یہ علمی و فقہی ذخیرہ بارہ جلدیوں میں دکتور محمد احمد سراج اور دکتور علی جمعہ محمد کی تحقیق کے ساتھ ”دار السلام“، قاہرہ سے ۱۴۲۷ھ میں شائع ہو گیا ہے۔

۲۶ الواقعات للناطفى

امام احمد بن محمد بن عمر الناطفى الطبرى رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۶ھ) امام ابو عبد اللہ جرجانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور یہ امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ ”الناطفى“، ان کی نسبت ایک خاص قسم کی مٹھائی بنانے یا اس کی تجارت کی وجہ سے تھی، ان کی تصانیف میں ”الأجناس، الفروق“، اور ”الواقعات“ ہیں۔ ”المحيط البرهانی“ میں جا بجا ”الواقعات“ سے مسائل ذکر کئے ہیں، ان سے جب کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو لکھتے ہیں ”وفي واقعات الناطفى“ اسی طرح ہماری فقہی کتب میں اکثر امام ناطفى رحمہ اللہ کی ”الأجناس“ سے بھی مسائل ذکر کئے جاتے ہیں، خصوصاً ”البنایة“ میں متعدد مقامات پر ”ونقل الناطفى في الأجناس“ کہہ کر اور کبھی ”ذکرها الناطفى في الأجناس“ کہہ کر مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اس وقت غیر مطبوعہ ہیں۔ ①

۲ النتف في الفتاوی

یہ امام ابو الحسن علی بن حسین سُغدی رحمہ اللہ (متوفی ۳۶۱ھ) کی نہایت ہی مفید کتاب

ہے، اس کتاب کا اصل نام ”النتف الحسان“ ہے، ”نُتْفٌ، نُتْفَةً“ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے تھوڑا سا، ”حَسَانٌ، حَسَنَةٌ“ کی جمع ہے، پس ”النتف الحسان“ کا مطلب ہے ”شاندار باتوں کا مختصر سامجموہ“ اس میں حسن اسلوبی کے ساتھ فقہی ابواب کے طرز پر سہل انداز میں مسائل ذکر کئے ہیں، یہ اجمال کے بعد تفصیل ذکر کرتے ہیں، جس سے قاری میں طلب بھی پیدا ہوتی ہے، اور حفظ بھی آسان ہوتا ہے، جیسے شہید کی دو فتمیں بیان کیں:

۱..... وہ شہید جسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ ۲..... وہ شہید جسے غسل نہیں دیا جائے گا۔

پھر جن شہداء کو غسل دیا جائے گا ان کی بارہ فتمیں ذکر کیں، اور جن شہداء کو غسل نہیں دیا جائے گا ان کی دو فتمیں بیان کیں، یہی انداز موصوف کا مکمل کتاب میں رہا ہے، اس میں غیر متعلقہ مباحث، مرجوح اقوال اور طوالت سے اجتناب کر کے صرف مغز ذکر کیا ہے۔ رقم کی رائے یہ ہے کہ ”كنز الدقائق“ کی جگہ درس نظامی میں اس کتاب کو رکھا جائے، یہ کتاب دکتور صلاح الدین نامی کی تحقیق کے ساتھ ”دار الفرقان“ سے ۱۳۰۴ھ میں شائع ہوئی ہے۔

۲۸ المبسوط

یہ علامہ محمد بن ابی سہل المعروف شمس الائمه سرخسی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ) کی تصنیف ہے، آپ شمس الائمه حلوانی رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۸ھ) کے شاگرد ہیں، علامہ سرخسی رحمہ اللہ کی مطبوعہ تصنیف میں تین کتابیں ہیں:

۱..... المبسوط ۲..... شرح السیر الكبير ۳..... اصول السرخسی
 ”المبسوط“ امام حاکم شہید رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۲ھ) کی ”الكافی فی فروع الحنفیۃ“ کی شرح ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) فرماتے ہیں:

أَقْوَى شُرُوحِهِ الَّذِي كَالشَّمْسِ
مُبْسُطُ شَمْسِ الْأَئْمَةِ السَّرَّخِسِ

مُعَتمَدُ النُّقُولِ لَيْسَ يُعْمَلُ
بِخُلُفِهِ وَلَيْسَ عَنْهُ يُعْدَلُ ①

ترجمہ: ”الكافی“ کی نہایت عمدہ شرح جو سورج کی طرح ہے، شمس الائمه سرخسی کی ”مبسوط“ ہے۔ وہ نقل مذهب میں قابل اعتماد ہے، نہیں عمل کیا جائے گا اس کے خلاف قول پر، اور نہ اس سے روگردانی کی جائے گی۔

علامہ طرطوسی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۸ھ) فرماتے ہیں:

مَبْسُطُ السَّرَّخِسِ لَا يَعْمَلُ بِمَا خَالِفَهُ، وَلَا يَرْكَنُ إِلَيْهِ، وَلَا يُفْتَنُ
وَلَا يَعُولُ إِلَيْهِ.

ترجمہ: جو بات مبسوط سرخسی کے خلاف ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، صرف اسی کی طرف میلان، اسی کے مطابق فتویٰ اور اسی پر اعتماد ضروری ہے۔

علامہ تقی الدین بن عبد القادر تیمی (متوفی ۱۰۱۰ھ) نے اس کتاب کی مدح میں یہ شعر نقل کیا ہے:

عَلَيْكَ بِمَبْسُطِ السَّرَّخِسِ إِنَّهُ
هُوَ الْبُحْرُ وَالدُّرُّ الْفَرِيدُ مَسَائِلُهُ

وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ
يُجَابُ بِإِعْطَاءِ الرَّغَائبِ سَائِلُهُ ②

ترجمہ: مبسوط سرخسی کو مضبوط پکڑ، کیونکہ یہ سمندر ہے، اور اس کے سائل کیتا موتی ہیں۔ اور صرف اسی پر بھروسہ کر، کیونکہ اس کے سائل کو جواب دیا جاتا ہے رغبتیں دینے کے ذریعے۔ یعنی اس سے ہر سائل کا مقصد پورا ہوتا ہے۔

شمس الائمه سرخسی رحمہ اللہ کو حاکم وقت خاقان نے کنویں نماگڑھے میں قید کیا تھا، ڈاکٹر صلاح الدین منجد نے ”شرح السیر الكبير“ کے مقدمہ میں ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ خاقان نے اپنی کنیز کو آزاد کر کے عدت سے پہلے ہی اس سے نکاح کر لیا تھا، امام

سرخسی رحمہ اللہ نے ان کے اس فعل پر اعتراض کیا، جس کی پاداش میں اس ظالم و جابر شخص نے تکبر اور رعنونت کے عالم میں ایسی مقدس شخصیت کو نہایت بربرتی کے ساتھ قید کر لیا، کئی سال تک آپ اس کنویں میں قید رہے، اسی قید و بند کی صعوبتوں اور تکلیفوں کے دوران آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”المبسوط“ جو تین (۳۰) صفحیں جلدیں میں ہے زبانی مخصوص اپنے حافظے سے املأ کروائی، کسی کتاب کی مدد نہیں حاصل نہیں تھی، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کنویں میں قید ہونے کی حالت میں دوسری کتابوں سے استفادہ بھی بظاہر بہت مشکل تھا، یہ ان کی ایک کرامت تھی کہ ایسی تحقیقی کتاب املأ کروائی جو فقه حنفی کا مأخذ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت حیرت انگیز حافظہ عطا فرمایا تھا، ایک مرتبہ آپ درس کے حلقے میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو تین سو گز اسے (یعنی کا پیاس) حفظ تھیں، آپ نے اس پر فرمایا ”حفظ الشافعی ز کوہ محفوظی“، یعنی مجھے جتنا یاد ہے امام شافعی رحمہ اللہ کو اس کی زکوہ یاد تھی۔ ①

علامہ طاش کبری زادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں بارہ ہزار کا پیاس حفظ تھیں۔ ②
 علامہ سرخسی رحمہ اللہ کی خواہش تھی کہ امام حاکم شہید رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۷ھ) کی کتاب ”الكافی“ کی شرح لکھوں، چنانچہ آپ نے اویجہنڈ کے تنگ و تاریک کنویں سے اس کتاب کی شرح ”المبسوط“ املأ کروائی، آپ کنویں کے اندر سے املأ کرواتے اور آپ کے شاگرد منڈیر پر بیٹھے اُسے لکھتے تھے، کتاب کے مقدمہ میں علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے فرمایا:

فَرَأَيْتُ الصَّوَابَ فِي تَأْلِيفِ شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ لَا أَزِيدُ عَلَى الْمَعْنَى
الْمُؤْثِرِ فِي بَيَانِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ اكْتِفَاءً بِمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي كُلِّ بَابٍ، وَقَدْ انصَمَّ
إِلَى ذَلِكَ سُؤَالٌ بَعْضِ الْخَوَاصِ مِنْ زَمِنِ حَبِّيْسِي، حِينَ سَاعَدُونِي لِأُنْسِي،
.....

① الجوادر المضيئة: ج ۳ ص ۸۰

② مفتاح السعادة: ترجمة: شمس الأئمة السرخسي، ج ۲ ص ۱۶۶

أَنْ أُمْلِيَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَاجْتَهُمْ إِلَيْهِ.

ترجمہ: میں نے یہ مناسب سمجھا کہ مختصر (حاکم) کی ایک شرح لکھوں، جس میں ہر مسئلے کے بارے میں رانچ بات پر کوئی اضافہ نہ کروں اور ہر باب میں صرف وہ حکم بیان کروں جو قابل اعتماد ہو، اس پر مزید اضافہ یہ ہوا کہ میرے ساتھیوں میں کچھ خاص لوگوں نے میری قید کے زمانے میں مجھ سے اس کی فرماش بھی کی، اور میری انسیت کی خاطر میری یہ مدد کی کہ میں انہیں یہ شرح املا کر دیا کروں، چنانچہ میں نے ان کی یہ فرماش قبول کی۔

جن شاگردوں نے شرح لکھنی شروع کی، ان کا یہ جملہ کتاب کے بالکل شروع میں موجود ہے:

قَالَ الْإِمَامُ الْأَجَلُ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئَمَّةُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَّخِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنُورَ ضَرِيْحَهُ وَهُوَ فِي الْحَبْسِ بَأْوَزْ جَنْدَ إِمَلَاءً.

امام اجل شمس الائمه سرخسی رحمہ اللہ نے او ز جند میں قید ہونے کی حالت میں فرمایا۔ یہ پوری کتاب آپ نے کنویں سے املا کروائی، اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ تیسویں جلد میں ”کتاب الرضاع“ کے شروع میں یہ عبارت ہے:

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئَمَّةِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَّخِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِمَلَاءً يَوْمَ الْخَمِيسِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سَبْعِ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ”کتاب الرضاع“ کا آغاز بروز جمعرات ۱۲ جمادی الآخرہ ۷۲۹ھ میں ہوا تھا۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ کی دوسری کتاب ”أصول السرخسی“ کے مقدمہ میں ہے کہ شوال ۷۲۹ھ میں آپ اپنی یہ دوسری کتاب املا کروار ہے تھے۔ ”کتاب الرضاع“ سے آخر تک صرف تیرہ صفحے بنتے ہیں، اس لئے قرین قیاس یہی ہے

کہ یہ تیرہ صفحات بھی آپ نے کنویں ہی میں املا کروائے، اس لئے کہ ۷۲۹ھ سے ۷۳۷ھ تک تقریباً دو سال کا عرصہ ہے۔ اسی طرح ”أصول السرخسی“ جو دو جلدیں پر مشتمل کتاب ہے، یہ کتاب بھی آپ نے کنویں سے ۷۲۹ھ شوال میں املا کروائی، اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ کتاب کے شروع میں یہ عبارت آج بھی موجود ہے:

فَالشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلِ السَّرخِسِيِّ إِمْلَاءٌ فِي يَوْمِ السَّبْتِ سَلْخُ شَوَّالٍ سَنَةٌ تِسْعُ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ فِي زَاوِيَةِ حِصَارِ أَوْزَجِنَدِ.

اسی طرح آپ نے امام محمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ) کی جنگ اور بین الاقوامی تعلقات پر مبنی کتاب ”السیر الكبير“ کی شرح ”شرح السیر الكبير“ جو اس وقت ۵ جلدیں میں ”الشركة الشرقية“ سے ۱۹۷۱ء میں چھپی ہے، یہ کتاب بھی آپ نے کنویں سے املا کروائی، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۷ھ) نے اس کتاب کا تعارف کرتے ہوئے ”شرح السیر الكبير“ کی عبارت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب بھی آپ نے قید و بند کی صعوبتوں کے دوران املا کروائی ہے، دیکھئے: ①

علامہ سرخسی رحمہ اللہ کی علمی استحضار اور بلند ہمتی کا اندازہ کریں کہ ۳۰ جلدیں میں ”المبسوط“ ۲ جلدیں میں ”أصول السرخسی“ اور ۵ جلدیں پر مشتمل ”شرح السیر الكبير“ سب کتابیں آپ نے اپنی قوتِ حافظہ سے زبانی املا کروائیں، آج ان کتابوں کو دیکھ کر اگر ہم املا کروانا چاہیں تو ۳ جلدیں ہم املا نہیں کرو سکتے، املا تو دور کی بات ہم ان کا بیدار مغزی کے ساتھ مطالعہ بھی نہیں کر سکتے۔

علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے تقریباً تمام فقہی ابواب کا اس کتاب میں استیعاب کیا ہے،

① ماخوذ از ”سفر در سفر“، ص ۲۹۵، ۲۹۶

نہایت سہل اور واضح عبارت کے ساتھ مسائل ذکر کئے ہیں، احکامات اور دلائل تفصیلًا بیان کئے ہیں، ائمہ احناف کی آراء اور دلائل، فقہائے شلاشہ میں خصوصاً امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کے مذاہب و دلائل پھر ان دلائل پر مناقشہ بھی ذکر کیا ہے۔ امام احمد اور ظاہریہ کا مذهب بہت کم ذکر کرتے ہیں، مذهب احناف کے دلائل اور ترجیح میں جا بجا احادیث و آثار سے استدلال کرتے ہیں، بسا اوقات مذهب حنفی کے علاوہ اپنے قول کو بھی ترجیح دیتے ہیں اور اپنی رائے کی تائید میں دلائل بھی ذکر کرتے ہیں، اور کبھی حنفیہ اور دیگر مذاہب کے دلائل کو اس طور پر جمع کرتے ہیں کہ تعارض دور ہو جائے۔ یہ کتاب افادیت، جامعیت، استدلال، دلائل، ترجیح، مناقشہ اور فقہ مقارن کے لحاظ سے بنے نظریہ ہے۔ چونکہ یہ کتاب محض حافظے سے بغیر مراجعت کتاب کے زبانی املاء کروائی ہے اس لئے احادیث کے بیان اور نقل میں خوب تحقیق کی جائے۔ خلاصہ یہ ہے:

المبسوط كتاب قيم ومفيد وهو أوسع الكتب المطبوعة في الفقه
الحنفي والفقه المقارن ويعتمد عليه الحنفية في القضاء والفتوى.
تمیں جلدیں پر مشتمل یہ کتاب ۱۳۲۰ھ میں ”دار المعرفة“ بیروت سے شائع ہوئی ہے۔

٢٩ الواقعات الحسامی

امام عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازہ المعروف صدر الشہید رحمہما اللہ (متوفی ۵۳۶ھ) صاحب ہدایہ اور صاحب محیط رضوی کے استاذ ہیں، یہ خراسان کے رہنے والے تھے، ان کا شمارا کا بر حنفیہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ”الواقعات“ کے نام سے کتاب تالیف کی، اس میں امام ابواللیث سمرقندی رحمہما اللہ کی ”النوازل“، امام ناطقی رحمہما اللہ کی ”الواقعات“، امام ابو بکر محمد بن فضل رحمہما اللہ کے ”فتاوی“، اور ”فتاوی اہل سمرقند“ کے مسائل کو جمع کیا ہے۔ اور بعض مسائل دیگر کتب سے بھی جمع کئے ہیں۔ اس کتاب میں مأخذ کا حوالہ رموز کی صورت

میں دیتے ہیں، مثلاً ”الواو“ سے اشارہ ”الواقعات“ کی طرف، ”الباء“ سے اشارہ امام ابو بکر محمد بن فضل رحمہ اللہ کے فتاوی کی طرف، ”السین“ سے اشارہ ”فتاویٰ اہل سمرقند“ کی طرف اور ”العین“ سے اشارہ امام ابواللیث سمرقندی کی ”عيون المسائل“ کی طرف اور ”النون“ سے اشارہ ”النوازل“ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کتاب کا ذکر علامہ شامی رحمہ اللہ نے (رد المحتار: ۲۹) میں ”الواقعات للصدر الشهید“ کے نام سے کیا ہے۔ ہماری فقیہی کتابوں میں اس کتاب سے مسائل ”وفی الواقعات للصدر الشهید“ کہہ کر نقل کئے جاتے ہیں۔ یہ کتاب اس وقت غیر مطبوعہ ہے، لیکن اس کے اکثر مسائل ”المحيط البرهانی“ میں موجود ہیں۔ ①

٣..... منظومة النسفي في الخلاف

یہ امام ابو حفص عمر بن احمد بن احمد نسفي رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۳ھ) کا منظوم کلام ہے، جو درج ذیل دس ابواب پر مشتمل ہے:

الأول: في قول الإمام.

الثاني: في قول أبي يوسف.

الثالث: في قول محمد.

الرابع: في قول الإمام مع أبي يوسف.

الخامس: في قوله مع محمد.

السادس: في قول أبي يوسف مع محمد.

السابع: في قول كل واحد منهم.

الثامن: في قول زفر.

الحادي عشر: في قول الشافعى.

العاشر: في قول مالك. ①

”منظومة النسفى“ کی شروحات

اس منظومہ میں دو ہزار چھ سو انہتر (۲۶۶۹) اشعار ہیں۔

۱.....امام ابوالفتح محمد بن عبد الحمید اسمندی رحمہ اللہ (متوفی ۵۵۲ھ) نے اس کی شرح ”حصر المسائل و قصر الدلائل“ کے نام سے لکھی۔

۲.....امام ابومحمد محمود بن محمد بن داود الشیخی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۶ھ) نے اس منظومہ کلام کی شرح ”حقائق المنظومة“ کے نام سے لکھی۔

۳.....امام ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد النسفي رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷ھ) نے اس کی مفصل شرح ”المستصفی“ کے نام سے لکھی، پھر خود اس کا اختصار ”المصفي“ کے نام سے کیا، یہ اختصار ”المصفي“ شرح المنظومة“ کے نام سے معروف ہے۔

۴.....امام محمد بن محمود سدیس زوزنی رحمہ اللہ نے اس کی شرح ”ملتقى البحار من منتقة الأخبار“ کے نام سے لکھی۔

۵.....امام ابوالحسن علی بن محمد بن علی رحمہ اللہ نے اس کی شرح ”الموجز“ کے نام سے لکھی۔

۶.....امام ابوبکر محمد الحدادی رحمہ اللہ نے اس کی شرح ”النور المستنير“ کے نام سے لکھی۔

۷.....امام علی بن عثمان اوشی رحمہ اللہ نے اس کی شرح ”مختلف الروایة“ کے نام سے لکھی۔



لکھی، پھر خود اس کا اختصار ”استقصاء النهاية“ کے نام سے کیا۔ ①

۱۳..... تحفة الفقهاء

یہ علامہ علاء الدین محمد بن احمد سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۵۲۰ھ) کی تالیف ہے، مصنف رحمہ اللہ اس کتاب کے سببِ تالیف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

طلب منی بعضهم من الإخوان والأصحاب أن أذكر فيه بعض ما
ترك المصنف من أقسام المسائل، وأوضح المشكلات منه، بقوی من
الدلائل، ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة. ②

ترجمہ: مجھ سے میرے بعض تلامذہ اور دوستوں نے اس بات کی فرمائش کی کہ میں ان مسائل کا تذکرہ کروں جسے مصنف (امام قدوری رحمہ اللہ) نے چھوڑ دیا ہے، اور مشکل مقامات کی قوی دلائل کے ساتھ وضاحت کروں تاکہ یہ دگنے فائدے کا ذریعہ بن جائے۔ اس کتاب میں امام قدوری سے جو مسائل رہ گئے تھے ان کا اضافہ ہے، حسب ضرورت دلائل کا تذکرہ ہے، اختصار کے ساتھ فقهاء کے نقطہ نظر کی وضاحت ہے۔ اس کی تعبیر نہایت عام فہم اور مربوط ہے، یہ کتاب ”دار الكتب العلمية“ سے تین (۳) جلدوں میں طبع ہے۔

۱۴..... الفتاوی الولوالجیة

یہ امام ابوالفتح ظہیر الدین عبد الرشید ابی حنیفہ ولوالجی رحمہ اللہ (متوفی ۵۲۰ھ) کی تالیف ہے، ولوالجی افغانستان کا صوبہ بدخشان کا ایک قصبہ ہے۔ یہ فتاویٰ پانچ جلدوں میں ”دار الكتب العلمية“ سے طبع ہے۔ مصنف ہر باب کے تحت متعدد فصلیں قائم کر کے

① کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۸۶۷

② تحفة الفقهاء: مقدمۃ المؤلف، ج ۱ ص ۵

ترتیب کے ساتھ مسائل اور جزئیات ذکر کرتے ہیں، حاشیہ سے کتاب کی افادیت مزید بڑھنے ہے۔

۳۳..... خلاصۃ الفتاوی

علامہ طاہر بن احمد بن عبد الرشید بخاری رحمہ اللہ (متوفی ۵۲۲ھ) چھٹی صدی ہجری کے اکابر علمائے احناف میں سے ہیں، علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) ان کے ترجمہ کا آغاز ان القبابات کے ساتھ کرتے ہیں:

کان عدیم النظر فی زمانه، فرید أئمۃ الدهر، شیخ الحنفیة بما وارء

النهر. ①

ترجمہ: اپنے زمانے میں ان کی نظیر نہیں ملتی تھی، اپنے وقت کے یکتا عالم تھے، ماوراء النہر میں حنفیوں کے شیخ تھے۔

حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۰ھ) اس کتاب کا تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں: وهو کتاب مشہور معتمد فی مجلد ذکر فی أوله: أنه كتب فی هذا الفن خزانة الواقعات و کاب النصاب، فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطها، فكتب الخلاصۃ جامعة للرواية خالية عن الزوائد كتب فهرست الفصول والأجناس على رأس كل کاب ليكون عوناً لمن ابتلى

بالفتوى، وللزيلعى المحدث تخریج أحادیثه. ②

ترجمہ: یہ کتاب اہل علم کے درمیان مشہور اور قبل اعتماد ہے، یہ ایک جلد میں ہے، اس کتاب کے شروع میں آپ نے اس فن (فقہ) میں ”خزانۃ الواقعات“ اور ”کتاب

الفوائد البهیۃ: ترجمہ: طاہر بن احمد بن عبد الرشید، ص ۱۲۶۔ ③

۱۲ کشف الظنون: خلاصۃ الفتاوی، ج ۱ ص ۷۱۸

النصاب، لکھی، تو بعض دوستوں نے مجھ سے فرمائش کی میں ان کا اختصار کر کے ایک مختصر کتاب لکھوں تاکہ اس کا ضبط کرنا آسانی ممکن ہو، تو انہوں نے خلاصہ لکھا جو روایت کے اعتبار سے جامع اور روزانہ سے خالی ہے، اور ہر کتاب کے ابتداء میں انہوں نے فصول اور اجناس کی فہرست دی ہے تاکہ جس پر فتویٰ کی ذمہ داری ہو اُس کے لئے معاونت ہو، اور علامہ زیلیعی کی احادیث کی تخریج بھی ذکر کی ہے۔

علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

وقد طالعت من تصانیفه خلاصۃ الفتاوی ذکر فیه أنه لخصه من الواقعات والخزانة وهو کتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقهاء . ①
ترجمہ: میں نے ان کی تصانیف میں ”خلاصۃ الفتاوی“ کا مطالعہ کیا، اس میں انہوں نے اپنی کتاب ”الواقعات“ اور ”الخزانة“ کا اختصار کیا ہے، یہ کتاب علماء کے ہاں معتبر اور فقهاء کے ہاں قابلِ اعتماد ہے۔ (یہ کتاب چار جلدیں میں طبع ہے۔)

۳۴..... مجموع النوازل والحوادث والواقعات

امام احمد بن موسی بن عیسیٰ الکشی رحمہ اللہ (متوفی حدود ۵۵۰ھ) نے اس کتاب میں امام ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ کے ”فتاویٰ“، امام ابوکبر فضل رحمہ اللہ کے ”فتاویٰ“ اور امام ابو حفص کبیر رحمہ اللہ کے ”فتاویٰ“ کو جمع کیا ہے۔ یہ کتاب غیر مطبوعہ ہے۔ ②

۳۵..... جامع الفتاوی للناصری

یہ امام ابوالقاسم ناصر الدین محمد بن یوسف سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۵۵۶ھ) کی تصنیف ہے، ان کی فقہی تصانیف میں ”الملتقط فی الفتاوی الحنفیة“ بھی ہے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۰ھ) ان کے ”جامع الفتاوی“ کے متعلق فرماتے ہیں

① کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۶۰۶

الفوائد البهیة: ص ۱۳۶

”وہ کتاب مفید معتبر“ یہ مفید اور معتبر کتاب ہے۔ ①

٣٦..... الفتاوی السراجیة

اس فتاوی کے مصنف کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہیں؟ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۹ھ) کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ”فتاوی قاری الہدایہ“ کا نام ”سراجیہ“ ہے:

وفي فتاوی قاری الہدایۃ المسمیۃ بالسراجیۃ. ②

علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے بھی اس فتاوی کی نسبت علامہ سراج الدین ”فتاوی قاری الہدایہ“ کی طرف کی ہے:

(عن السراجیۃ) المراد بها هنا فتاوی سراج الدین قاری الہدایۃ. ③
 حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۷ھ) فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف علی بن عثمان بن محمد سراج الدین اوشی ہیں، مصنف اس کتاب کی تصنیف سے محرم ۵۶۹ھ میں فارغ ہوئے تھے۔

کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

وفيہ نوادر و قائم، لا توجه فی أکثر الکتب، وہی إحدی مأخذی

المنیۃ. ④

علامہ خیر الدین زرکلی لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف علی بن عثمان بن محمد اوشی ہیں،

۱ کشف الظنون: ج ۱ ص ۵۲۵ / هدیۃ العارفین: ج ۲ ص ۹۳

۲ البحر الرائق: کتاب الحدود، باب حد الزنا، ج ۵ ص ۱۱

۳ رد المحتار: کتاب الطلاق، باب الحضانة، ج ۳ ص ۵۶۱

۴ کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۲۲۳

ان کی متوفی ۵۶۹ھ کے بعد ہے۔ ①

حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ اس کتاب کا مصنف علامہ سراج الدین ابو حفص عمر بن اسحاق بن احمد ہندی (متوفی ۳۷۷ھ) ہیں۔ ②

حضرت پالن پوری صاحب نے ”الأعلام“ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، لیکن ”الأعلام“ میں علامہ عمر بن اسحاق بن احمد کے حالات میں انہوں نے اس کتاب کے ذکر کے فوراً بعد یہ جملہ بھی نقل کیا ہے ”وفي نسبة هذا الأخير إليه شك“ تو گویا علامہ زرکلی کی بھی یہ رائے حتیٰ نہیں ہے کہ اس کتاب کے مصنف عمر بن اسحاق ہیں، بلکہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس کتاب کا مصنف علی بن عثمان ہے جیسا کہ بحوالہ بات گزر گئی۔ ③

رقم کے نزدیک راجح بات وہ ہے جو حاجی خلیفہ اور علامہ زرکلی کی ہے۔ کتاب کا اسلوب اور طرزِ تالیف بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ چھٹی صدی کی تصنیف ہے آٹھویں صدی کی نہیں ہے۔ نیز مصنف نے خود تصریح کی ہے کہ وہ ۵۶۹ھ میں اس تصنیف سے فارغ ہوئے ہیں جیسا کہ ”کشف الظنون“ اور ”الأعلام“ کے حوالے سے بات گزر گئی۔ نیز یہ کتاب ”المنیة“ علامہ یوسف بن ابی سعید بجستانی رحمہ اللہ (متوفی ۶۳۸ھ) کا مخذلہ ہے، انہوں نے ”الفتاویٰ السراجیة“ سے بہت استفادہ کیا ہے۔ اگر اس کتاب کے مصنف عمر بن اسحاق ہندی غزنوی رحمہ اللہ ہوں جیسا کہ حضرت پالن پوری صاحب فرماتے ہیں وہ تو صاحبِ منیہ کی وفات کے ۲۶ سال کے بعد یعنی ۴۰۷ھ میں پیدا ہوئے تو پھر صاحبِ منیہ نے اس کتاب سے کیسے استفادہ کر لیا؟ نیز مصنف ”باب العیدین“ میں فرماتے ہیں ”لأنَّ الْخُلْفَاءِ عَبَاسِيَ الْيَوْمِ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف عباسی

④ آپ فتویٰ کیسے دیں: ص ۱۵۷

الأعلام: ج ۲ ص ۳۱۰


الأعلام: ج ۵ ص ۲۲

خلفاء کے زمانے میں حیات تھے، خلفائے عباسیہ کا دور ۶۵۶ھ میں ختم ہوا ہے، علامہ عمر بن اسحاق ہندی تو ۷۰۷ھ میں خلفائے عباسیہ کے دور کے ۲۸ سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ علامہ ہندی کی علمی شہرت اور علمائے احناف میں ان کے جلالتِ شان مسلم ہے، اگر ”الفتاویٰ السراجیة“ ان کی تصنیف ہوتی تو محققین علماء ان کی تصنیفات میں اس کتاب کو بھی شمار کرتے۔ علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ نے ”الغرة المنیفة“ پرمدھ تعلیقات لکھی ہیں اور شروع میں ان کے حالات بھی لکھے ہیں لیکن انہوں نے ان کی تصنیف میں اس کتاب کا شمار نہیں کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف علامہ علی بن عثمان بن محمد اوشی ہیں۔

یہ کتاب ابواب فقہیہ کی ترتیب پر مشتمل ہے، اس کتاب کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب مختصر انداز میں فقه حنفی کے اہم اور بنیادی مسائل پر مشتمل ہے۔ اور بقول حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کے ”وفیہ نوادر و قائم لا توجد فی أکثر الكتب“ ①

یہ کتاب فقہ حنفی کی جلیل القدر اور عظیم المرتبت کتاب ہے، اس میں بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے اور بعض ایسے مسائل کا بھی جو دیگر کتب میں نہیں ملتے، جیسے انسان اور جنات کے درمیان نکاح جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ مؤلف سے پہلے ہمارے ائمہ میں سے کسی نے بیان نہیں کیا، بعد کے علماء نے انہی سے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ علمائے شافعیہ نے بھی، جیسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (متوفی ۹۱۱ھ) نے ”الأشباء والنظائر“ جلد ۲ صفحہ ۲۵ میں اور علامہ ابن حجر یعنی رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۴ھ) نے ”الفتاویٰ الحدیثیة“ ص ۹۷ میں۔

مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں بجا کہا ہے ”إنه كتاب صغير.....“



الحجم كثير الغنم لاحتوائه على الأئم من الفوائد والأعم من الفرائد ”

(مقدمة: ۲۳)

اس کتاب کی جامعیت اور افادیت کے پیش نظر کبار اہل علم نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے، جن میں علامہ ابن حبیم رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۰ھ)، علامہ حسکفی رحمہ اللہ (متوفی ۸۸۰ھ)، علامہ طحطاوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۱ھ) اور علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) نمایاں ہیں۔ ”الفتاوی الہندیۃ“ میں تین سو سے زائد مسائل اس کتاب کے حوالے سے ذکر کئے ہیں۔ ”البحر الرائق“ اور ”رد المحتار“ میں سو سے زائد مسائل اس کتاب کے حوالے سے منقول ہیں۔ علامہ ابن حبیم رحمہ اللہ نے ”البحر الرائق“ کے مقدمہ میں اپنی کتاب کے مأخذ میں اس کتاب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب کے شایانِ شان اب تک اس پر کوئی علمی، تحقیقی اور تخریجی کام نہیں ہوا۔ اس کتاب کا ایک نسخہ ”اتچ ایم سعید“ سے طبع ہوا ہے جو (۱۶۰) صفحات پر مشتمل ہے۔ نیز یہ کتاب حضرت مولانا مفتی اصغر علی ربانی صاحب مدظلہ کے مختصر حواشی کے ساتھ ”مدرسہ فاطمۃ الزہراء“ کو رنگی نمبر ایک سے بھی شائع ہوئی ہے۔ اس میں مشکل الفاظ کے معانی اردو زبان میں حاشیے میں ذکر کئے ہیں۔ اس کتاب کا سب سے مفید نسخہ وہ ہے جو مولانا محمد عثمان بستوی صاحب کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ ۶۹۵ صفحات میں ”زمزم پبلیشورز“ کراچی سے شائع ہوا ہے۔ اس میں پانچ نسخوں سے موازنہ کر کے اغلاط کی صحیح اور مفید حواشی کے ساتھ کمپیوٹرائز نسخہ شائع کیا ہے۔ اس کے آخر میں ”ترجم الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب“ کے تحت مختصر انداز میں سورترجم ذکر کئے ہیں۔ ”المصادر التي أحال عليها المؤلف“ کے تحت (۱۹) مصادر ذکر کئے ہیں۔ یہ مفید علمی کام حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب مدظلہ کی زیر نگرانی ہوا ہے، کتاب کے شروع میں ”مقدمة المشرف“ کے تحت آپ کے تائیدی و تقریبی کلمات ہیں۔

۷۔۔۔ المحيط الرضوی

یہ محمد بن محمد بن محمد رضی الدین (متوفی ۱۷۵ھ) کی تصنیف ہے (اس سن وفات کو زرکلی نے ”الأعلام: ج ۷ ص ۲۵“ میں راجح قرار دیا ہے)۔ انہوں نے ”محيط“ نام کی تین کتابیں تصنیف کیں، ایک دس جلدوں میں، دوسری چار جلدوں میں اور تیسرا دو جلدوں میں ہے۔ یہ تینوں مصر، شام اور روم میں موجود ہیں:

ثلاثة محیطات، الأول: عشر مجلدات، والثانی: أربع مجلدات،
والثالث: مجلدان، وهذه الثلاثة موجودة بمصر والشام والروم. ①
علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں:
فإنه ذكر أولاً مسائل الأصول، ثم النوادر، ثم الفتاوى، ونعم ما

فعل. ②

ترجمہ: (امام رضی الدین نے ”المحيط“) میں سب سے پہلے اصول کے مسائل ذکر کئے، پھر نوادر کے اور پھر فتاویٰ کے، انہوں نے جو کیا بہت اچھا کیا۔

”المحيط“ نام کی اور کتاب ہے جو ”المحيط البرهانی“ کے نام سے طبع ہے، اس کے مصنف علامہ برہان الدین محمود بن احمد رحمہ اللہ (متوفی ۲۱۶ھ) ہیں۔ رقم کی معلومات کے مطابق ”المحيط الرضوی“ اب تک طبع نہیں ہوئی۔

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ کی تحقیق یہ ہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو ”المحيط البرهانی“ کے متعلق فرمایا کہ اس میں پہلے اصول، پھر نوادر اور آخر میں فتاویٰ کے مسائل ہیں، یہ ترتیب ”المحيط البرهانی“ میں ہے، محيط رضوی میں اس

① کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۶۲۰

② شرح عقود رسم المفتی: ص ۲۵

طرح نہیں ہے، اس میں مسائل ملے جلے اور غیر مرتب ہیں، چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنہ: هذا ما ذکرہ ابن عابدین رحمہم اللہ تعالیٰ بالنسبة "محیط" لرضی الدین السرخسی، والظاهر أنه لم يطلع عليه بنفسه ولا على "المحيط البرهانی" والحقيقة التي ظهرت بعد طباعة "المحيط البرهانی" أن هذا الوصف يصدق عليه دون "محیط" رضی الدین السرخسی، فإنه قال الإمام برهان الدين في مقدمة "محیط" وجمعت مسائل المبسوط والجامعین والسیر والزيادات، وألحقت فيها مسائل النوادر والفتاوی والواقعات وضمت إليها من الفوائد التي استفادتها من سیدی ومولائی والدی تغمّده اللہ تعالیٰ بالرحمة والدقائق التي حفظتها من مشائخ زمانی، وفصلت الكتاب تفصيلاً وجنت المسائل تجنیا.

وذكر محقق الكتاب ابن أخي الشیخ نعیم اشرف حفظہ اللہ تعالیٰ: أنه اطلع على نسخة من "المحيط الرضوی" وقال: طالعت بعض المواقع منها، فوجدت المسائل فيها ممزوجة غير مرتبة، خلاف ما سمعتُ ورأيتُ في كلام بعض المشائخ أنهم ذكروا أن رضی الدین السرخسی میز ورتب المسائل، فذکر أولاً مسائل ظاهر الروایة ثم النوادر ثم الفتاوی والواقعات، بل وجدت هذه المیزة تماماً في "المحيط البرهانی" وقد طبع الكتاب الحمد لله تعالیٰ بتحقيقه، فوجد الأمر كما

وصف. ①

ترجمہ: بنده ضعیف عفا اللہ عنہ کہتا ہے: جوبات ابن عابدین شامی نے رضی الدین

● أصول الإفتاد وآدابه: ص ۷۳، ۱، ۷۵

شخصی کی محیط کے بارے میں ذکر کی ہے بظاہر ابن عابدین نے بذاتِ خود نہ تو یہ کتاب دیکھی ہے اور نہ وہ ”المحيط البرهانی“ پر مطلع ہوئے ہیں۔ ”المحيط البرهانی“ کی طباعت کے بعد حقیقتِ حال جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وصف (مسائل کی تینوں قسموں کو الگ الگ بیان کرنا) ”المحيط البرهانی“ پر صادق آتا ہے نہ کہ رضی الدین شخصی کی ”المحيط“ پر۔ امام برہان الدین اپنی محیط کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے ”المبسوط، الجامع الصغیر، الجامع الكبير، السیر“ اور ”الزيادات“ کے مسائل جمع کر دیئے ہیں، اور ان کے ساتھ نوادر، فتاویٰ اور واقعات کے مسائل کو بھی محقق کر دیا ہے، ساتھ ہی میں نے وہ فوائد بھی ملاد دیئے ہیں جو میں نے سیدی و مولائی حضرت والدگرامی رحمہ اللہ سے حاصل کئے ہیں، اور وہ باریک نکات جنہیں میں نے اپنے زمانے کے مشائخ سے یاد کیا تھا وہ بھی ساتھ ملاد دیئے ہیں، میں نے کتاب کو خوب تفصیل سے لکھا ہے اور ہر جنس کے مسائل کو الگ الگ بیان کیا ہے۔

اس کتاب کے محقق میرے بھانجے شیخ نعیم اشرف حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے ”محیط رضوی“ کا ایک نسخہ دیکھا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کا بعض مقامات سے مطالعہ کیا تو میں نے اس میں تمام مسائل کو آپس میں ملا جا غیر مرتب پایا، اس کے بالکل برخلاف جو میں نے سن رکھا تھا اور میں نے بعض مشائخ کے کلام میں یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ رضی الدین شخصی نے مسائل کو الگ الگ اور ترتیب کے ساتھ لکھا ہے، اس طرح کہ وہ سب سے پہلے ظاہر الروایہ کے مسائل ذکر کرتے ہیں، پھر نوادر اور پھر واقعات بلکہ میں نے تو یہ امتیاز مکمل طور پر ”المحيط البرهانی“ میں پایا ہے۔ الحمد للہ یہ کتاب ان کی تحقیق کے ساتھ طبع ہو چکی ہے اور صورتِ حال ویسی ہی پائی گئی ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے۔

٣٨..... بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع

یہ کتاب علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد کا سانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۸۷ھ) کی تالیف ہے، یہ کتاب ”تحفة الفقهاء“ کی شرح ہے، حسن ترتیب کے لحاظ سے آج تک اپنی نظر آپ ہے، یہ کتاب نہ صرف فقہ حنفی میں بلکہ مطلق فقہ اسلامی میں یہ ایک منفرد کتاب ہے۔ اس کی عبارت واضح، زبان نہایت روائی اور سلیمانی ہے، مسائل کے دلائل اصول وکیاں کی صورت میں اس انداز سے بیان کئے گئے ہیں کہ جس سے نہ صرف مسئلہ کے بارے میں شرح صدر اور اطمینان کامل میسر آتا ہے، بلکہ فقہ سے ایک خاص مناسبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ نصوص کی کثرت سے اندازہ ہوتا ہے کہ روایات و آثار پر مصنف کی گہری نظر تھی، علم فقہ سے مناسبت اور عمق کے لئے اس کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ فقہ حنفی کے دلائل کے ساتھ دیگر فقهاء کے متدلاں اور اُن کے جوابات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، مسئلہ کی وضاحت عقل و نقل دونوں سے کرتے ہیں، اس لئے اس کے پڑھنے سے فقہ میں طبیعت چلنگی ہے، چونکہ اس کتاب میں ایک نیا انداز اور عمدہ ترتیب و اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس لئے اس کا نام ”بدائع الصنائع“ رکھا ہے۔ جب یہ شرح مکمل ہوئی تو مصنف نے ماتن کی خدمت میں پیش کی، آپ کو یہ شرح بہت پسند آئی، چنانچہ اپنی فقیہ بیٹی فاطمہ کا نکاح آپ سے کر دیا، تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ ”شَرَحَ تُحْفَةَ وَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ“، جب ان کے ہاں سے فتوی جاری ہوتا تو اس پر سُسر، داما دا اور بیٹی تینوں کے دستخط ہوتے تھے۔ ①

اگر کوئی شخص فقہ پر قلم اٹھائے اور اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا چاہے تو یہ تالیف اس کے لئے بہترین رہنمای ہے۔ علم فقہ سے مناسبت اور علمی پختگی کے لئے ان تین کتابوں کو

مطالعہ میں رکھیں:
.....

ا..... بدائع الصنائع ۲..... المجموع شرح المذهب ۳..... المغني

لابن قدامة

۳۹..... فتاویٰ قاضیخان

یہ علامہ فخر الدین حسن بن منصور بن محمود اوزجندی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۲ھ) کی تصنیف ہے، اوزجند فرغانہ کے قریب اصہان کے اطراف میں ایک شہر ہے، انہیں علوم دینیہ خصوصاً علم فقہ میں پید طولی حاصل تھا، علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) نے ان کاتعارف ان القبابات کے ساتھ کیا ہے:

کان إماماً كبيراً وبهراً عميقاً غواصاً في المعانى الدقيقة مجتهداً فهاماً۔ ①

علامہ قاسم بن قطلو بغار رحمہ اللہ (متوفی ۸۷۹ھ) فرماتے ہیں:

ما يصححه قاضي خان مقدم على تصحيح غيره لأنه فقيه النفس۔ ②
ترجمہ: علامہ قاضی خان جس قول کی تصحیح کرے وہ دوسروں پر مقدم ہے، اس لئے کہ آپ فقیہ النفس ہیں۔

علامہ احمد بن کمال پاشا نے آپ کو ”مجتهدین فی المسائل“ میں شمار کیا ہے۔ ③
اس فتاویٰ میں امام قاضی خان رحمہ اللہ نے ان مسائل کا ذکر کیا ہے جو کثیر الوقوع ہیں، اور وہ مسائل جن کی طرف احتیاج زیادہ ہوتی ہے۔ مصنف کا اسلوب یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں متاخرین کے اقوال متعدد ہوں تو ایک یا دو اقوال پر اکتفاء کرتے ہیں، اور جو قول ان کے نزدیک راجح اور زیادہ قابلٰ اعتماد ہوتا ہے تو اُسے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں،

① الفوائد البهية في تراجم الحنفية: ترجمة: حسن بن منصور بن محمود، ص ۱۱۱

② الفوائد البهية في تراجم الحنفية: ترجمة: حسن بن منصور بن محمود، ص ۱۱۱

③ شرح عقود رسم المفتی: ص ۲۲

اس اسلوب کو انہوں نے اپنے فتاوی کے خطبے میں ذکر کیا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری کے ساتھ حواشی کی صورت میں ابتدائی تین جلدوں میں ”مکتبہ رشیدیہ“ کوئٹہ سے طبع ہے، اور ”قدیمی کتب خانہ“ سے تین جلدوں میں الگ سے بھی طبع ہے۔

۳۰..... بدایۃ المبتدی

یہ تین صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینیانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۳ھ) کا ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی اور والد کا نام ابو بکر اور دادا کا نام عبد الجلیل ہے، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، اور برہان الدین مرغینیانی کے نام سے معروف ہیں، رجب ۱۱۵ھ بروز دوشنبہ بعد نماز عصر آپ کی ولادت ہوئی۔

صاحب ہدایہ نے اپنی وسعت اور بساط کے مطابق اپنے زمانے کے کبار علماء سے کسب فیض کیا تھا۔ بے شمار اساتذہ و شیوخ کے سامنے زانوئے تلمذ تھے کر کے علم و عرفان کی وادیاں طے کیں اور جب علوم متداولہ سے فارغ ہوئے تو ایسے بن سنور کراور نکھر کر سامنے آئے کہ کہنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ”لِمْ تَرَالْعَيْوَنَ مُثْلُهُ فِي الْعِلْمِ وَالْأَدْبِ“ یعنی علم و ادب میں کوئی آپ کا ثانی نہیں نظر آتا ہے، اور دور دور تک آپ کی علمی عبقریت، ادبی مہارت اور بے پناہ صلاحیت و لیاقت کا چرچا ہو گیا۔

علامہ عبد الجلیل کھنلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) آپ کے ترجمہ کا آغاز ان القبابات کے ساتھ کرتے ہیں:

كَانَ إِمامًاً فَقيهًا حافظًاً مُحَدِّثًاً مفسرًاً جامعًاً للعلوم ضابطًاً للفنون، متلقنًاً
مَحْقَقًاً نظارًاً مدققاًً زاهدًاً بارعاً فاضلاًً ماهراًً أصولياًً أدبياًً شاعرًاً لِمْ تَرَالْعَيْوَنَ مُثْلُهُ
فِي الْعِلْمِ وَالْأَدْبِ، وَلَهُ الْيَدُ الْبَاسِطَةُ فِي الْخَلَافَ وَالْبَاعِ الْمُمْتَدُ فِي الْمَذَهَبِ. ①

① الفوائد البهية: ترجمة: علی بن أبي بکر بن عبد الجلیل، ص ۲۳۰

ترجمہ: صاحب ہدایہ امام وقت، فقیہ دوراں، حافظ عصر، محدث زمان، مفسر قرآن، جامع علوم، ضابط فنون، پختہ علم، محقق و بالغ النظر، باریک بین، عابد وزاہد، پرہیزگار، فائق و فاضل، ماہر فنون، اصولی، ادیب اور شاعر تھے۔ علم و ادب میں آپ کا ثانی نہیں دیکھا گیا۔ آپ کو اختلاف ائمہ اور مذاہب کے سلسلے میں پید طولی حاصل تھا۔

یوں تو مبدأ فیض نے آپ کو ہر طرح کے علوم و فنون سے وافر حصہ عطا کیا تھا، اور ہر فن اور ہر علم میں امام کا درجہ حاصل تھا، لیکن فن فقہ سے آپ کو خصوصی لگاؤ تھا اور اس فن میں آپ بہت آگے نکل چکے تھے، بیانِ دلائل اور استخراج مسائل میں آپ کو درکِ تام حاصل تھا اور افہام و تفہیم میں بھی خصوصی ملکہ حاصل تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے درس میں بے انہما ازدہام ہوتا تھا اور ملک کے اطراف و اکناف سے لوگ آپ سے پڑھنے اور استفادہ کرنے کے لئے آپ کے علمی دربار کا رُخ اور سفر کیا کرتے تھے اور آپ پوری دل جمعی اور دل چسپی کے ساتھ آنے والوں کے دامن مراد کو علم و فضل کے بیش قیمتی جواہر پاروں سے لبریز کر دیا کرتے تھے۔

درسی اور زبانی افادے کے علاوہ صاحب ہدایہ نے قلمی اور تحریری طور پر بھی اپنے علوم کو دوسروں تک منتقل کیا، آپ کی تصانیف درج ذیل ہیں:

- ۱ بادایۃ المبتدی.
- ۲ التجھیس والمزید.
- ۳ شرح الجامع
- الکبیر للإمام محمد بن الحسن.
- ۴ فرائض العثمانی.
- ۵ کفایۃ المنتہی.
- ۶ مختارات مجمع النوازل.
- ۷ نشر المذهب.
- ۸ معجم الشیوخ.
- ۹ منتقی المرفووع.
- ۱۰ الہدایۃ لشرح البدایۃ.

الفوائد البهیة: ترجمہ: علی بن أبي بکر بن عبد الجلیل، ص ۲۳۰ / هدیۃ

اس کتاب میں انہوں نے ”مختصر القدوری“ اور ”الجامع الصغیر“ کے مسائل کو جمع کیا ہے۔ کتاب کے ابواب کو ”الجامع الصغیر“ کے طرز پر مرتب کیا، قدوری کے مسائل کو پہلے اور ”الجامع الصغیر“ کے مسائل کو بعد میں ذکر کیا۔ اس متن کی شرح خود صاحب ہدایہ نے ”الهدایۃ شرح بدایۃ المبتدی“ کے نام سے کی ہے۔ ۲۶۷ صفحات پر مشتمل یہ متن پہلے مطبوع نہیں تھا، اب یہ متن ”مطبعہ محمد علی صحیح“، قاهرہ سے طبع ہے۔ علامہ ابو بکر بن علی عاملی رحمہ اللہ (متوفی ۹۶۵ھ) نے اس متن کو نظم کی صورت میں تحریر کیا ہے۔ ①

۱۳..... الہدایۃ

ہدایہ کو علامہ مرغینانی رحمہ اللہ نے نہایت زہد و تقوی، اخلاص و للہیت کے ساتھ لکھا، یہ کتاب تیرہ (۱۳) سال کے عرصے میں مسلسل روزے کی حالت میں لکھی، آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی کو اس عمل کی خبر نہ ہو:

فی تصنیفه ثلاثة عشرة سنة، و كان صائمًاً تلک المدة و كان يجتهد
ألا يطلع على صومه أحد. ②

ترجمہ: یہ کتاب تیرہ (۱۳) سال کے عرصے میں لکھی گئی، اور اس پوری مدت میں آپ روزے کی حالت میں رہے، اور آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی آپ کے اس عمل پر مطلع نہ ہو۔ صاحب ہدایہ کا اسلوب، منبع، طرزِ تالیف اور رموز سے واقفیت کے لئے دیکھیں: ③
علامہ طاش کبری زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۹۶۸ھ) نے اس مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ

۱ کشف الظنوں: ج ۱ ص ۲۲۷

۲ مفتاح السعادۃ: الکتب المعتبرة، ج ۲ ص ۲۳۸

۳ مفتاح السعادۃ: الکتب المعتبرة، ج ۲ ص ۲۳۹، ۲۴۰

آپ نے ”بِدَايَةِ الْمُبْتَدِي“ کی مفصل و مدلل نہایت تفصیل کے ساتھ ”کفایۃُ الْمُنْتَهَی“ کے نام سے اسی (۸۰) جلدوں میں شرح لکھی۔ ①

یہ حضن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب ہدایہ کی اس کتاب کو وہ مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی جو دیگر مصنفوں و مؤلفین کے حصے میں نہ آسکی، بلکہ شبہ ہدایہ فقہ حنفی کا جزء لا بیفک ہے، اور حنفی کتابوں میں اسے ایک معتربر اور معتمد متن کی سند اور حیثیت حاصل ہے۔

ہدایہ کی یہ مقبولیت روز بروز بڑھتی گئی اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا ہدایہ کے حوالے سے طالبین دین متین کی شغف اور ان کی چاہت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اس کتاب کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کبھی گمراہی اور بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتے، اور غور و فکر سے پڑھنے والے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر خود اعتمادی اور دوسرے کلام کے صحیح معانی و مطالب اخذ کرنے کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے، کسی شاعر نے ہدایہ کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے ہوئے درج ذیل اشعار کہے ہیں:

إِنَّ الْهِدَىَةَ كَالْقُرْآنِ قَدْ نَسَخَتْ مَا صَنَفُوا قَبْلَهَا فِي الشَّرْعِ مِنْ كُتُبٍ
فَاحْفَظُ قَوَاعِدَهَا وَاسْلُكْ مَسَالِكَهَا يَسْلِمُ مَقَالَكَ مِنْ زَيْغٍ وَمِنْ كِذْبٍ

ترجمہ: قرآن کریم کی طرح ہدایہ نے بھی شریعت کے سلسلے میں لکھی گئیں اپنے سے پہلی تمام تصنیفات کو منسوخ کر دیا، لہذا اے مخاطب! تم ہدایہ کی تعلیم و تعلم کو لازم پکڑو، تمہاری گفتگو کذب و بھی سے محفوظ رہے گی۔

امام اعصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) فرمایا کرتے تھے:
چاروں فقہی مسائلک میں فقہاء نے بہت کتابیں لکھیں اور ان میں بعض مضامین اور

اسلوب بیان کے اعتبار سے بہت بلند مرتبہ ہیں لیکن ہدایہ جیسی کوئی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ حسن ترتیب اور حسن بیان دونوں کے اعتبار سے ہدایہ بے مثال کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ ”فتح القدر“، جیسی کتاب لکھ دو تو مجھے امید ہے کہ میں لکھ سکوں گا، لیکن اگر کوئی ہدایہ جیسی کتاب لکھنے کے لئے کہے تو شاید میں چند سطیر میں بھی نہ لکھ سکوں۔ ①

حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے کہ ”الحمد للہ! میں ہر کتاب کے مخصوص طرز پر کچھ لکھ سکتا ہوں لیکن چار کتاب میں اس سے مستثنی ہیں:

قرآن عزیز، بخاری شریف، مثنوی اور ہدایہ۔

علامہ کشمیری رحمہ اللہ کی علمی جلالت شان سے جو واقف ہیں وہ ان کے اس قول کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صاحب ہدایہ کی وفات پر آٹھ صد یاں گزرنے کو ہیں مگر ہدایہ آج بھی اس طرح نصاب میں باقی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جن مقاصد کے پیش نظر یہ کتاب نصاب میں داخل کی گئی ہے فقه حنفی میں کوئی دوسری کتاب اب تک ایسی تصنیف ہی نہیں ہوئی جو اس کے قائم مقام ہو سکے۔

شیخ الشفیع والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۸۲ھ) نے ”سراج الہدایہ“ کے آغاز میں ہدایہ کے بارے میں یہ کلمات تحریر کئے، ان کا یہ جملہ ہدایہ کی ایک منفرد خصوصیت کی نشاندہی کر رہا ہے:

دریا کی ظاہری سطح پر تیرنے سے موتي ہاتھ نہیں آتے۔ موتي اس کے ہاتھ لگتے ہیں جو دریا کی گہرائی تک غوطہ لگانے کی قدرت رکھتا ہو، ان جیسے راستین فی العلم میں سے شیخ مرغینی رحمہ اللہ بھی ہیں، جنہوں نے شرائع اسلام یعنی احکام شرعیہ کی تحقیق و تدقیق پر

”ہدایہ“ کے نام سے ایک کتاب تالیف فرمائی، جو احکام شرعیہ کی تحقیق و تدقیق اور علم کی گہرائی میں اپنی نظر نہیں رکھتی۔ ہر مسئلہ پر انہمہ اربعہ کے اقوال اور ہر قول کی ایک ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل عقلی بیان کی۔ پھر آخر میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کی ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل عقلی بیان کرنے کے بعد انہمہ مجتہدین رحمہم اللہ کی ہر دلیل نقلی اور دلیل عقلی کا جواب دیا۔ اس طرح بسا اوقات تین اماموں کی چھ دلیلیں اور ان کے چھ جواب مل کر بارہ ہوتے ہیں اور دو دلیلیں ابوحنیفہ کی اور ایک وجہ ترجیح سب مل کر پندرہ دلائل کا ذخیرہ

چند سطروں میں سامنے آ جاتا ہے اور قاری پر حیرت و استجابت کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ ①

”الهداۃ“ یہ پہلے ”مکتبہ خیریہ“ مصر سے ۱۳۲۶ھ میں طبع ہوئی۔ پھر یہ شیخ عبد الرحیم بن مصطفیٰ عدوی کی تحقیق اور تعلیق کے ساتھ ”مصطفیٰ البابی حلبی“ سے ۱۳۵۵ھ میں طبع ہوئی۔ پھر ہندوستان میں علامہ عبد الحجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) کے حواشی و تعلیقات کے ساتھ ۱۳۷۵ھ میں نہایت اہتمام کے ساتھ طبع ہوئی۔

”الهداۃ“ کی سولہ شروحات


کئی اکابر اہل علم نے ہدایہ کی شروح و حواشی اور تخریج حدیث کی، ان میں چند ایک درج ذیل ہیں:

۱..... ”الفوائد الفقهية“ علامہ حمید الدین علی بن محمد بن علی الضریر رحمہ اللہ (متوفی ۲۶۶ھ)

۲..... ”نهاية الكفاية في دراية الهداۃ“ علامہ تاج الشریعہ عمر بن صدر الشریعہ الاول عبد اللہ الحبوبی رحمہ اللہ (متوفی ۲۷۲ھ)

۳..... ”الغاۃ“ امام ابوالعباس احمد بن ابراہیم السروجی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷ھ)

۴..... ”النهاية شرح الهداۃ“ امام حسام الدین حسین بن علی سُغناقی المعروف



شارح الہدایہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷ھ)

امام جمال الدین محمود بن احمد القونوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷ھ) نے اس کی تلخیص ”خلاصة النهاية في فوائد الهدایة“ کے نام سے کی۔

۵..... ”شرح الہدایۃ“، حافظ الدین ابوالبر کات عبد اللہ بن احمد النسفي (متوفی ۱۰۷ھ) امام نسفي رحمہ اللہ نے یہ شرح قیام بغداد کے دوران ۱۰۰۰ھ میں تصنیف کی۔
 ۶..... ”شرح الہدایۃ“، امام احمد بن حسن المعروف بابن الزركشی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۷ھ)

۷..... ”معراج الدرایۃ إلى شرح الہدایۃ“، امام قوام الدین محمد بن محمد رحمہ اللہ (متوفی ۴۹۷ھ)

۸..... ”شرح الہدایۃ“، علامہ علاء الدین علی بن عثمان ترکمانی ماردنی (متوفی ۵۰۷ھ) وہ اسے خود مکمل نہ کر سکے۔ ان کی وفات کے بعد اس کی تکمیل ان کے بیٹے جمال الدین عبد اللہ رحمہ اللہ (متوفی ۶۹۷ھ) نے کی۔

۹..... ”شرح الہدایۃ“، امام نجم الدین ابراہیم بن علی طرطوسی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۷ھ)

۱۰..... ”غاية البيان ونادرة القرآن“، امام قوام الدین امیر کاتب بن امیر عمر الاقانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۸۷ھ)

۱۱..... ”الکفاۃ فی شرح الہدایۃ“، امام سید جلال الدین بن شمس الدین خوارزمی رحمہ اللہ (متوفی ۷۶۷ھ)

۱۲..... ”التوشیح“، علامہ سراج الدین عمر بن اسحاق غزنوی رحمہ اللہ (متوفی ۷۷۳ھ)

۱۳..... ”العنایة شرح الہدایۃ“، علامہ اکمل الدین محمود بن محمد بابری رحمہ اللہ (متوفی ۸۲۶ھ)

اس شرح کے متعلق حاجی خلیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”وقد أحسن فيه وأجاد“ یہ نہایت مفید شرح ہے، اس میں متوسط انداز میں کتاب کو حل کیا گیا ہے، ہر کتاب کی دوسری کتاب سے مناسبت، ہر کتاب کے شروع میں لغوی، اصطلاحی معنی، اُس کتاب کی اہمیت و ضرورت، ائمہ ثلاثہ کی آراء، راجح مذهب کی نشاندہی، نہایت منقح و مہذب انداز میں بچے نئے الفاظ کے ساتھ مصنف کی مراد کی وضاحت کرتے ہیں، یہ شرح دس جلدوں میں ”دار الفکر“ سے طبع ہے۔

۱۴..... ”شرح الہدایۃ“، علامہ سید الشریف علی بن محمد الجرجانی رحمہ اللہ (متوفی ۸۱۶ھ)

۱۵..... ”البنایۃ شرح الہدایۃ“، علامہ بدرا الدین محمود بن احمد عینی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ)

علامہ عینی رحمہ اللہ بنایۃ کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ۹۰ سال کی عمر کے قریب میری عمر ہے جب میں نے یہ کتاب تصنیف کی۔ ①

وفات سے پانچ سال قبل یعنی ۸۵۰ھ میں آپ کی یہ تصنیف مکمل ہوئی، حل کتاب کے لحاظ سے ہدایہ کی شروحات میں یہ شرح سب سے ممتاز ہے، مصنف نے حل لغات، غریب الفاظ کی وضاحت، ہدایہ کی عبارت کی توضیح، ائمہ احناف کے مذاہب، دلائل اور ترجیح، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے راجح قول کی نشاندہی، ائمہ ثلثہ کے مذاہب و دلائل، اُن کے دلائل کے جوابات، مذهب احناف کی ترجیح، احادیث کی تخریج، احادیث احکام کا

تفصیلی تذکرہ، مرفوع، موقوف، مقطوع تینوں ذخیروں سے استفادہ، نہایت سہل عبارت کے ساتھ کتاب کی توضیح و تشریح کی ہے، یہ شرح ۱۴۲۰ھ میں تیرہ جلدیوں میں ”دارالکتب العلمیہ“ سے طبع ہے۔

۱۶.....”فتح القدیر“ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ (متوفی ۸۲۱ھ)

مصنف حدیث، فقہ، اصول فقہ اور علوم عربیت میں نمایاں مقام رکھتے تھے، علامہ عبد الحی لکھنؤی رحمہ اللہ ان کا تذکرہ ان القبابات کے ساتھ کرتے ہیں:

کان إماماً نظاراً فارساً فی البحث فروعياً أصولياً محدثاً مفسراً
حافظاً نحوياً كلامياً منطقياً جديلاً ①

آپ نے اس شرح کا آغاز ۸۲۹ھ میں کیا، مصنف نے نہایت بسط کے ساتھ محققانہ انداز میں یہ شرح لکھی، اس میں لغات کی وضاحت، الفاظ کی تشریح، عبارت کا حل، احادیث کی تخریج، روایات پر نقد و جرح، الفاظ حدیث کی وضاحت، احادیث کے دیگر طرق و متابع کا ذکر، اگر روایت بالمعنی ہے تو اصل الفاظ کی نشاندہی، احادیث احکام کا تفصیلی ذکر، ائمہ ثلاثہ کے مذاہب و دلائل، حنفی نقطہ نظر کی اعتدال کے ساتھ وضاحت، تسامحات کی نشاندہی، فروعی مسائل کا ذکر، دلائل عقلیہ، نقلیہ کا تذکرہ، ہر کتاب کے شروع میں لغوی، اصطلاحی اور فنی معلومات، جابجا اصول فقہ اور علوم عربیت کے قواعد و فوائد کا تذکرہ، یہ شرح علوم و معارف، تحقیق و تدقیق کا ایک گنجینہ ہے۔ مصنف جب ”کتاب الوکالة“ میں ”والعقد الذى يعقده الوکلاء على ضربين“ پر پہنچ تو آپ کا انتقال ہو گیا، پھر اس شرح کی تکمیل علامہ شمس الدین احمد بن قودر المعروف قاضی زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۹۸۸ھ) نے ”نتائج الأفکار فی کشف الرموز والأسرار“ کے نام سے اس کا تکملہ لکھا، یہ

الفوائد البھیۃ: ترجمۃ: محمد بن عبد الواحد، ①

کتاب اور تکملہ ”مصطفیٰ البابی حلبی“، سے ۱۳۸۹ھ میں دس جلدیں میں ہے۔

ہدایہ پر لکھی گئی مزید شروح، حواشی، تعلیقات اور اختصارات کے لئے تفصیل آدیکھنے: ①

”الهداية“ کی احادیث و آثار کی تحریج پر لکھی گئی کتابیں

۱..... ”الکفاية فی معرفة أحادیث الهداية“ علامہ علاء الدین علی بن عثمان المعروف ترکمانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۰۷ھ)

۲..... ”نصب الرایۃ لأحادیث الهداية“ علامہ جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف زیلیعی رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۷ھ)

۳..... ”العنایۃ فی تحریج أحادیث الهداية“ علامہ عبد القادر قرشی رحمہ اللہ (متوفی ۷۷۵ھ)

۴..... ”الدرایۃ فی تحریج أحادیث الهداية“ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۲ھ) یہ امام زیلیعی رحمہ اللہ کی ”نصب الرایۃ“ کی تنجیص ہے۔

۵..... ”منیۃ الالمعی فيما فات من تحریج أحادیث الهداية للزیلیعی“ علامہ قاسم بن قطلو بغار رحمہ اللہ (متوفی ۸۷۹ھ)

محقق اعصر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۳ھ) صاحب ہدایہ کی علم حدیث میں جلالتِ شان اور ہدایہ میں موجود روایات کے متعلق لکھتے ہیں:

قلت: ويدل على كونه محدثا حافظا للحديث كثرة ما أودعه في
كتبه لا سيما الهداية من الأحاديث، وقد اعتنى الحافظ الزيلعی بتخريجها
في كتاب سماه ”نصب الرایۃ فی تحریج أحادیث الهداية“ ولخصها
الحافظ ابن حجر العسقلانی فسماه ”الدرایۃ لأحادیث الهداية“ وكل

حدیث قال فيه الحافظان ”غريب لم نجده“ قد وجدت الكثير منه والله الحمد في كتاب الخراج للإمام أبي يوسف، وفي كتاب الآثار له وفي كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن، وفي كتاب الحجج له، رحمه الله عليهما، ويدل على براعته في العربية والأدب ما في كتاب الهدایة من الفصاحة والبلاغة والانسجام والسلامة كما اعترف به بعض الأدباء من الشیعة حيث قال: أفصح الكتب في الإسلام بعد كتاب الله البخاري ثم الهدایة، ولعله لم يطلع على الموطأ للإمام محمد رحمه الله ولا على الجامع الصغير له، وإنما قال: أفصح الكتب بعد كتاب الله الموطأ لمحمد رحمه الله ثم البخاري ثم الجامع الصغير لمحمد ثم الهدایة. ①

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ صاحب ہدایہ کے محدث اور حافظ الحدیث ہونے پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ اپنی کتابوں میں احادیث نقل کی ہیں، خصوصاً ہدایہ میں۔ حافظ زیلیع نے ان احادیث کی تخریج اپنی کتاب ”نصب الرایۃ فی تحریج احادیث الہدایۃ“ میں کی ہے۔ اس کتاب کی تلخیص حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”الدرایۃ لاحادیث الہدایۃ“ کے نام سے کی۔ ہر وہ حدیث جس کے بارے میں ان دونوں حفاظِ حدیث نے فرمایا کہ یہ روایت غریب ہے ہمیں نہیں ملی، ان میں سے اکثر احادیث اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے امام ابو یوسف کی ”کتاب الخراج“ اور ”کتاب الآثار“ اور امام محمد کی ”کتاب الآثار“ اور ”کتاب الحجج“ میں مل گئیں۔

صاحب ہدایہ کی عربیت اور ادبیت میں مہارت کا اندازہ ہدایہ کی فصح و بلغ مریوط اور

① أبو حنيفة وأصحابه المحدثون: ترجمة: على بن أبي بكر بن عبد الجليل

سلامت بھری عبارت سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض شیعہ ادباء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام میں کتاب اللہ کے بعد سب سے فضیح کتاب بخاری اور پھر ہدایہ ہے۔ شاید یہ امام محمد کی ”الموطاً“ اور ”الجامع الصغیر“ پر مطلع نہیں ہوئے، ورنہ یہ کہتے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے فضیح کتاب امام محمد کی ”الموطاً“ پھر ”صحیح البخاری“ پھر ”الجامع الصغیر“ اور پھر ”الهداۃ“ ہے۔

ہدایہ پڑھاتے وقت حل کتاب کے لئے ”البنایہ“، ”تفصیلات“، ”دلائل“، ”جزئیات“ کے لئے ”فتح القدیر“ اور ”خریج احادیث“ کے لئے ”نصب الرایۃ“ کا مطالعہ کریں۔

”الهداۃ“ پر اہل علم کی متنوع خدمات

بعض اہل علم نے ہدایہ کے نفس مسائل کو بغیر دلائل کے بھی جمع کیا، ان میں امام ابو اطیع محمد بن عثمان رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۷ھ) کی ”الرعایۃ فی تحرید مسائل الہداۃ“، اور علامہ طاش کبری زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۹۶۸ھ) کی ”اصحاب البدایۃ والنهایۃ فی تحرید مسائل الہداۃ“ کا نام ملتا ہے۔

بعض اہل علم نے ہدایہ کی تلخیص بھی کی، ان میں نمایاں نام علامہ علاء الدین علی بن عثمان ماردینی رحمہ اللہ (متوفی ۵۰۷ھ) کی ”الکفاۃ فی تلخیص الہداۃ“ کا ہے۔ ہدایہ کے مسائل اور دلائل پر کئے گئے اعترافات کے جوابات پر علامہ عبد الرحمن بن کمال رحمہ اللہ نے ”ترغیب اللبیب“، لکھی۔

”الهداۃ“ پر کچھی گئی تعلیقات

۱..... تعلیقات: امام سراج الدین عمر بن علی المعروف قاری الہدایہ رحمہ اللہ (متوفی ۸۲۹ھ)

۲..... تعلیقات: امام احمد بن سلیمان ابن کمال پاشا رحمہ اللہ (متوفی ۹۲۰ھ)

۳..... تعلیقات: مجشی بیضاوی شیخ زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۹۵۱ھ)



۳..... تعلیقات: امام ابوالسعون دعماًدی رحمہ اللہ (متوفی ۹۸۲ھ)

۵..... تعلیقات: امام عبدالحیم المعرف انجی زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۱ھ)

ہدایہ پر لکھے گئے حواشی میں زیادہ مقبولیت پاک و ہند میں علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) کے حاشیہ کو ملی۔

۳۲..... التجنیس والمزید

یہ امام علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل فرغانی مرغینانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۳ھ) المعروف صاحب ہدایہ کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں فقہ حنفی کی اُن پیش آمدہ نئے مسائل کا ذکر ہے جنہیں متاخرین نے استنباط کیا ہے، متقدمین سے اس بارے میں کوئی صراحت منقول نہیں ہے۔ یہ کتاب علامہ سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۳ھ) کی ”النوازل، عيون المسائل“ اور ”واقعات الناطفی، فتاوی ابن الفضل، فتاوی ائمۃ سمرقند“ کا تتمہ ہے۔ ان کتابوں میں بھی نئے مسائل اور حوادث کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب فقہی ابواب کی ترتیب پر ہے، یہ ایک مقدمہ اور پانچ کتب ”کتاب الطهارة، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب الصوم، کتاب الحج“ پر مشتمل ہے، یہ کتاب کل (۱۳۵) مسائل پر مشتمل ہے، اس میں ہر مسئلہ پر ”مسئلة“ کا عنوان ہے، چونکہ ہر مسئلہ ترقیم اور ”مسئلة“ کے ذیلی عنوان سے مزین ہے اس لئے اس کتاب سے استفادہ اور مطلوبہ مسئلہ تک رسائی آسان ہے۔ اس کتاب میں صرف مسائل کا تذکرہ ہے، دلائل کا ذکر نہیں ہے، فقہاء ثلاثة یادگیر مذاہب کا بھی تذکرہ نہیں ہے، عموماً کتب فتاوی مسائل پر مشتمل ہوتی ہیں ادله اور اختلافات پر نہیں، ورنہ صاحب ہدایہ مذاہب، فقہ مقارن، عقلی و نقلي دلائل سے خوب واقف ہیں جیسا کہ ہدایہ پڑھنے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب مذهب حنفی کے مطابق متاخرین علماء کے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب دکتور محمد امین

مکی حفظہ اللہ کی نہایت گراں قدر تحقیق و تعلیق اور تخریج حدیث کے ساتھ طبع ہوئی ہے۔ محقق نے فصلِ اول میں قدرے تفصیل کے ساتھ مصنف کے حالات اور تصنیفات کا ذکر کیا ہے۔ فصلِ ثانی میں ”التجنیس والمزید“ کا معنی، اس کتاب کی صاحب ہدایہ کی طرف نسبت کی توثیق اور اس کتاب کے مصادر، رموز اور اس کتاب میں جن اہل علم اور کتب کا تذکرہ آیا ہے ان کا تعارف کرایا ہے۔ محقق نے نہایت عرق ریزی کے ساتھ مختلف نسخوں سے موازنہ کر کے درست عبارت کی نشاندہی، غریب الفاظ کی وضاحت، مسائل پر ترجم، کتب فقہ سے مسائل کی تخریج، احادیث کی تخریج اور کتاب کے آخر میں متعدد فہرستوں کے ذریعے کتاب کی افادیت پر چار چاند لگادیتے ہیں۔ یہ محققانہ نسخہ دو جلدوں میں ”ادارة القرآن والعلوم الإسلامية“ کراچی سے شائع ہوا ہے۔

۳۳..... الحاوی القدسی

قاضی جمال الدین احمد بن محمد غزنوی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۳ھ) نے یہ کتاب بیت المقدس میں تصنیف کی ہے، اس لئے اسے ”قدسی“ کہتے ہیں۔ یہ کتاب تین قسموں پر مشتمل ہے، ایک قسم اصول دین پر ہے، ایک قسم اصول فقہ پر ہے اور ایک قسم فرعی مسائل پر مشتمل ہے: وجعله على ثلاثة أقسام: قسم في أصول الدين، وقسم في أصول الفقه، وقسم في الفروع، وأكثر فيها من ذكر الفروع المهمة في كراسيس

یسیرۃ۔ ①

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں ”فإنه من الكتب المعتبرة“ یہ

کتاب معتبر کتابوں میں سے ہے۔ ②

۱ کشف الظنون: ج ۱ ص ۲۷

۲ اصول الإفتاء وآدابه: ص ۲۱۱

٣٣..... خلاصۃ الدلائل فی تنقیح المسائل

یہ امام حسام الدین علی بن احمد بن رازی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۸ھ) کی تصنیف ہے، جو ”مختصر القدوری“ کی شرح ہے، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۶ھ) اس شرح کے متعلق فرماتے ہیں ”شرح مفید، مختصر، نافع“ اس کتاب پر امام احمد بن عثمان ترکمانی رحمہ اللہ (متوفی ۲۷۴ھ) نے تین تعلیقات لکھیں:

الأولی: فی حل مشکلاتہ.

والثانیة: فيما أهمله من المسائل.

والثالث: فی أحادیثه، والکلام عليها. ①

اس کتاب کی احادیث کی تخریج علامہ عبدالقدیر قرقشی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۷ھ) نے کی، اور اس کا نام رکھا ”الطرق والوسائل إلى معرفة أحادیث خلاصۃ الدلائل“ ②

٣٤..... المحيط البرهانی فی الفقه النعمانی

یہ علامہ برہان الدین محمود بن احمد بن عبد العزیز بخاری رحمہ اللہ (متوفی ۶۱۶ھ) کی تصنیف ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) نے ان کے ترجمہ کا آغاز ان القابات کے ساتھ کیا ہے:

كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء الأمة، إماماً ورعاً مجتهداً

متواضعاً عالماً كاملاً بحراً آخراً. ③

❶ کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۶۳

❷ کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۶۳

❸ الفوائد البهیة: ترجمة: برہان الدین محمود بن احمد، ص ۳۳۶

ترجمہ: کبار ائمہ میں سے تھے، امت کے بلند پایہ فقہاء میں سے تھے، اپنے وقت کے امام، پرہیزگار، مجتهد اور متواضع تھے، کامل عالم اور علم کے ایک وسیع سمندر تھے۔

مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کن کن کتابوں سے استفادہ کیا، اپنے مراجع و مصادر کا تذکرہ مصنف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

وَجَمِعَتْ مَسَائِلَ الْمُبْسُطِ وَالْجَامِعِينَ وَالسِّيرِ وَالرِّيَادَاتِ، وَالْحَقْتِ بِهَا
مَسَائِلُ النَّوَادِرِ وَالْفَتاوِيِّ وَالوَاقِعَاتِ، وَضَمَّنَتْ إِلَيْهَا مِنَ الْفَوَائِدِ الَّتِي أَسْتَفَدَتْهَا
مِنْ سَيِّدِي وَمَوْلَايِ وَالدِّي (تغمده اللہ بالرحمة) وَالدَّقَائِقِ الَّتِي حَفَظَتْهَا مِنْ
مَشَايخِ زَمَانِيِّ رَضْوَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَفَصَلَّتْ الْكِتَابُ تَفصِيلًا۔ ①

ترجمہ: میں نے اس میں مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر اور زیادات کے مسائل جمع کئے ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ نوادر، فتاویٰ اور واقعات کو بھی ساتھ ملایا ہے، اور میں نے اس میں اُن فوائد کو بھی ملایا ہے جو میں نے اپنے والد بزرگوار (اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے) سے حاصل کئے اور میں نے اپنے زمانے کے مشائخ سے جو دقيق فوائد حاصل کئے وہ بھی اس میں شامل کر دیئے، اور میں نے اس کتاب میں مسائل نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر کئے ہیں۔

محیط کا معنی ہے احاطہ کرنے والی، چونکہ یہ مسائل مذہب کے تینوں طبقات، اصول، نوادر اور نوازل کا احاطہ کرتی ہے اس لئے مصنف نے اس کا نام ”المحیط“ رکھا ہے، اس کو ”المحیط الكبير“ بھی کہتے ہیں، مصنف نے اپنی کتاب کی خود ایک تلخیص کی ہے جو ”الذخیرۃ البرهانیۃ“ کے نام سے معروف ہے، اسے ”ذخیرۃ الفتاویٰ“ بھی کہتے ہیں۔ ②

① المحيط البرهانی: مقدمة المؤلف، ۱ / ۲۹

② کشف الظنون: المحيط البرهانی، ۲ / ۱۶۱۹

ابن امیر حجاج حلبی رحمہ اللہ (متوفی ۸۷۹ھ) ”حلبة المجلی شرح منیۃ المصلى“ میں غسل کی بحث میں لکھتے ہیں:

إِنَّهُ لَمْ يَقْفَ عَلَى الْمُحِيطِ الْبَرَهَانِ.

اسی طرح علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۰ھ) نے ”البحر البرائق“ میں محیط برہانی کے متعلق لکھا:

إِنَّهُ مَفْقُودٌ فِي دِيَارِنَا.

پھر اس کتاب کا حکم بیان کیا:

لَا يَجُوزُ إِلْفَتَاءُ مِنْهُ.

استینیا در میں علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ (۸۶۱ھ) کا یہ قول نقل کیا:

لَا يَحْلُّ النَّفْلُ مِنَ الْكِتَابِ الْغَرِيبَةِ. ①

چونکہ یہ کتاب پہلے مطبوع نہیں تھی اس لئے مذکورہ بالاحضرات نے اس کتاب سے فتویٰ دینے کو ناجائز قرار دیا، لیکن اب یہ کتاب طبع ہے اس لئے اس سے فتویٰ دینا درست ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) نے ”النافع الكبير“ میں اس کتاب کو غیر معتر کتابوں میں شمار کیا، اور اس کے متعلق لکھا:

لَا يَجُوزُ إِلْفَتَاءُ مِنْهُ لِكُونِهِ مَجْمُوعًا لِلرُّطْبِ وَالْيَابِسِ. ②

لیکن موصوف نے اپنی اس بات سے رجوع ان الفاظ میں کیا ہے:

فُوْضَحَ لِي أَنْ حَكْمَهُ بَعْدَ جُوازِ إِلْفَتَاءِ مِنْهُ لِي إِلَّا لِكُونِهِ مِنَ الْكِتَابِ الْغَرِيبَةِ الْمَفْقُودَةِ الْغَيْرِ الْمَتَدَاوِلَةِ، لَا لِأَمْرِ فِي نَفْسِهِ وَلَا لِأَمْرِ فِي مَوْلِفِهِ وَهُوَ أَمْرٌ يَخْتَلِفُ بِالْإِعْصَارِ وَيَتَبَدَّلُ بِتَبَدُّلِ الْأَقْطَارِ، فَكُمْ مِنْ كِتَابٍ

الفوائد البهية: ص ۲۳۸ ①

النافع الكبير لمن يطالع جامع الصغير: ص ۳۲ ②

يُصير مفقوداً في إقليم وهو موجود في إقليم آخر، وكم من كتاب يصير نادرة الوجود في عصر كثیر الوجود في عصر آخر، فالمحیط البرهانی لما كان مفقوداً في بلاده وإعصاره عده من الكتب التي لا يفتى منها لعدم تداولها..... فإنه لا شبهة في كونه معتمداً في نفسه قد اعتمد عليه من جاء

بعدة من أرباب الاعتماد وأفتوا بنقله. ①

ترجمہ: میرے لئے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس کتاب سے فتویٰ کے عدم جواز کی وجہ کتاب کا مفقود اور غیر متداول ہونا ہے، مصنف یا کتاب کی وجہ سے نہیں ہے (یعنی ایسا نہیں ہے کہ مصنف مجھوں ہو یا کتاب رطب و یابس کا مجموعہ ہو)۔ یہ ایسا معاملہ ہے جو زمانے اور شہروں کے بد لئے سے مختلف ہو جاتا ہے، (یعنی کسی زمانے اور شہر میں کوئی کتاب نادر ہوتی ہے، پھر آنے والے زمانے اور شہر میں وہ دستیاب ہو جاتی ہے) پس کتنی ہی کتابیں ہیں جو ایک شہر میں مفقود ہوتی ہیں اور دوسرے شہر میں موجود ہوتی ہیں، کتنی ہی کتابیں ہیں جو ایک شہر میں نادر الوجود ہوتی ہیں اور دوسرے شہر میں کثیر الوجود ہوتی ہیں، ”المحیط البرهانی“ جب شہروں اور زمانوں میں مفقود تھی تو اسے ان کتابوں میں شمار کیا گیا جس سے فتویٰ دینا جائز نہیں تھا، اس وجہ سے کہ کتاب متداول اور مشہور نہیں تھی، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کتاب قابل اعتماد ہے، بعد میں آنے والے معتبر علماء نے بھی اس کتاب پر اعتماد کیا ہے اور اس کی روشنی میں فتوے دیئے ہیں۔

نیز علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ نے جب خود یہ کتاب پڑھی تو اپنی سابقہ بات سے رجوع کرتے ہوئے اپنے تاثرات ”النافع الكبير“ کے حاشیہ میں ان الفاظ میں نقل کئے:

وقد وفقني الله بعد كتابة هذه الرسالة بمطالعة ”المحیط البرهانی“

فرأيته ليس جامعا للرطب واليابس، بل فيه مسائل منقحة، وتفاريع

مرصّصة، ثم تأكّلت في عبارة "فتح القدير" وعبارة ابن نجيم، فعلمت أن المنهي من الإفتاء منه ليس لكونه جامع للغث والسمين، بل لكونه مفقودا نادر الوجود في ذلك العصر، وهذا الأمر يختلف باختلاف الزمان. ①

ترجمة: اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رسالے "النافع الكبير" کے لکھنے کے بعد "المحيط البرهانی" کے مطالعہ کی تو فیق عطا فرمائی، تو میں نے دیکھا کہ وہ رطب و یابس کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تو تنقیح شدہ مسائل اور مضبوط تفريعات ہیں، پھر میں "فتح القدیر" اور ابن نجیم کی عبارات پر غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ "المحيط البرهانی" سے فتویٰ دینے کی ممانعت اس بناء پر نہیں تھی کہ وہ راجح اور مرجوح مسائل کا مجموعہ ہے، بلکہ ممانعت اس وجہ سے تھی کہ اس زمانہ میں یہ کتاب نایاب اور نادر تھی، اور یہ ایسی بات ہے جس میں زمانے کے اختلاف سے فرق آ جاتا ہے۔

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

وقد طالعتُ منه قدرًا يعتمد به، وإنَّه ذكر في جميع الأبواب (مسائل ظاهر البروایة) ثم (مسائل النوادر) ثم (النوازل والفتاوی) بترتيب جيد، فلا يمكن القول بأنه خلط بين الرطب واليابس، نعم توجد فيها روایات (النوادر) ولكنها ممتازة كل الامتياز عن (ظاهر الروایة) فيطبق عليها ما ذكرنا من أحكام (النوادر) دون أن يقع أى التباس أو اشتباہ، فينبغى أن يعدّ هذا الكتاب من أمهات الكتب المعتبرة. ②

ترجمة: میں نے اس کتاب کا معتمد بہ حصہ مطالعہ کیا ہے، اس کے مصنف نے تمام ابواب میں بہترین ترتیب کے ساتھ پہلے مسائل ظاهر الروایة کو ذکر کیا، پھر مسائل نوادر کو، پھر

نوازل اور فتاویٰ کو، لہذا یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے رطب و یابس کو باہم ملا دیا ہے۔ ہاں اس کتاب میں روایات نادرہ موجود ہیں لیکن وہ ظاہر الروایہ سے بالکل ممتاز اور جدا ہیں اس لئے ان پر نوادر کے وہ احکام جوہم ذکر کرچکے ہیں، ان کو بغیر کسی التباس اور اشتبہ میں پڑے ان پر منطبق کیا جاسکتا ہے، لہذا اب اس کتاب کوہم کتب معتبرہ میں سے ہی شمار کرنا چاہئے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ”المحيط البرهانی“ سے فتویٰ کے عدم جواز کی وجہ مصنف کا مجہول ہونا یا کتاب کا رطب و یابس پر مشتمل ہونا نہیں تھا، بلکہ پہلے یہ کتاب مفقود تھی اس لئے اس سے فتویٰ دینا درست نہیں تھا، اور اب الحمد للہ یہ کتاب منسخ اور محقق نسخہ کی صورت میں طبع ہے، لہذا اب سے فتویٰ اور حوالہ دینا جائز ہے، اور یہ مذہب کی معتبر کتابوں میں سے ہے۔ حفییہ کے ہاں محیط نام کی ایک اور کتاب بھی ہے، جو علامہ رضی الدین محمد بن محمد بن خرسی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۵ھ) کی ”المحيط الرضی“ ہے اس کو ”المحيط السرخسی“ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کتاب مطبوع نہیں ہے۔

لفظ محیط جب مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد ”المحيط البرهانی“ ہوتا ہے:
إِذَا أَطْلَقَ لِفْظَ الْمَحِيطِ فَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمَرَادَ بِهِ الْمَحِيطَ الْبَرَهَانِيَّ كَمَا
ذَكَرَهُ أَبْنُ أَمِيرِ حَاجِ الْحَلَبِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ.

حضرت مولانا نعیم اشرف نور احمد مظلہ نے نہایت تدقیق و جستجو کے ساتھ اس کتاب کے نسخوں کو تلاش کر کے بڑی عرق ریزی کے ساتھ اس پر تحقیق و تعلیق اور تحریک کا کام کیا ہے، اس کتاب کے شروع میں (۱۳۱) صفحات پر مشتمل نہایت علمی اور تحقیقی مقدمہ لکھا ہے، اس میں متون حفییہ، کتب فقہیہ کا تعارف، معتبر اور غیر معتبر کتب کی نشاندہی، مصنف کے احوال اور اس کتاب کا

تفصیلی تعارف ذکر کیا ہے۔ اس کے شروع میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ کی تقریظ ہے، یہ کتاب ”ادارة القرآن والعلوم الإسلامية“ سے پچیس (۲۵) جلدوں میں طبع ہے۔

۳۶..... ذخیرة الفتاوی

یہ امام برہان الدین محمود بن احمد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ (متوفی ۶۱۶ھ) کی تصنیف ہے، یہ فتاوی ”الذخیرۃ البرهانیۃ“ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مصنف نے پہلے ”المحيط البرهانی“ تصنیف کی، جس میں ظاہر الروایہ، نوادر اور فتاویٰ تینوں قسم کے مسائل جمع کئے، پھر خود اس کتاب کا اختصار ”ذخیرۃ الفتاوی“ کے نام سے کیا۔ یہ اصل اور اختصار دونوں علماء کے ہاں مقبول ہیں:

اختصرها من کتابہ المشہور (المحيط البرهانی) کلاہما مقبولان

عند العلماء۔ ①

علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

قد طالعت ”الذخیرۃ“ وهو مجموع نفیس معتبر۔ ②
ترجمہ: میں نے ”الذخیرۃ“ کا مطالعہ کیا، یہ نہایت مفید اور معتبر مسائل کا مجموعہ ہے۔

۳۷..... الفتاوی الظہیریۃ

یہ ظہیر الدین ابو بکر محمد بن احمد القاضی رحمہ اللہ (متوفی ۶۱۹ھ) کی تصنیف ہے، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۰ھ) فرماتے ہیں:

ذکر فیہا: أنه جمع كتابا من الواقعات والنوازل، مما يشتد الافتقار

① کشف الظنون: ج ۱ ص ۸۳۳

② الفوائد البهیۃ: ص ۲۰۶

إليه، وفوائد غير هذه۔ ①

ترجمہ: (مصنف نے) اس کتاب میں واقعات اور نوازل (یعنی اُن نئے پیش آمدہ مسائل کو جمع کیا ہے جن کی طرف احتیاج زیادہ ہوتی ہے اور ان کے علاوہ دیگر اہم فوائد کو۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ) نے اس فتاوی سے انتخاب کر کے ایک مجموعہ تیار کیا، اور اس کا نام رکھا ”المسائل البدریۃ المختبۃ من الفتاوی الظہیریۃ“، مصنف اپنے اس انتخاب کردہ مجموعہ کے متعلق فرماتے ہیں:

وهو كتاب مشتمل على مسائل من كتب المتقدمين، لا يستغنى عنها علماء المتأخرین. ②

ترجمہ: یہ کتاب متقدمین کے ان مسائل پر مشتمل ہے جن سے متأخرین علماء میں سے کوئی مستغنى نہیں ہو سکتا۔

علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) اس فتاوی کے متعلق فرماتے ہیں:

وقد طالعْتُ من تصانیفه ”الفتاوی الظہیریۃ“، فوجدتُه کتاباً معتبراً
متضمناً للفوائد الكثیرة. ③

ترجمہ: میں نے ان کی تصانیف میں ”الفتاوی الظہیریۃ“ کا مطالعہ کیا، میں نے اسے معتبر کتاب پایا ہے، اور یہ بہت سے فوائد پر مشتمل ہے۔

مصنف کی تصانیف میں ایک ”الفوائد الظہیریۃ“ ہے، جو علامہ صدر الشہید رحمہ

اللہ کی ”شرح الجامع الصغیر“ سے ماخوذ ہے۔ ④

❶ کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۲۲۶

❷ کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۲۲۶

❸ الفوائد البھیۃ: ترجمہ: محمد بن احمد بن عمر، ص ۲۵۸

❹ هدیۃ العارفین: ج ۲ ص ۱۱۱

٣٨.....القنية

یہ مختار بن محمد بن محمد بن حمّم الدین زاہدی رحمہ اللہ (متوفی ۶۵۸ھ) کی تصنیف ہے، یہ عقائد میں معززی اور فروع میں حصی تھے، علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) غیر معتبر کتابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و منها: أن يكون مؤلفه قد جمع فيه الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب الغير المعتبرة، وإن كان في نفسه فقيها جليلا كالقنية فإن

مؤلفه مختار بن محمد بن محمد أبو رجاء الزاهدی. ①

ترجمہ: (غیر معتبر کتابوں میں سے وہ کتابیں بھی ہیں) جن کے مصنفوں غیر معتبر کتابوں سے ضعیف روایات اور شاذ مسائل کو جمع کرتے ہیں، اگرچہ وہ بذاتِ خود بڑے فقیہ ہیں، جیسے ”القنية“ کے مصنف مختار بن محمد بن محمد ابو الرجاء زاہدی ہیں۔

علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے جن کتابوں سے فتاوی دینا جائز نہیں ہے، ان میں امام زاہدی رحمہ اللہ کی ”القنية“ کا بھی ذکر کیا ہے:

لَا يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ مِنْ الْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ كَالنَّهْرِ وَشَرِحِ الْكَنْزِ لِلْعَيْنِيِّ وَالدُّرِّ
الْمُخْتَارِ شَرِحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ، أَوْ لِعَدَمِ الْإِطْلَاعِ عَلَى حَالِ مُؤْلِفِيهَا كَشَرِحِ الْكَنْزِ
لِمُنْلَا مِسْكِينِ وَشَرِحِ النُّقَايَةِ لِلْقَهْسُتَانِيِّ، أَوْ لِنَقْلِ الْأَقْوَالِ الْضَّعِيفَةِ فِيهَا كَالْقُنْيَةِ
لِلْزَّاهِدِيِّ، فَلَا يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ مِنْ هَذِهِ إِلَّا إِذَا عَلِمَ الْمَنْقُولَ عَنْهُ وَأَخْذَهُ مِنْهُ. ②

ترجمہ: کتب مختصرہ سے فتاوی دینا جائز نہیں ہے، جیسے ”النهر الفائق“ علامہ عینی کی کنز کی شرح ”رمز الحقائق“ اور ”الدر المختار شرح تنویر الأبصار“ یا (جن کتابوں کے) مصنفوں کے احوال معلوم نہیں ہیں، جیسے ملمسکین کی کنز کی شرح ”فتح المعین“ اور قہستانی کی نقایہ کی شرح ”جامع الرموز“ یا (جن کتابوں) میں ضعیف

① رد المحتار: مقدمة، ج ۱ ص ۷۰

② النافع الكبير: ص ۳۰

اقوال موجود ہیں، جیسے علامہ زاہدی کی ”القنية“، ان سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک ان کا منقول عنہ یا مأخذ کا علم نہ ہو۔

حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۶۰ھ) مولیٰ برکتی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

وقد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم، لكنها مشهورة عند العلماء بضعف الرواية، وأن صاحبها معترضٌ.

ترجمہ: بعض علماء نے ”القنية“ سے مسائل اپنی کتابوں میں نقل کئے ہیں، لیکن یہ کتاب اہل علم کے درمیان ضعفِ روایت میں مشہور ہے، اور اس کا مصنف معترض ہے۔ علامہ طحطاوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۱ھ) لکھتے ہیں کہ ”القنية“ پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، یہ غیر معترض کتابوں میں سے ہے:

إن هذا لا يعوّل عليه لأن القنية ليست من الكتب المعتبرة.

٣٩ الحاوی للزراہدی

یہ مختار بن محمد بن محمد ابو رجاء زاہدی رحمہ اللہ (متوفی ۶۵۸ھ) کی تصنیف ہے، مصنف عقائد میں معترض میں حضی تھے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) مصنف اور اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

وَالْحَاوِي لِلزَّاهِدِيِّ مَشْهُورٌ بِنَقْلِ الرِّوَايَاتِ الْضَّعِيفَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ أَبْنُ وَهْبَانَ وَغَيْرُهُ إِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِمَا يَقُولُهُ الزَّاهِدِيُّ مُخَالِفًا لِغَيْرِهِ.

ترجمہ: امام زاہدی کی کتاب ”الحاوی“، ضعیف روایات کے نقل کرنے میں مشہور ہے، اسی وجہ سے امام ابن وہبان اور دیگر علماء نے فرمایا کہ زاہدی کا قول جب دیگر اہل علم

❶ کشف الظیون: ج ۲ ص ۱۳۵

❷ حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار: اواخر باب ما يفسد الصوم، ج ۱ ص ۲۶۰

❸ العقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدية: كتاب الإيجار، ج ۲ ص ۱۲۷

کے قول کے مخالف ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ اس کتاب میں ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

ذَكَرَ أَبْنُ وَهْبَانَ أَنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ يَعْنِي الزَّاهِدِيَّ
مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ مَا لَمْ يُعَضِّدُهُ نَقْلٌ مِنْ غَيْرِهِ. ①

ترجمہ: امام ابن وہبان نے یہ بات ذکر کی ہے کہ صاحب "القنیۃ" یعنی امام زاہدی کے نقل کردہ (قول اور مسئلے) کی طرف جبکہ وہ قواعد کے مخالف ہو تو اس کی طرف التفات بھی نہیں کریں گے، جب تک کہ دیگر (اہل علم) سے اس کی تائید نہ ہو۔

٥..... المحتبی شرح مختصر القدوری

یہ مختار بن محمود بن محمد ابو رجاء زاہدی رحمہ اللہ (متوفی ۲۵۸ھ) کی تصنیف ہے، یہ کتاب "مختصر القدوری" کی شرح ہے، یہ بات گزر چکی ہے کہ مصنف غیر مستند روایات، ضعیف اقوال اور رطب و یا بس جمع کرتے ہیں، اس لئے جب تک دیگر اہل علم اور کتب فقہیہ سے اس کی موافقت نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، ان کی تصنیف غیر معتری ہیں، علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) لکھتے ہیں:

صَرَحَ أَبْنُ وَهْبَانُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ مُعْتَزِلِ الاعْتِقَادِ حَنْفِيُّ الْفَرْوَعِ، وَتَصَانِيفُهُ
غَيْرُ مُعْتَبِرَةٍ مَا لَمْ يُوجَدْ مُطَابِقَتُهَا لِكُونِهَا جَامِعَةً لِلرَّطْبِ وَالْيَابِسِ. ②

ترجمہ: ابن وہبان اور دیگر اہل علم نے صراحت کی ہے کہ (امام زاہدی) عقائد میں معتزلی اور فروع میں خنثی تھے، ان کی تصنیف غیر معتری ہیں، جب تک کہ (دیگر معتری کتابوں سے) اس کی مطابقت نہ ہو، اس لئے کہ یہ رطب و یا بس جمع کرنے والے ہیں۔

❶ العقود الدرية في تنقیح الفتاوى الحامدية: مسائل وفوائد شتى من الحظر

والإباحة، ج ۲ ص ۳۲۲

❷ الفوائد البهية: ترجمة: مختار بن محمود بن محمد، ص ۳۲۹

۱۵..... تحفة الملوك


یہ امام زین الدین محمد بن ابی بکر بن عبد القادر رازی رحمہ اللہ (متوفی ۶۶۶ھ) کی تصنیف ہے، ان کی تصانیف میں معروف کتاب ”أنموذج جلیل فی أسئلة وأجوبة من غرائب آی التنزيل“ ہے۔ موصوف نے فقہی ابواب کی ترتیب پر نہایت سہل انداز میں فضول کے تحت صرف مسائل ذکر کئے ہیں، اس میں فقہاء کے مابین اختلاف و دلائل کا ذکر نہیں ہے، (۲۸۳) صفحات پر مشتمل اس کتاب میں کل (۴۹۰) مسائل ہیں۔ کتاب اس قدر دلچسپ ہے کہ ایک ہی مجلس میں پڑھنے کو دل چاہتا ہے، دکتور عبد اللہ نذری راحمد کی تحقیق کے ساتھ ایک جلد میں ”دار البشائر الإسلامية“ سے ۱۴۲۷ھ میں شائع ہوئی ہے۔

اس کتاب کی شرح علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ) نے ”منحة السلوک فی شرح تحفة الملوك“ کے نام سے لکھی، یہ شرح احمد عبد الرزاق کبیسی کی تحقیق کے ساتھ ”وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية“ قطر سے ۱۴۲۸ھ میں شائع ہوئی ہے۔

۱۶..... الفتاوى الصوفية

علامہ فضل اللہ بن محمد بن ایوب رحمہ اللہ (متوفی ۶۶۶ھ) نے اس فتاوی کو تریسٹھ (۱۶۵) ابواب اور ایک سو پینتھ (۱۶۵) فضول پر مرتب کیا، اس فتاوی میں موضوع اور غیر مستند روایات کثرت کے ساتھ ہیں، محققین علماء کے ہاں اس کتاب سے فتوی دینا درست نہیں ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) مصنف کے ترجمہ میں نقل کرتے ہیں:

”الفتاوى الصوفية“ من الكتب الغير المعتبرة فلا يجوز الاعتماد



علیٰ فیہا إلٰا إِذَا عَلِمَ موافقتہ للأصول۔ ①

ترجمہ: ”الفتاویٰ الصوفیة“ غیر معتبر کتابوں میں سے ہے، لہذا اس پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ اس کی موافقت کتب اصول میں سے کسی سے نہ ہو۔
علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ غیر معتبر کتابوں کے تذکرے میں اس فتاویٰ کا ذکر کیا ہے، اس سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، دیکھئے تفصیلاً: ②

۵۳..... المختار للفتوی

یہ متن علامہ مجدد الدین موصیٰ رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۳ھ) کا ہے، مصنف نے خود اس متن کی شرح لکھی، اس کا نام ”الاختیار لتعلیل المختار“ ہے، اس شرح کے مقدمہ میں مصنف نے تصریح کی کہ اہل علم اور طلبہ کی فرمائش پر میں نے اس کتاب کی شرح لکھی، علامہ عبدالجعف لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) کتاب اور اس کی شرح کے متعلق فرماتے ہیں:

وقد طالعتُ المختار والاختیار، وهمَا کتابان معتبران عند الفقهاء۔ ③
ترجمہ: میں نے ”المختار“ اور ”الاختیار“ کا مطالعہ کیا، یہ دونوں فقهاء کے ہاں معتبر کتابیں ہیں۔

یہ شرح شیخ محمد محی الدین عبدالحمید رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ ”مکتبہ حلیہ“، قاہرہ سے ۱۳۷۲ھ میں طبع ہوئی، پھر یہ شرح ”مکتبہ صحیح“ سے ۱۳۸۰ھ میں پانچ (۵) جلدوں میں طبع ہوئی۔ ④

① الفوائد البهیۃ: ترجمہ: فضل اللہ بن محمد، ص ۲۵۰

② النافع الكبير: ص ۳۳

③ الفوائد البهیۃ: ترجمہ: عبد اللہ بن محمود مجدد الدین الموصیٰ، ص ۱۸۰

٥٣..... الباب في الجمع بين السنة والكتاب

یہ علامہ جمال الدین خزر جی منجھی رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۶ھ) کی تصنیف ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن و سنت سے دلائل نہیں ہیں، یہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، موصوف نے مشہور اختلافی مسائل میں قرآن و سنت سے دلائل نقل کئے ہیں۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے مسئلہ نقل کرتے ہیں پھر اس پر پہلے قرآن سے پھر باحوالہ احادیث سے روایات نقل کرتے ہیں، اس میں مرفوع، موقوف اور مقطوع روایات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ جن روایات یا روات پر نقد و جرح ہوتے اس کے جوابات بھی نقل کرتے ہیں، اگر امام صاحب سے متعدد اقوال نقل ہوں تو ہر قول کے دلائل الگ الگ ذکر کرتے ہیں، نبیذ تمراور میں ذکر کے مسئلے میں ذکر کردہ دلائل، وجہ ترجیحات قابل دید ہیں، یہ کتاب ان لوگوں کے لئے دندان شکن جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس احادیث نہیں ہیں۔ مصنف نے ہر مسئلے میں اس قدر روایات و آثار ذکر کئے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس کتاب کے مطالعے سے علم حدیث میں آپ کا مقام، وسعت مطالعہ اور رجال سے عمیق واقفیت کا اندازہ ہوتا ہے، اہل علم کے لئے اس کا مطالعہ نہایت مفید ہے، اگر اس کتاب کا اردو میں ترجمہ تعلیق و تخریج سے کیا جائے تو یہ ایک مفید کاؤش ہوگی۔ نیز اس میں ذکر کردہ دلائل کو ہدایہ کے ساتھ اگر حاشیہ میں شائع کیا جائے تو دُگنا فائدہ ہوگا۔ یہ کتاب محمد فضل عبدالعزیز مراد کی تحقیق کے ساتھ دو جلدیں میں ۱۳۱۲ھ میں ”دار العلم“ دمشق سے شائع ہوئی ہے۔

٥٤..... مجمع البحرين

یہ علامہ ابن ساعاتی رحمہ اللہ (متوفی ۶۹۳ھ) کا مشہور متن ہے، اس میں آپ نے

قدوری اور ”منظومة الخلافیات“ کے مسائل کو جمع کیا ہے، اس لئے نام ”مجمع البحرين“ رکھا، ”منظومة الخلافیات“ صاحب عقائدنسفیہ علامہ نجم الدین عمر بن محمد نسفی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۳ھ) کی کتاب ہے، اس منظومہ کی مفصل شرح صاحب کنز علامہ نسفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷ھ) نے ”المستصفی“ کے نام سے لکھی، پھر اس کا اختصار ”المصفی“ کے نام سے کیا۔ ”مجمع البحرين“ میں چونکہ قدوری کے سب مسائل آگئے ہیں اس لئے متاخرین حنفیہ نے متونِ اربعہ (کنز، وقاریہ، مختار، مجمع البحرين) میں قدوری کے بجائے مجمع کو شامل کیا ہے۔

مصنف رحمہ اللہ نے ”قدوری“ کو بنیاد بنا کر یہ متن لکھا، اس متن سے مصنف ۶۹۰ھ میں فارغ ہوئے، پھر خود اس کی شرح دو جلدوں میں لکھی۔ انہوں نے ایک کتاب اصول فقہ میں لکھی ”بدیع النظام الجامع بین کتابی البزدوى والإحکام“ اس کتاب میں انہوں نے علامہ فخر الاسلام بزدوى رحمہ اللہ (متوفی ۲۸۲ھ) کی ”أصول البزدوى“ اور علامہ آمدی رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۳ھ) کی ”الإحکام فی أصول الأحكام“ کے مباحث کو فصلوں کی ترتیب پر جمع کیا ہے۔ ان دونوں کتابوں کے متعلق علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) فرماتے ہیں:

قد طالعتُ البدیع والمجمع وهمَا کتابان فی غایۃ اللطف واللطافة. ①
 مصنف رحمہ اللہ کی اس شرح کا مخطوطہ ”دار الكتب العربية“ رقم (۲۸۳) کے تحت محفوظ ہے۔ اب اس مخطوطے کے عبادات کے حصے پر دکتور صالح بن عبد اللہ حیدان نے تحقیق و تعلیق کر کے جامع امام محمد بن سعود اسلامیہ سے ۱۴۱۵ھ میں دکторہ کیا ہے۔ معاملات کے حصے پر شیخ خالد بن عبد اللہ نے تحقیق و تعلیق کر کے اسی جامعہ امام محمد بن سعود سے ۱۴۱۷ھ میں دکторہ کیا ہے۔

علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ) نے بھی اس کتاب کی شرح "المجتمع فی شرح المجمع" کے نام سے لکھی، یہ کتاب پہلے مطبوع نہیں تھی، اب اس کتاب کے عبادات کے حصے پر شیخ محمد بن حسین عبیری رحمہ اللہ نے اور معاملات کے حصے پر شیخ محمد بن عبد اللہ بن محمد بشر نے تحقیق و تعلیق کر کے جامعہ امام محمد بن سعود اسلامیہ سے ۱۴۲۶ھ میں دکتورہ کی ڈگری حاصل کی ہے۔

۵ منیۃ المصلى

یہ علامہ سدید الدین کاشغری رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۵ھ) کی تصنیف ہے، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۰ھ) فرماتے ہیں:

وهو كتاب معروف متداول بين الحنفية. ①

ترجمہ: یہ کتاب حنفیہ کے درمیان مشہور اور متداول ہے۔

مصنف نے متقدمین کی کتب سے صرف ان مسائل کا انتخاب کیا ہے جن کا تعلق طہارت اور نماز سے ہے اور وہ کثیر الوقوع ہیں۔ مصنف کو جو بھی مسئلہ ملا انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا، اس وجہ سے یہ کتاب حسن ترتیب کے وصف سے عاری ہے۔

حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کی متعدد شروحات کا تذکرہ کیا ہے، اس کتاب کی معروف شروحات دو ہیں:

۱..... "حلبة المجلی شرح منیۃ المصلى" علامہ ابن امیر الحاج رحمہ اللہ (متوفی ۸۷۹ھ)

۲..... اس کتاب کی دوسری شرح علامہ ابراہیم بن محمد حلبی رحمہ اللہ (متوفی ۹۵۶ھ) کی "غنية المستملی شرح منیۃ المصلى" ہے، جو "الحلبی الکبیری" کے نام سے مشہور ہے۔
.....



۷۵..... کنز الدقائق

یہ متن علامہ ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد نسگی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷۵ھ) کا ہے۔ مصنف کی تصانیف میں تفسیر میں ”مدارک التنزیل المعروف تفسیر المدارک“، اصول فقہ میں ”منار الأنوار“، (اس کی شرح ملا جیون رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۰ھ) نے ”نور الأنوار“ کے نام سے لکھی) فقہ میں ”کنز الدقائق“ ہے۔ یہ متن اپنی جامعیت، ترتیب و تہذیب اور حسن اختصار کی وجہ سے یوم تصنیف سے لے کر اب تک اہل علم کے درمیان معروف ہے۔

یہ متن مکتبہ مجیدی کانپور سے ۱۳۴۰ھ میں طبع ہوا، پھر یہ متن ہندوستان میں علامہ محمد حسن نانوتوی رحمہ اللہ کے حواشی کے ساتھ ۱۳۴۸ھ میں طبع ہوا۔

”کنز الدقائق“ کی سات شروحات

کئی اہل علم نے اس کتاب پر حواشی اور شروحات لکھیں، چند شروحات درج ذیل ہیں:
۱..... ”تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق“ علامہ فخر الدین عثمان بن علی زیلیعی
رحمہ اللہ (متوفی ۷۳۳ھ)

۲..... ”الفتح المعین علی شرح الکنز لملا مسکین“، معین الدین محمد بن عبد
اللہ المعروف ملا مسکین رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۸۰ھ)

۳..... ”رمز الحقائق فی شرح کنز الدقائق“، شرح علامہ بدر الدین عینی
رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۵۵ھ)

۴..... ”البحر الرائق شرح کنز الدقائق“، علامہ زین الدین بن ابراہیم المعروف
ابن نجیم رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷۹ھ) ان چاروں شروحات کا تعارف ان شاء اللہ آگے آرہا ہے۔


۵..... ”**كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق**“ علامہ عبدالحکیم افغانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۶ھ) یہ مکتبہ موسوعات مصر سے ۱۳۲۲ھ میں دو (۲) جلدیں میں طبع ہے۔ کراچی میں ”**ادارة القرآن**“ سے تین (۳) جلدیں میں طبع ہے۔

۶..... ”**مختلص الحقائق في شرح كنز الدقائق**“ مولانا ولی محمد قندھاری ”**مکتبہ رسیدیہ**“ کوئٹہ سے ایک جلد میں طبع ہے۔ کے..... ”**توفيق الرحمن بشرح كنز دقائق البيان**“ شیخ مصطفیٰ بن محمد بن یونس طائی یہ شرح ”**مکتبہ ازہریہ**“ مصر سے ۱۳۰۸ھ میں طبع ہے۔

۵۸..... المستصفی في شرح المنظومة
یہ امام عبد اللہ بن احمد بن محمود المعروف ابو البرکات نسفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷۷ھ) کی تصنیف ہے، یہ کتاب امام ابو حفص عمر بن محمد بن احمد نسفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۳۷ھ) کی ”**منظومة النسفی**“ کی شرح ہے، اس منظومہ میں دو ہزار چھ سو انہتر (۲۶۶۹) اشعار ہیں، یہ مصنف کی مفصل شرح ہے، اس کا اختصار ”**المصفی**“ شرح المنظومة ” ہے۔ (مصنف کی تصنیف میں ”**كتاب الوافي**“ اور اس کی شرح ”**الكافی**“ اور فقه میں دقيق متن ”**كنز الدقائق**“ اصول فقہ میں ”**المنار**“ اور تفسیر میں ”**مدارک التنزيل وحقائق التأویل**“ ہے۔)

علامہ عبدال قادر قرقشی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۷۵ھ) ان کے متعلق فرماتے ہیں ”**أحد الزهاد المتأخرین، صاحب التصانیف المفيدة**“ علامہ عبدالحکیم لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) امام نسفی رحمہ اللہ کی تصنیف کے متعلق فرماتے ہیں:

قد انتفعت من تصانیفه ”**الواfi**“ و ”**الكافی**“ و ”**المستصفی**“.....



وکل تصانیفہ نافعہ معتبرہ عند الفقهاء۔

ترجمہ: میں نے ان کی تصانیف میں ”الوافی“، ”الکافی“ اور ”المستصفی“ سے مستفید ہوا ہوں، ان کی تمام تصانیف فقهاء کے ہاں معتبر ہیں۔ ①

٩ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق

علامہ فخر الدین عثمان بن علی زیلیعی رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۴ھ) نے اس شرح میں کتاب کو حل کیا ہے، غریب الفاظ کی وضاحت، صورتِ مسئلہ، مسئلہ کی توضیح، ائمہ احناف کی تشریحات، ائمہ مذہب اور ائمہ ثلاثہ کے مذاہب، قرآن و سنت، اجماع اور قیاس سے مستحکم دلائل، دلائل میں احادیث اور آثار کا کثرت سے تذکرہ، حدیث پر صحت و ضعف کا حکم، روایت پر جرم و تعدیل اگفتگو، راجح قول کی نشاندہی، مسائل سے متعلق دیگر تفریعات کا ذکر، اس شرح کی اہم خصوصیت دلائل میں احادیث و آثار کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔

یہ شرح ”مکتبۃ الکبریٰ الامیریۃ“ سے ۱۳۱۳ھ میں چھ جلدیوں میں طبع ہے۔ اس شرح پر علامہ شہاب الدین احمد بن محمد شبیل رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۲۱ھ) نے نہایت مفید حاشیہ لکھا ہے، جو اصل کتاب کے ساتھ طبع ہے۔

١٠ خزانۃ المفتین فی الفروع

یہ امام حسین بن محمد سمنقانی رحمہ اللہ (متوفی ۳۶۷ھ) کی تصنیف ہے، ان کی ایک تصنیف ”الشافی فی شرح الوافی“ ہے، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ ”خزانۃ المفتین“ کے متعلق لکھتے ہیں:

أنه صنفه بإشارة حکیم الدین محمد بن علی الناموسنی. فأورد ما هو

① الجوادر المضية: ج ۱ ص ۲۷۰ / الدر الكامنة: ج ۳ ص ۱۱ / كشف الظنون: ج ۲

ص ۱۸۶ / الفوائد البهية: ص ۱۰۲

مروى عن المتقدمين، ومحظى عند المتأخرین، وطوى ذكر الاختلاف، واكتفى بالعلامات من الهدایة والنهاية، وقاضی خان، والخلاصة، والظہریة، وشرح الطحاوی، وغير ذلك من المعتبرات. وفرغ فی محرم، سنة

٢٠٧، أربعين وسبعيناً. ①

ترجمہ: یہ کتاب حکیم الدین محمد بن علی ناموسی کے اشارے پر لکھی گئی، اس میں وہ مسائل نقل کئے ہیں جو متقدمین سے مردی ہیں اور متأخرین کے ہاں پسندیدہ (راجح) ہیں، اس میں اختلافی مسائل ذکر نہیں کئے، اس میں ”فتاوی قاضی خان، خلاصۃ الفتاوی، فتاوی الظہریۃ، شرح الطحاوی“ اور دیگر معتبر کتابوں سے صرف معاملات سے متعلق مسائل ذکر کئے ہیں، مصنف اس کتاب کی تصنیف سے محرم ٢٠٧ھ میں فارغ ہوئے۔

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) ”خزانۃ المفتیین“ اور ”الفتاوی الظہریۃ“ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں معتبر ہیں:

رجوع الإمام إلى هذه الرواية عن خزانۃ المفتیین، والفتاوی الظہریۃ
وهما من المعتبرات. ②

٦..... شرح الوقاية

یہ متن علامہ تاج الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ احمد بن عبید اللہ رحمہ اللہ کا ہے، یہ متن قدوری اور بدایہ کوسا منے رکھ کر لکھا گیا ہے، مصنف رحمہ اللہ نے یہ متن اپنے پوتے علامہ صدر الشریعہ اصغر عبید اللہ بن مسعود رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۲۷ھ) کے حفظ کے لئے لکھا، پھر

① کشف الظنون: ج ۱ ص ۳۰۷

② فیض الباری: کتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضائلها، ج ۲ ص ۱۲۸

علامہ عبد اللہ بن مسعود جن کے لئے یہ متن لکھا گیا تھا انہوں نے اس متن کی شرح لکھی، جسے ”شرح الوقایۃ“ کہا جاتا ہے، آپ نے اختصار کر کے ایک متن ”النقایۃ“ کے نام سے لکھا، اس متن کی شرح ملک علی قاری رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۰۲ھ) نے ”فتح باب العناية بشرح النقایۃ“ کے نام سے تین جلدوں میں لکھی، یہ شرح شیخ عبدالفتاح ابو عدہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۰۷ھ) کے حواشی و تعلیقات کے ساتھ ”مطبوعات الإسلامية“، حلب سے طبع ہے۔ اس شرح میں احادیث و آثار کا افر مقدار میں ذخیرہ موجود ہے، یہ ان لوگوں کے لئے دندانِ شکن جواب ہے جو کہتے ہیں احناف کے پاس احادیث و آثار نہیں ہیں۔

”شرح الوقایۃ“ کی سب سے عمدہ، جامع اور مدلل شرح علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۰۳ھ) کی ”السعایۃ فی کشف ما فی شرح الوقایۃ“ ہے، یہ شرح ”مکتبہ سہیل اکیڈمی“ لاہور سے طبع ہے۔ (اس شرح کا تعارف ان شاء اللہ آگے آرہا ہے۔)

”شرح الوقایۃ“ پر لکھے گئے بارہ حواشی
 متعدد علمائے احناف نے اس کتاب کی جامعیت و نافعیت کی وجہ سے اس پر حواشی لکھے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:
 ۱.....علامہ سلیمان بن علی قرمانی رحمہ اللہ (متوفی ۸۱۶ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح الوقایۃ“، لکھا۔

۲.....علامہ سید شریف جرجانی رحمہ اللہ (متوفی ۸۱۶ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح الوقایۃ“، لکھا۔

۳.....علامہ احمد بن موسیٰ خیال رحمہ اللہ (متوفی ۸۷۰ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح الوقایۃ“، لکھا۔

- ۳.....علامہ حسن چلپی رحمہ اللہ (متوفی ۸۸۶ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح الوقایۃ“، لکھا۔
- ۴.....علامہ محی الدین بن تاج الدین المعروف ابن الخطیب رحمہ اللہ (متوفی ۹۰۱ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح الوقایۃ“، لکھا۔
- ۵.....علامہ احمد بن مسیحی بن محمد رحمہ اللہ (متوفی ۹۱۶ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح الوقایۃ“، لکھا۔
- ۶.....علامہ شیخ زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۹۵۵ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح الوقایۃ“، لکھا۔
- ۷.....علامہ ابراهیم بن عبد اللہ جمیدی رحمہ اللہ (متوفی ۷۳۷ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح الوقایۃ“، لکھا۔
- ۸.....علامہ احمد بن محمد المعروف امام زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۷ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح الوقایۃ“، لکھا۔
- ۹.....علامہ احمد بن مسیحی رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۷ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح الوقایۃ“، لکھا۔
- ۱۰.....ملا علی قاری رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۱۲ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح الوقایۃ“، لکھا۔
- ۱۱.....علامہ نور الدین احمد آبادی رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۵۵ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح الوقایۃ“، لکھا۔
- ۱۲.....علامہ عبدالجعیل کھنواری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) نے ”عمدة الرعایة“، کے نام سے حاشیہ لکھا، رقم کی معلومات کے مطابق صرف یہ آخری حاشیہ طبع ہے۔ ①

۱۳..... معراج الدرایہ إلی شرح الہدایہ

یہ امام قوام الدین محمد بن محمد بخاری الکا کی رحمہ اللہ (متوفی ۷۳۹ھ) کی تصنیف ہے،

① ہدیۃ العارفین: ج ۱ ص ۲۸، ج ۱ ص ۱۳۳، ج ۱ ص ۱۳۸، ج ۱ ص ۱۲۷، ج ۱

ص ۷۳، ج ۱ ص ۲۸۸، ج ۱ ص ۳۰۲، ج ۱ ص ۷۲۸

جو ”الهداية“ کی شرح ہے، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۸ھ) اس شرح کے متعلق لکھتے ہیں:

أنه أراد بعد فقدان كتبه، أن يجمع الفرائد من فوائد المشايخ والشارحين، ليكون ذلك المجموع كالشرح. وبين فيه أقوال الأئمة الأربع من الصحيح والأصح والختار والجديد والقديم، ووجه تمسكهم. ①

❶ كشف الظنون: ج ۲ ص ۲۰۲۲

ترجمہ: مصنف نے کتابوں کے گم ہو جانے کے بعد ارادہ کیا کہ وہ مشائخ اور شارحین کے فوائد میں سے نکات کو جمع کریں تاکہ یہ مجموع بمنزلہ شرح کے ہو جائے، اور انہے اربعہ کے اقوال میں سے صحیح، اصح، مختار اور جدید و قدیم قول کو بیان کریں اور ان کا طرزِ استدلال بھی بیان کریں۔

”البحر الرائق“ اور ”رد المحتار“ میں اس شرح کے حوالے سے بہت سے مسائل و فوائد کا ذکر ہے، یہ شرح غیر مطبوعہ ہے۔

٦٣ أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل

علامہ محمد الدین ابراہیم بن علی بغدادی المعروف علامہ طرطوسی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۸ھ) آٹھویں صدی کے مشہور حنفی عالم ہیں، کل عمر ۳۸ سال تھی، آپ کی یہ تصنیف ”فتاوی طرطوسیہ“ کے نام سے معروف ہے۔ ”البحر الرائق، النهر الفائق، رد المحتار“ میں جا بجا اس کے حوالے ملتے ہیں۔ رقم کی معلومات کے مطابق یہ کتاب اب تک طبع نہیں ہوئی۔

٦٤ غایة البيان ونادرة الأقران

یہ امیر کاتب عمید بن امیر غازی التقانی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۸ھ) کی تصنیف ہے، یہ کتاب ”الهداية“ کی شرح ہے، مصنف لغت، عربیت اور فقہ میں نمایاں مقام رکھتے تھے،

لیکن خود پسندی میں بمتلا تھے، مذہب میں نہایت متعصب تھے، اپنے مخالفین کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے تھے، بعض مسائل میں نہایت مشدد تھے، جیسے رفع یہ دین کرنے پر فسادِ صلوٰۃ کا حکم دیتے تھے، علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) فرماتے ہیں:

وَكَانَ رَأْسًا فِي الْحُنْفِيَّةِ بارعاً فِي الْفَقْهِ وَاللُّغَةِ وَالْعَرَبِيَّةِ كَثِيرٌ إِلَيْهِ الْإِعْجَابِ
بِنَفْسِهِ، شَدِيدُ التَّعَصُّبِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ، يَدْلِيلُ عَلَيْهِ كَلْمَاتُهُ الْوَاقِعَةُ فِي
تَصَانِيفِهِ كَشْرَحِ الْمُنْتَخَبِ الْحَسَامِيِّ وَسَمَاهُ "الْتَّبَيِّنَ" وَشَرْحُ الْهَدَايَةِ
وَسَمَاهُ "غَایةُ الْبَیانِ وَنَادِرَةُ الْأَقْرَانِ"..... قَدْ طَالَعْتُ مِنْ تَصَانِيفِهِ "الْتَّبَيِّنَ"
وَ"غَایةُ الْبَیانِ" فَوْجَدْتُهُ كَمَا قَالَ الْكَفُوْیُ شَدِيدُ التَّعَصُّبِ فِي مَذَهْبِهِ سَلِیْطُ
اللُّسَانِ عَلَى مَخَالِفِهِ. ①

ترجمہ: حنفیہ کے سردار تھے، فقہ، لغت اور عربیت میں ماهر تھے، بہت زیادہ خود پسندی میں بمتلا تھے، اپنے مخالفین کے خلاف نہایت متعصب تھے، اس پر ان کے وہ کلمات دلالت کرتے ہیں جو ان کی تصانیف میں ہیں، جیسے ”منتخب الحسامی“ کی شرح ”التَّبَيِّنَ“ میں اور ہدایہ کی شرح ”غایةُ الْبَیانِ وَنَادِرَةُ الْأَقْرَانِ“ میں۔ میں نے ان کی تصانیف میں سے ”التَّبَيِّنَ“ اور ”غایةُ الْبَیانِ“ کا مطالعہ کیا، میں نے اس کو اسی طرح پایا جس طرح کے علامہ کفوی نے فرمایا تھا کہ مذہب حنفیہ میں نہایت متعصب تھا اور اپنے مخالفین کے خلاف جارحانہ زبان استعمال کرتے تھے۔

علامہ اتقانی کی تصانیف میں ایک ”التَّبَيِّنَ“ ہے جو ”منتخب الحسامی“ کی شرح ہے، ان کی ایک تصانیف ”الشامل فی شرح أصول البزدوى“ ہے، جو دو جلدوں میں ہے، یہ ”أصول البزدوى“ کی نہایت مفصل شرح ہے، اس میں متقد میں کی نصوص

① الفوائد البهية: ترجمة: أمير كاتب العميد بن أمير الغازى، ص ۸۷، ۸۸

ذکر کر کے جس پر مناقشہ کی ضرورت تھی اس پر مناقشہ بھی کیا ہے، یہ ”البحر المحيط للزرکشی“ سے زیادہ مفید ہے، اس لئے کہ اس میں صرف نصوص کا ذکر ہے۔

۶۵ نصب الراية لأحاديث الهدایة

علامہ جمال الدین ابو محمد عبد اللہ بن یوسف زیعی رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۷ھ) کی تصانیف میں دو کتابیں معروف ہیں:

ا.....نصب الراية ۲ تخریج أحادیث الكشاف

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۲ھ) نے ان دو کتابوں کی تلخیص کی ہے ”نصب الراية“ کی ”الدرایۃ فی تخریج أحادیث الهدایۃ“ کے نام سے اور ”تخریج أحادیث الكشاف“ کی ”الكاف الشاف فی تحریر أحادیث الكشاف“ کے نام سے۔ علامہ زیعی رحمہ اللہ اپنے دور کے ایک عظیم نقاد محدث تھے، مزاج میں اعتدال تھا، آپ نے ہدایہ میں موجود احادیث و آثار کی تخریج کی، یہ احادیث احکام کا ایک عظیم ذخیرہ ہے، اس میں روایت کی سند، طرق اور علل پر بحث، متابع اور شواہد کا ذکر، روایات پر جرح و تعدیلاً گفتگو، احادیث و روایات پر ائمہ محدثین کی آراء، غیر مستند روایات کی نشاندہی، فقہ الحدیث اور فوائد کا تذکرہ، اگر روایت بالمعنى ہو تو اصل الفاظ کی نشاندہی، ارسال، انقطاع، تدليس، علل کی نشاندہی، ائمہ فقهاء کے متدلات پر گفتگو، متعارض فیہ روایات میں قطیق، اقوال کا اُن کے اصل قائلین کی طرف انتساب، اقوال صحابہ و تابعین کا جام جما تذکرہ، اس میں صرف فقہ حنفی کے متدلات ہی نہیں بلکہ یہ احادیث احکام کا انسائیکلو پیڈیا ہے، کوئی محدث اس سے مستغنى نہیں ہو سکتا۔ اہل علم حضرات احادیث احکام سے واقفیت کے لئے ان تین کتب تخریج کا مطالعہ کریں:

ا.....نصب الراية ۲ التلخیص الحبیر ۳ إرواء الغلیل

یاد رہے زیلیعی نام کے ساتھ دو علماء مشہور ہیں:

۱.....صاحب ”نصب الرایۃ“ علامہ زیلیعی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷ھ)

۲.....شارح کنز صاحب ”تبیین الحقائق“ علامہ فخر الدین زیلیعی رحمہ اللہ (متوفی ۳۷ھ)

جو احادیث و آثار علامہ زیلیعی اور حافظ ابن حجر حنفیہ ملیں یا ان چھوٹ گئیں اُن کی تخریج علامہ قاسم بن قطلو بغار رحمہ اللہ (متوفی ۸۷ھ) نے ”منیۃ الالمعی فیما فات من تحریج أحادیث الهدایۃ للزیلیعی“ کے نام سے کی، یہ کتاب محقق العصر علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۷ھ) کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ ”مکتبۃ الخانجی“ قاہرہ سے ۱۳۶۹ھ میں طبع ہوئی ہے۔

شیخ شناع اللہ زاہدی رحمہ اللہ نے ”نصب الرایۃ“ میں جن روایات کا تذکرہ آیا ہے انہیں حروفِ مجمع کی ترتیب پر ”تحقيق الغایۃ بترتیب الرواۃ المترجم لهم فی نصب الرایۃ“ میں ذکر کیا، یہ کتاب ”دارالاہل حدیث“ کویت سے ۱۳۰۸ھ میں شائع ہوئی۔

اس طرح شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۵۷ھ) نے ”تهذیب الأسماء الواقعۃ فی الهدایۃ والخلاصة“ کے نام سے کتاب لکھی، یہ کتاب ”دار الكتب العلمیة“ سے ۱۳۱۹ھ میں طبع ہے۔

۲۶..... منظومہ ابن وہبان

یہ شیخ عبدالوہاب بن احمد بن وہبان مشتقت رحمہ اللہ (متوفی ۶۸ھ) کا منظومہ ہے، یہ قصیدہ رائیہ ہے، جو چار سو (۴۰۰) اشعار پر مشتمل ہے، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۷ھ) فرماتے ہیں ”وہی نظم جید متمكن“ اس منظومہ کا نام ”قید الشرائد ونظم الفرائد“ ہے۔ یہ منظوم کلام ”ہدایۃ“ کی ترتیب پر ہے۔ مصنف نے خود اس کی شرح

لکھی اور اس کا نام ”عقد القلائد فی حل قید الشرائد“ رکھا۔ علامہ ابن الشحنة حلبی رحمہ اللہ (متوفی ۹۲۱ھ) نے اس شرح میں تنقیح و تہذیب اور اضافات کئے، اور اس کا نام ”تفصیل عقد الفوائد بتکمیل قید الشرائد“ رکھا، اس شرح کا اختصار علامہ شرنبلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۲۹ھ) نے ”مختصر شرح ابن الشحنة“ کے نام سے کیا۔ ①

٦۔۔۔ الغرة المنيفة في تحقيق بعض المسائل الإمامية

أبی حنیفة

یہ امام عمر بن اسحاق بن احمد ہندی غزنوی رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۷ھ) کی تصنیف ہے، امام فخر الدین سلطان رحمہ اللہ نے فارسی میں ”الطريقة البهائية“ کے نام سے کتاب لکھی، مصنف نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا اور دلائل و جوابات کا تفصیل اس میں اضافہ کیا۔ اس کتاب میں اختلافی مسائل کا ذکر ہے، خصوصاً وہ مسائل جن میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہے، یہ کتاب فتحی ابواب کی ترتیب پر ہے، اس میں تمام اختلافی مسائل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بعض معروف اختلافی مسائل کا ذکر ہے جیسا کہ کتاب کے نام سے واضح ہے۔ پہلا مسئلہ کسی پاک چیز سے بدن یا کپڑے سے نجاست زائل کرنا جائز ہے یا نہیں، جیسے سر کہ یا گلاب کا پانی، اس مسئلے میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے چھ دلائل ذکر کئے ہیں، پھر امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی چھ دلائل ذکر کئے ہیں، اور ہر دلیل کا جواب بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ وضو بغیر نیت کے جائز ہے یا نہیں؟ اس میں امام صاحب کے پانچ دلائل ذکر کئے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی پانچ دلائل ذکر کئے ہیں، اور ہر دلیل کا جواب بھی دیا ہے، یہی اسلوب ہے کتاب کے آخر تک، اس کتاب میں احناف کے احادیث کے دلائل بکثرت موجود ہیں، (۱۹۳) صفحات پر مشتمل یہ کتاب

”مؤسسة الكتاب الثقافية“ سے ۱۴۰۶ھ میں شائع ہوئی ہے۔

۶۸ العنایہ علی الہدایۃ

یہ علامہ اکمل الدین محمد بن محمد بابری رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۷ھ) کی تصنیف ہے، اس شرح کے متعلق حاجی خلیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”وقد أحسن فيه وأجاد“ نہایت مفید شرح ہے، اس میں متوسط انداز میں کتاب کو حل کیا گیا ہے، ہر کتاب کی دوسری کتاب سے مناسبت، ہر کتاب کے شروع میں لغوی، اصطلاحی معنی، اُس کتاب کی اہمیت و ضرورت، ائمہ ثالثہ کی آراء، راجح مذہب کی نشاندہی، نہایت متفق و مہذب انداز میں بچھٹلے الفاظ کے ساتھ مصنف کی مراد کی وضاحت کرتے ہیں، فقہی بصیرت اور استعداد کے لئے یہ کتاب نہایت مفید ہے۔ یہ شرح دس جلدوں میں ”دار الفکر“ سے طبع ہے۔

۶۹ الفتاویٰ التاتار خانیۃ

یہ علامہ عالم بن علاء انصاری دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۷ھ) کا معروف فتاویٰ ہے، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ اس فتاویٰ کے متعلق فرماتے ہیں:

وهو كتاب عظيم في مجلدات جمع فيه مسائل المحيط البرهاني
والذخيرة والخانية والظهيرية، وجعل الميم علامة للمحيط، وذكر اسم الباقي،
وقدم بابا في ذكر العلم ثم رتب على أبواب الہدایۃ. ①

ترجمہ: یہ عظیم الشان کتاب کئی جلدوں میں ہے، اس میں ”المحيط البرهانی“ ”الذخیرة“ ”الخانية“ (فتاویٰ قاضی خان) اور ”الظہیرۃ“ کے مسائل کو جمع کیا ہے، محیط برہانی سے لئے گئے مسائل کے آگے بطور علامت کے لفظ میم لکھا ہے، اور بقیہ کتابوں سے لئے گئے مسائل کے آگے اس کتاب کا نام لکھا ہے، اور علم کے باب کو سب سے پہلے

① کشف الظنون: باب النساء ، التاتار خانیۃ، ج ۱ ص ۲۸

ذکر کیا ہے، پھر بقیہ ابواب ہدایہ کی ترتیب پر لکھے ہیں۔

امیر تاتار خان دہلوی نے مصنف کو حکم دیا کہ وہ فقہ حنفی کی ایک جامع کتاب مرتب کریں اور اختلافی مسائل میں تمام اقوال مختلف نقل کریں اور ساتھ ہی اختلاف کرنے والے علماء و فقہاء کی تصریح کریں، چنانچہ امیر تاتار خان کے حکم کے بعد آپ نے یہ عظیم الشان کتاب مرتب کی، اس کا نام ”زاد المسافر فی الفروع“ رکھا، لیکن چونکہ اس کتاب کی ترتیب و تسویہ امیر تاتار خان دہلوی کے حکم سے ہوئی تھی اس لئے اس کی زیادہ شہرت ”فتاویٰ تاتار خانیہ“ کے نام سے ہوئی۔ اس کتاب کا آغاز انہوں نے علم سے متعلق مباحث سے کیا ہے اور اس میں سات (۷) فصلیں ذکر کی ہیں، اس کے بعد ”کتاب الطهارة“ کے تحت نو (۹) فصلیں قائم کی ہیں، اسی طرح دیگر کتب کے تحت بھی کئی کئی فصلیں قائم کر کے بڑے مربوط انداز میں مسائل کو یکجا کیا ہے، عموماً جس کتاب سے مسئلہ ذکر کرتے ہیں اس کا ذکر مسئلے کے شروع یا آخر میں کردیتے ہیں، یہ فتاویٰ پانچ جلدوں میں ”قدیمی کتب خانہ“ سے طبع ہیں، لیکن یہ ناقص ہے، ہندوستان کے معروف عالم علماء شبیر احمد قاسمی کی تحقیق و تعلیق اور تخریج کے ساتھ یہ مکمل نسخہ اب پچیس (۲۵) جلدوں میں چھپ چکا ہے، اس کے شروع میں ایک نہایت علمی مقدمہ ہے، مختلف شخصوں سے موازنہ کر کے نہایت عمدہ اعلام و ترقیم، تعلیق و تخریج اور مآخذ و مراجع کی نشان دہی کے ساتھ ایک علمی کام سرانجام دیا ہے۔

۰۔۔۔ درر البحار فی الفروع

یہ شیخ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن الیاس قونوی رحمہ اللہ (متوفی ۸۸۷ھ) کی تصنیف ہے، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۷ھ) اس متن کے متعلق فرماتے ہیں ”وَهُوَ مِنْ مَشْهُورِ مُخْتَصِرٍ“ یہ مشہور اور مختصر متن ہے۔ اس متن کی مقبولیت کی وجہ سے کئی ایک اہل علم نے اس کی شرح لکھی، ان میں معروف شروح درج ذیل ہیں۔

”درر البحار“ کی شروحات

۱.....علامہ شہاب الدین احمد بن محمد بن خضر رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۷ھ) نے مصنف کی زندگی میں اس متن کی شرح ”الغوص لاقتباس نفاس الأسرار المودعة فی درر البحار“ کے نام سے لکھی۔

۲.....علامہ محمد بن محمود بخاری رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۰ھ) نے اس متن کی شرح ”غیر الأفکار شرح درر البحار“ کے نام سے لکھی۔

۳.....علامہ قاسم بن قطلو بغا رحمہ اللہ (متوفی ۸۷۹ھ) نے اس متن کی شرح ”شرح درر البحار للقونوی“ کے نام سے لکھی۔

۴.....علامہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر زین الدین صالحی رحمہ اللہ (متوفی ۸۹۳ھ) نے اس متن کی شرح ”شرح درر البحار للقونوی“ کے نام سے لکھی۔

فاائدہ: اس کتاب کے مسائل کو امام ابوالحسن حسام الدین رہاوی رحمہ اللہ نے نظم کی صورت میں ترتیب دیا، اور اس کا نام ”البحار الزاخرة“ رکھا، اس نظم کے اشعار کی شرح علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ) کی، اور اس کا نام ”درر البحار الزاهرة فی نظم البحار الزاخرة“ رکھا۔ ①

۱۔۔۔ السراج الوهاج الموضح لکل طالب محتاج
یہ امام ابو بکر بن علی بن محمد حداد ذبیدی رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۰ھ) کی تصنیف ہے، مصنف نے قدوری کی دو شروحات لکھیں، ایک مفصل اور دوسری مختصر، یہ مفصل شرح ہے، اور مختصر شرح ”الجوهرة النيرة“ ہے۔ مولی برکلی نے اس کتاب کو غیر معترکتابوں میں شمار کیا ہے:

① کشف الظنون: ج ۱ ص ۷۳۶ / هدیۃ العارفین: ج ۱ ص ۱۱۵ / ج ۱ ص ۵۳۳ / ج ۱

وعدہ المولیٰ، المعروف ببر کلی من جملة الكتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة۔ ①

علامہ عبدالحیٰ لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) نے بھی اس کتاب کا شماران کتب میں کیا ہے جس میں ضعیف روایات اور کتب غیر معتبرہ سے شاذ مسائل جمع کئے جاتے ہیں: و منها: أن يكون مؤلفه قد جمع فيه الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب الغير المعتبرة..... ومن هذا القسم: السراج الوهاج۔ ② ترجمہ: (غیر معتبر کتابوں میں سے وہ کتابیں بھی ہیں) جن کے مصنفوں ضعیف روایات اور کتب غیر معتبرہ سے شاذ مسائل ذکر کرتے ہیں، اس قسم میں ”السراج الوهاج“، بھی شامل ہے۔ یہ کتاب غیر مطبوعہ ہے، البته ”الجوهرۃ النیرۃ“، دو جلدوں میں طبع ہے۔

۲۔۔۔ الجوهرۃ النیرۃ علی مختصر القدوری

یہ امام ابو بکر بن علی حدادی رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۰ھ) کی تصنیف ہے، یہ شرح ”السراج الوهاج“ کا اختصار ہے، حل کتاب کے اعتبار سے یہ نہایت مفید شرح ہے۔ اس میں لغات، حل عبارت اور مسائل کی اختصار کے ساتھ وضاحت ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب کا تعارف مقدمہ میں ان الفاظ میں کیا ہے:

هذا شرح لمختصر القدوری جمعته بـألفاظ مختصرة وعبارات ظاهرة تشمل على كثير من المعانى والمذكرة أوضحته لذوى الأفهام القاصرة والهمم القاصرة وسميت الجوهرۃ النیرۃ. (مقدمة: ص ۱)

مصنف اس شرح میں ہر کتاب کے آغاز میں لغوی، اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں۔

مسائل کی عام فہم انداز میں توضیح کرتے ہیں، ائمہ مذاہب کے اقوال ذکر کرتے ہیں، قرآن و سنت سے دلائل ذکر کرتے ہیں اور عموماً ارجح قول کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، فقہاء تھلائہ اور دیگر فقہاء کے اقوال بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے:

فهو کتاب مهم مفید عند علماء المذهب الحنفي، لا يستغني عنه طالب علم.

دو جلدیں پر مشتمل یہ شرح ”المطبعة الخيرية“ سے ۱۳۲۲ھ میں شائع ہوئی ہے۔

۳۷..... الفتح المعین علی شرح الکنز لملا مسکین

یہ شرح معین الدین محمد بن عبد اللہ المعروف ملا مسکین رحمہ اللہ (متوفی بعد ۱۸۱۱ھ) کی ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) ملا مسکین، علامہ قہستانی (متوفی ۹۵۳ھ) اور ان کی کتب کے متعلق نقل کرتے ہیں:

ومن الكتب الغريبة لملا مسکین شرح الکنز والقهستانی لعدم

الاطلاع على حال مؤلفيهما. ①

ترجمہ: فتویٰ کے اعتبار سے ضعیف کتابوں میں ملا مسکین کی کنز کی شرح ”فتح المعین“ اور علامہ قہستانی کی ”جامع الرموز“ ہے، جو ”القایۃ“ کی شرح ہے۔ ان دونوں مصنفین کے حالات کا علم نہیں ہے، (اس لئے ان سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔)

اس شرح پر حاشیہ علامہ احمد بن عمر استغاطی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۵۹ھ) نے ”حاشیۃ علی شرح ملا مسکین لکنز الدفائق“ کے نام سے لکھا۔ یہ شرح ”اتیج ایم سعید“ کراچی سے تین جلدیں میں طبع ہے۔



۳۔۔۔ نہایۃ النہایۃ

یہ علامہ محمد بن محمود محب الدین المعروف ابن الشنہ الکبیر رحمہ اللہ (متوفی ۸۱۵ھ) کی تصنیف ہے، مصنف کا زیادہ اشتغال تاریخ اور ادب کے ساتھ تھا، ان کی تصنیف میں ایک کتاب ”روض المناظر فی علم الأوائل والأواخر“ ہے، یہ ”تاریخ أبی الفداء“ کا اختصار ہے، مصنف نے اس تاریخ پر ذیل لکھا ہے جو سن ۸۰۶ھ تک ہے۔ ان کی ایک تصنیف ”السیرۃ النبویۃ“ ہے۔ انہوں نے ہدایہ کی شرح ”نہایۃ النہایۃ“ کے نام سے لکھی، یہ شرح پانچ جلدیں میں غسل کے مسائل تک ہے۔ ①

۴۔۔۔ الفصول العمادیۃ

شیخ عبدالرحیم زین الدین رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، انہوں نے فقه کا علم اپنے والد سے اور علامہ حسام الدین العلیا بادی رحمہ اللہ سے حاصل کیا، جو مجدد الدین محمد استرشنی صاحب ”الفصول الأسترشنیۃ“ کے شاگرد ہیں۔ مصنف اس کتاب کی تصنیف سے ۶۵۱ھ میں فارغ ہوئے ہیں، علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) فرماتے ہیں:

قد طالعت ”الفصول العمادیۃ“ فوجدتہ مجموعاً نفیساً شاملًا

لأحكام متفرقة ومتضمناً للفوائد ملتقطة. ②

ترجمہ: میں نے ”الفصول العمادیۃ“ کا مطالعہ کیا، میں نے اسے متفرق احکامات کا مفید مجموعہ پایا، اور منتخب فوائد پر مشتمل پایا۔

۵۔۔۔ نہایۃ الکفاۃ

یہ امام محمود بن احمد بن عبد اللہ بن ابراہیم تاج الشریعہ الحبوبی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے،

① کشف الظنون: ج ۲ ص ۲۰۲۲

② الفوائد البهیۃ: ترجمہ: عبد الرحیم أبو الفتح زین الدین، ص ۱۶۰

یہ ”ہدایہ“ کی شرح ہے، ان کی تصانیف میں معروف ”الوقایہ“، متن ہے، جو انہوں نے ”الہدایہ“ سے انتخاب کیا تھا، یہ متن انہوں نے اپنے پوتے کے حفظ کے لئے لکھا تھا، پھر پوتے علامہ عبد اللہ بن مسعود بن محمود رحمہ اللہ نے اس کی شرح ”شرح الوقایہ“ کے نام سے لکھی۔ مصنف کی تصانیف میں ایک ”الفتاویٰ والواقعات“ بھی ہے، لیکن ”الوقایہ“، متن کے علاوہ ان کی کوئی تصنیف مطبوع نہیں ہے۔

لے..... جامع الفضولین فی الفروع

یہ شیخ بدرا الدین محمود بن اسرائیل المعروف ابن قاضی رحمہ اللہ (متوفی ۸۲۳ھ) کی تصنیف ہے، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

وهو كتاب مشهور متداول في أيدي الحكام والمفتين، لكونه في المعاملات خاصة. جمع فيه بين فضول العمادى، وفضول الأسرار وشنى، وأحاط واجاد. ①

ترجمہ: یہ کتاب حکام اور مفتین کے درمیان مشہور و معروف ہے، اس لئے کہ یہ صرف معاملات سے متعلق ہے، اس میں انہوں نے ”فضول العمادی“ اور ”فضول الأسرار وشنى“ کے مسائل کو جمع کیا ہے، انہوں نے (مسائل کا) احاطہ کیا ہے، یہ (کتاب الأسرار وشنى) مفید ہے۔

یہ معتبر کتابوں میں سے ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) لکھتے ہیں:

(قَوْلُهُ جَامِعُ الْفُضُولِينَ) هُوَ كِتَابٌ مُعْتَبَرٌ لِابْنِ قَاضِي سَمَاؤَةَ، جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ فُضُولِ الْعِمَادِيِّ وَفُضُولِ الْأُسْرُوْشَنِيِّ. ②

① کشف الظنون: ج ۱ ص ۵۶

② رد المحتار: کتاب الطهارة، باب التیمم، ج ۱ ص ۲۲۷

ترجمہ: ابن قاضی سماوہ کی کتاب ”جامع الفصولین“ معتبر کتاب ہے، اس میں انہوں نے ”فصل العمادی“ اور ”فصل الأسر و الشنی“ کے مسائل کو جمع کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) فرماتے ہیں ”وفی جامع الفصولین: وهو من معتبرات فقهنا“ یہ مسئلہ ”جامع الفصولین“ میں ہے، جو ہماری فقہ کی معتبر کتابوں میں سے ہے۔ ①

امام محمد بن احمد المعروف نشانجی زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۰۳ھ) نے اس کتاب کی تنقیح و تہذیب کی، اس میں کمی بیشی کی اور اس کا نام رکھا ”نور العین فی إصلاح جامع الفصولین“ ②

لیکن اللہ تعالیٰ نے قبولیت و نافعیت اصل کتاب کو عطا فرمائی ہے، اگرچہ اس میں تسامحات اور لغزشیں ہیں:

والأصل هو المتدالع مع ما فيه من الخلل والزلل. ③

۷۔۔۔ الفتاویٰ البزازیة

امام محمد بن شہاب المعروف ابن بزار کردری رحمہ اللہ (متوفی ۷۸۷ھ) اصول و فروع اور دیگر علوم دینیہ میں یکتا نے روزگار تھے، زیادہ تر علم اپنے والد ماجد سے حاصل کیا، علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول.

ان کی دو مشہور کتابیں ہیں:

۱۔ فیض الباری: کتاب الوکالة، باب إذا أبصر الراعی، ج ۳ ص ۲۸۷

۲۔ کشف الظنون: ج ۱ ص ۵۶۶

۳۔ کشف الظنون: ج ۱ ص ۵۶۶

۱ الفتاوى البزازية ۲ مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۶ھ) فرماتے ہیں کہ اس میں انہوں نے مختلف کتب سے فتاویٰ، واقعات اور دلیل کی روشنی میں جو مسائل راجح ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مفتی ابو السعوڈ رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ فقہ میں اہم اور زیادہ پیش آنے والے مسائل پر مشتمل کتاب کیوں نہیں تالیف فرماتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صاحب بزازیہ سے شرم کے باعث، کیونکہ ان کی کتاب کے ہوتے ہوئے میرے لئے مناسب نہیں ہے کہ میں اس فن میں کوئی کتاب تالیف کروں۔ ①

علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) اس فتاویٰ کے متعلق فرماتے ہیں:

طالعت الفتاوى البزازية فوجده مشتملا على مسائل يحتاج إليها مما يعتمد عليها. ②

ترجمہ: میں نے ”الفتاوى البزازية“ کا مطالعہ کیا، میں نے اس کو ان قابل اعتماد مسائل پر مشتمل پایا جن کی طرف احتیاج ہوتی ہے۔
یہ کتاب فتاوی عالمگیری کے حوالی میں آخری تین جلدوں میں ”مکتبہ رسیدیہ“ کوئی نسخہ میں طبع ہے، اور دو جلدوں میں الگ سے ”قدیمی کتب خانہ“ کراچی سے بھی طبع ہے۔

۹ فتاوى قارى الهدایة

علامہ سراجی الدین عمر بن اسحاق غزنوی رحمہ اللہ (متوفی ۸۲۹ھ) علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۱ھ) کے استاذ ہیں۔ یہ فتاویٰ دوسوائی سوالات پر مشتمل ہے، جن کا تعلق مختلف ابواب سے ہے، البتہ زیادہ تر مسائل کا تعلق معاملات سے ہے، علامہ طحطاوی

① **كشف الظنون: البزازية في الفتاوى، ج ۱ ص ۲۲۲**

② **الفوائد البهیۃ: ترجمۃ: محمد بن محمد بن شہاب، ص ۳۰۹**

رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳ھ) نے ”حاشیۃ الطھطاوی علی مراقبی الفلاح“ کتاب الطھھارت میں ”باب المسح علی الخفین“ کے تحت اس فتویٰ کے حوالے سے مسئلہ ذکر کیا ہے۔ (ج اص ۱۳۶) یہ کتاب اب تک طبع نہیں ہوئی۔

۸۰..... جامع المضمرات والمشکلات

یہ امام یوسف بن عمر بن یوسف المعروف نبیرہ عمر بزار رحمہ اللہ (متوفی ۸۳۲ھ) کی تصنیف ہے، یہ ”مختصر القدوری“ کی شرح ہے، اس شرح میں مختلف رموز اختیار کئے گئے ہیں، ”الالف“ سے اشارہ ”الأنفع“ نامی کتاب کی طرف، ”المیم“ سے اشارہ ہے ”الینابیع والمنافع“ کی طرف، ”الهاء“ سے اشارہ ہے ”الهدایۃ“ کی طرف، ”الباء“ سے اشارہ ہے ”المغرب“ کی طرف۔

اس کے شروع میں ایک فصل فقہ اور فقهاء کی منقبت سے متعلق ہے، ایک فصل ”الہلسنت والجماعۃ“ کی وضاحت پڑھے، ایک فصل اس پر ہے کہ فتویٰ دیناکس کے لئے جائز ہے اور کس کے لئے نہیں ہے، یہ کتاب غیر مطبوعہ ہے۔ ①

۸۱..... خزانۃ الأکمل فی الفروع

یہ امام ابو یعقوب یوسف بن علی بن محمد جرجانی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اس کتاب میں انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ کی ”الجامع الصغیر، الجامع الكبير“ اور ”الزيادات“ اور امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ کی ”المجرد“ امام حاکم شہید رحمہ اللہ کی ”الكافی“ امام ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ کی ”عيون المسائل“ اور علامہ جصاص رحمہ اللہ کی ”شرح مختصر الطھطاوی“ سے مسائل کو جمع کیا ہے۔ یہ کتاب غیر مطبوعہ ہے۔ ②

① کشف الظنون: شروح مختصر القدوری، ج ۲ ص ۱۶۳

② کشف الظنون: ج ۱ ص ۷۰۲

٨٢..... البناءة فی شرح الهدایة

علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ) کی تصنیف ہے، علامہ عینی رحمہ اللہ کی تصانیف میں معروف ”عمدة القاری شرح صحيح البخاری، نخب الأفکار فی تنقیح مبانی الأخیار، البناءة فی شرح الهدایة، رمز الحقائق شرح کنز الدقائق، شرح سنن أبي داود، منحة السلوک شرح تحفة الملوك“ ہیں۔

علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) فرماتے ہیں:

وقد طالعت عمدة القاری والبناءة ورمز الحقائق ومنحة السلوک، كلها مفيدة جداً، وله بسط في تحرير الأحاديث وكشف معانيها، وسعة نظر في الفنون كلها ولو لم يكن فيه رائحة التعصب المذهبی لكن أجود أجود. ①
ترجمہ: میں نے ”عمدة القاری، البناءة، رمز الحقائق“ اور ”منحة السلوک“ کا مطالعہ کیا، یہ تمام کتابیں نہایت مفید ہیں۔ مصنف کو احادیث کی تحریر تھی اور (الفاظ کے) معانی (اور عبارت کی توضیح) میں مہارت تھی، اور تمام فنون میں وسیع النظر تھے۔ اگر ان میں مذهبی تعصب نہ ہوتا تو یہ بہتر ہوتا۔

علامہ عینی رحمہ اللہ بنایہ کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ۹۰ سال کی عمر کے قریب میری عمر ہے جب میں نے یہ کتاب تصنیف کی۔ ②

وفات سے پانچ سال قبل یعنی ۸۵۰ھ میں آپ کی یہ تصنیف مکمل ہوئی، حل کتاب کے لحاظ سے ہدایہ کی شروحات میں یہ شرح سب سے ممتاز ہے، مصنف نے حل لغات، غریب الفاظ کی وضاحت، ہدایہ کی عبارت کی توضیح، ائمہ اہناف کے مذاہب، دلائل اور

① الفوائد البهیۃ: ترجمہ: محمود بن احمد بن موسی، ص ۳۲۰

② البناءة: ج ۱۳ ص ۵۲۵

ترجمیح، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے راجح قول کی نشاندہی، ائمہ ثلاثہ کے مذاہب و دلائل، ان کے دلائل کے جوابات، مذهب احناف کی ترجیح، احادیث کی تخریج، احادیث احکام کا تفصیلی تذکرہ، مرفوع، موقوف، مقطوع تینوں ذخیروں سے استفادہ، نہایت سہل عبارت کے ساتھ کتاب کی توضیح و تشریح کی ہے، یہ شرح ۱۴۲۰ھ میں تیرہ جلدیوں میں ”دارالکتب العلمیہ“ سے طبع ہے۔

٨٣..... رمز الحقائق فی شرح کنز الدقائق

یہ شرح علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ) کی یہ کتاب ”کنز الدقائق“ کی شرح ہے، یہ شرح حل کتاب کے لحاظ سے مفید ہے، اس میں غریب الفاظ کی وضاحت، اختصار کے ساتھ مسائل کی توضیح، ائمہ احناف کے مذاہب اور مختصر ادلائل کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے اس کتاب کو ان کتب میں شمار کیا ہے جن سے فتویٰ دینا جائز ہیں ہے:

وَمِنَ الْكُتُبِ الْغَرِيبَةِ لِمَلَامِسِكِينِ شَرْحُ الْكَنْزِ وَالْقَهْسَتَانِيِّ لِعدَمِ
الاطَّلاعِ عَلَى حَالِ مُؤْلِفِيهِما، أَوْ لِنَقْلِ الْأَقْوَالِ الْضَّعِيفَةِ كَصَاحِبِ الْقَنِيَّةِ أَوْ

لَا خَتْصَارٌ كَالدَّرِ المُخْتَارِ لِلْحَصْكَفَىِ وَالنَّهَرِ وَالْعَيْنِ شَرْحُ الْكَنْزِ۔ ①

ترجمہ: فتویٰ کے اعتبار سے ضعیف کتابیں یہ ہیں: ملامِسِکِین کی کنز کی شرح ”فتح المعین“ اور علامہ قہستانی کی (”جامع الرموز“ ”جو“ ”النقایة“ کی شرح ہے) کیونکہ ان دونوں مصنفین کے حالات کا علم نہیں اور ”القنیۃ“ کے مصنف کی کتابیں کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں ضعیف اقوال نقل کرتے ہیں۔ علامہ حصکفی کی ”الدر المختار“ علامہ عمر بن نجیم کی ”النهر الفائق“ اور علامہ عینی کی ”رمز الحقائق“ یہ تینوں کتابیں اختصار کی وجہ

سے (مفتوحہ کتابوں میں شامل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔)

یہ شرح ”ادارة القرآن والعلوم الإسلامية“، کراچی سے دو جلدیوں میں طبع ہے۔

٨٣.....فتح القدیر

علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف ابن ہمام رحمہ اللہ (متوفی ٨٦١ھ) کی تصنیف ہے، یہ ”الہدایۃ“ کی شرح ہے۔ مصنف حدیث، فقہ، اصول فقہ اور علوم عربیت میں نمایاں مقام رکھتے تھے، علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) نے ان کا تذکرہ ان القابات کے ساتھ کیا ہے:

کان إماماً نظاراً فارساً فی البحث فروعياً أصولياً محدثاً مفسراً
حافظاً نحوياً كلامياً منطقياً جدلياً۔ ①

آپ نے اس شرح کا آغاز ٨٢٩ھ میں کیا، مصنف نے نہایت بسط کے ساتھ محققانہ انداز میں یہ شرح لکھی، اس میں لغات کی وضاحت، الفاظ کی تشریح، عبارت کا حل، احادیث کی تخریج، روایات پر نقد و جرح، الفاظ حدیث کی وضاحت، احادیث کے دیگر طرق و متنازع کا ذکر، اگر روایت بالمعنی ہے تو اصل الفاظ کی نشاندہی، احادیث احکام کا تفصیلی ذکر، ائمہ ثالثہ کے مذاہب و دلائل، حنفی نقطہ نظر کی اعتدال کے ساتھ وضاحت، تسامحات کی نشاندہی، فروعی مسائل کا ذکر، دلائل عقلیہ، نقلیہ کا تذکرہ، ہر کتاب کے شروع میں لغوی، اصطلاحی اور فنی معلومات، جابجا اصول فقہ اور علوم عربیت کے قواعد و فوائد کا ذکر، یہ شرح علوم و معارف، تحقیق و تدقیق کا ایک گنجینہ ہے۔ مصنف جب ”کتاب الوکالة“ میں ”والعقد الذى يعقده الوکلاء على ضربین“ پر پہنچے تو آپ کا انتقال ہو گیا، پھر اس شرح کی تکمیل علامہ شمس الدین احمد بن قودر المعروف قاضی زادہ رحمہ اللہ (متوفی ٩٨٨ھ) نے

① الفوائد البھیۃ: ترجمۃ: محمد بن عبد الواحد، ص ۷۶

”نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار“ کے نام سے کی، یہ کتاب اور تکملہ ”مصطفی البابی حلبي“ سے ۱۳۸۹ھ میں دس جلدیں میں طبع ہے۔

فائدہ: علامہ ابواللّٰہ محمد بن عثمان المعروف بن اقرب رحمہ اللہ (متوفی ۷۷۷ھ) نے ہدایہ کے صرف مسائل کو دلائل سے الگ کر کے اپنی کتاب ”الرعاية في تجرييد مسائل الهدایة“ میں جمع کیا، نفس مسائل کے لئے اس کتاب کا مطالعہ ہوا اور فقه میں تحریر کے لئے ”فتح القدير“ کا مطالعہ ہو۔

٨٥..... مشتمل الأحكام

یہ شیخ فخر الدین رومی رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۳ھ) کی ہے، جسے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۹ھ) نے تالیف کیا ہے، اس کتاب میں قضاۃ سے متعلق مسائل اور احکامات کا ذکر ہے، مولیٰ برکتی نے اسے ”من جملة الكتب المتدولة والواهية“ میں اس کا شمار کیا ہے۔ ①

علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) نے کتب غیر معترہ میں اس کتاب کو بھی شامل کیا ہے، دیکھئے: ②

٨٦..... حلبة المجلی شرح منیۃ المصلى

علامہ ابن امیر الحاج رحمہ اللہ (متوفی ۸۷۹ھ) کی تصنیف ہے، (مصنف نے علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۱ھ) کی کتاب ”التحریر“ کی شرح تین جلدیں میں ”التقریر والتحیر“ کے نام سے لکھی ہے۔ موصوف کی تالیفات میں ایک کتاب ”ذخیرۃ القصر فی تفسیر سورۃ العصر“ بھی ہے۔)

یہ کتاب علامہ کاشغری رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۵ھ) کی ”منیۃ المصلى“ کی شرح

ہے ("منیۃ المصلى"، طہارت اور نماز کے کثیر الواقع مسائل پر مشتمل ہے) مصنف نے اس شرح میں اختصار کے ساتھ مسائل کی تنقیح و توضیح کی ہے اور تفریعات کا اضافہ کیا ہے اور بقدر ضرورت دلائل بھی ذکر کئے ہیں۔

اس کتاب کے نام کے متعلق شیخ عبدالفتاح ابو عدہ کی تحقیق

اس شرح کا اصل نام "حلبة المجلی" ہے، یعنی لام کے بعد لفظ "باء" ہے، "یاء" نہیں ہے، شیخ عبدالفتاح ابو عدہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۳ھ) لکھتے ہیں:

"حلية المجلی" ہو تحریف قطعاً، فإن اسم الكتاب كما هو مسطور في النسخ المخطوطة الموثوقة "حلبة المجلی وبُغية المهتدی في شرح منیۃ المصلى" والحلبة بالباء الموحدة. ①

ترجمہ: "حلية المجلی" (لفظ یاء کے ساتھ) یقینی طور پر تحریف ہے، اس کتاب کا اصل نام جیسا کہ اس کے قابل اعتماد مخطوط نسخوں میں لکھا ہے وہ "حلبة المجلی وبغية المہتدی فی شرح منیۃ المصلى" ہے، "الحلبة" لفظ باء کے ساتھ ہے۔

شیخ نے متعدد مخطوطات کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے ان اصل مخطوط نسخوں میں دیکھا ہے کہ اس کا نام "حلبه المجلی" ہے۔ تفصیلی بحث کے بعد آخر میں لکھتے ہیں:

ومن هذا كله و جب الجزم بأن ما وقع في "حاشية ابن عابدين" أو غيرها من تسمية الكتاب "حلية المجلی" بالإضافة أو "حلية" من غير إضافة إنما هو تحرير من النساخ يجب تصحيحه وإثباته..... حيث جاء

بلغ لفظ "حلبة المجلی" أو "حلية" بالباء الموحدة. ②

① التعليقات الحالفة على الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: ص ۱۹۷ تا ۲۰۱

② التعليقات على الأجوبة الفاضلة: ص ۱ تا ۲۰۱

ترجمہ: اس پوری تحقیق سے یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو گئی کہ ”حاشیہ ابن عابدین“ اور دیگر کتابوں میں ”حلبة المجلی“ اضافت کے ساتھ یا ”حلبة“ بغیر اضافت کے ناخن کی طرف سے تحریف ہے، جس کی تصحیح اور درست لفظ کا اثبات ضروری ہے، لہذا یہ ”حلبة المجلی“ اضافت کے ساتھ ہو یا ”حلبة“ بغیر اضافت کے ہوا سے لفظ ”باء“ ایک نقطے والی کے ساتھ پڑھیں گے (”یاء“ کے ساتھ پڑھنا غلط ہے)۔

ہماری اکثر فقہی کتابوں میں اس کتاب کا نام ”حلبة المجلی“ یا ”الحلبة“ لکھا ہوا ہے جو درست نہیں ہے، کتاب کا اصل نام ”حلبة المجلی“ ہے۔

۸۷..... التصحيح والترجيح الموضوع على مختصر القدوری
 یہ علامہ قاسم بن قطلو بغار حمہ اللہ (متوفی ۸۷۹ھ) کی تصنیف ہے، مصنف نے اس میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کی طرف منسوب اقوال میں درست قول کی اور مسائل میں راجح اقوال کی نشان دہی کی ہے۔ فقہی مسائل میں ائمہ ثلاثہ کے درست قول اور مفتی بہ اقوال کی وضاحت کے لئے اس کتاب کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔
 قدوری اور ہدایہ پڑھاتے وقت اس کتاب کو مطالعہ میں رکھا جائے۔

۸۸..... جامع الفتاویٰ للحمیدی

شیخ قرق امرہ حمیدی رحمہ اللہ (متوفی ۸۸۰ھ) نے اس میں ”المنیة، القنیة، جامع الفضولین، فتاویٰ البزازیة، فتاویٰ قاضی خان“ اور ”الواقعات“ سے استفادہ کر کے یہ فتاویٰ مرتب کیا ہے، لیکن یہ رطب و یابس کا مجموعہ ہے معتبر نہیں ہے۔ اس فتاویٰ کا اختصار شیخ عبدالمحیمد بن نصوح نے کیا اور اس کا نام ”تحفة الأحباب“ رکھا، اس

میں دس ابواب ہیں، اور ہر باب میں دس فصلیں ہیں اور ہر فصل میں دس مسائل ہیں،
مصنف اس کی تالیف سے ۹۵ھ میں فارغ ہوئے ہیں۔ ①

٨٩..... لسان الحکام فی معرفة الأحكام

امام احمد بن محمد بن المعرف ابن الشخه ثقفی حلبی رحمہ اللہ (متوفی ۸۸۲ھ) اپنے
دور کے نامور قاضی گزرے ہیں، انہوں نے اہم پیش آمدہ مسائل کو تیس (۳۰) فضلوں پر
مرتب کیا ہے، اس میں آدابِ قضاء، دعاوں کی اقسام، وکالت، کفالت، حوالہ، اقرار،
ودیعت، وقف، غصب، شفعہ، اکراه، نکاح، بیوی، اجارہ، ہبہ، رہن، جنایت، دیت اور
حدود وغیرہ سے متعلق مسائل کو سابقہ فقہی کتب سے باحوالہ ذکر کیا ہے۔ قضاء سے متعلق شخص
کے لئے خصوصاً اور اہل فتوی سے متعلق حضرات کے لئے عموماً اس کا مطالعہ نہایت مفید ہے،
یہ کتاب ۱۳۹۳ھ میں ”مصطفی البابی حلبی“ قاهرہ سے شائع ہوئی ہے۔

٩٠..... درر الحکام شرح غرر الأحكام

یہ علامہ محمد بن فراموز المعرف ملا خسر و رحمہ اللہ (متوفی ۸۸۵ھ) کی تصنیف ہے،
مصنف کی تصنیف میں معروف ”مرقاۃ الوصول فی علم الأصول“ ہے۔ ”درر
الحکام“ یہ کتاب فقہ حنفی میں جلیل القدر اور عظیم المنفع ہے، متن اور شرح دونوں کے
مصنف ملا خسر و رحمہ اللہ ہیں، آپ نے اختصار کے ساتھ متن لکھا، اس متن کے متعلق مقدمہ
میں فرماتے ہیں ”ہو متن حاوی للفوائد و خاوی عن الزوائد“ (یہ متن فوائد پر مشتمل
ہے اور زوائد سے خالی ہے) اس میں نہایت حسن اسلوبی کے ساتھ احسن طریقے پر مسائل کو
یکجا کیا ہے، موصوف نے سابقہ کتب سے استفادہ کر کے ایک جامع کتاب مرتب کی، اور
جایجا ان کتب کے حوالے بھی دیئے ہیں۔ فقہی ابواب کے طرز پر تقریباً تمام اہم مسائل اس
.....

میں بیکجا ہیں، مسائل کی توضیح میں انہمہ احناف کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں، اس کتاب پر علامہ حسن بن عمار شنبلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۹ھ) نے حاشیہ لکھا ہے، جو اصل کتاب کے ساتھ حاشیہ میں طبع ہے۔ سلیمان بن ولی انقروی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے مسائل کو (۲۰۰۰) اشعار کی صورت میں ترتیب دیا ہے، یہ کتاب دو جلدیں میں ”دار إحياء الكتب العربية“ سے شائع ہوئی ہے۔

۱۹ مطالب المؤمنین

یہ بدر الدین بن تاج الدین بن عبد الرحیم لاہوری رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) فرماتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے:
فإن مأخذك كتاب مطالب المؤمنين للمولوى بدر الدين اللاهوري

وهو رجل غير معتمد عليه. ①

نیز حضرت شاہ صاحب نے کتب غیر معتبرہ میں ”مطالب المؤمنین“ کو کھلی شمار کیا ہے:
وأكثُرُ اشتغالِ أهلِ الْهندِ كَانَ فِي الْفَلْسَفَةِ وَالْمَنْطَقِ، وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ
اشتغلَ بالفقہ والأصول والحدیث. فصنف الشیخ محمد عابد الہندی
كتاباً فی الفقہ و کذا فتاویٰ إبراهیم شاہی، و مجمع سلطانی، و خاقانی،

ولیست بشیء و نحوها مطالب المؤمنین لعالم من لاہور. ②

ترجمہ: اہل ہند کا اکثر اشتغال فلسفہ اور منطق کے ساتھ رہا ہے، ان کا حدیث، فقہ اور اصول (فقہ) کے ساتھ مشغولیت بہت کم رہی ہے، شیخ محمد عابد ہندی نے فقہ میں ایک کتاب تصنیف کی، اسی طرح ”فتاویٰ إبراهیم شاہی“، ”مجمع سلطانی“ اور

العرف الشذی: أبواب الصوم، باب ما جاء في صوم الدهر، ج ۲ ص ۱۸۵ ③

فیض الباری: کتاب الوضوء، باب لا يقبل صلاة بغير ظهور، ج ۱ ص ۳۲۷ ④

”خاقانی“ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اسی طرح لاہور کے عالم کی کتاب ”مطالب المؤمنین“ بھی ہے۔

علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) نے کتب غیر معتبرہ میں اس کتاب کو بھی شمار کیا ہے۔ ”مشتمل الأحكام“، ”كنز العباد“ اور ”مطالب المؤمنین“ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ کتابیں رطب و یابس سے اور موضوع ومن گھڑت روایتوں سے بھری ہوئی ہیں:

فإن هذه الكتب مملوءة من الرطب واليابس مع ما فيها من الأحاديث المختبرعة والأخبار المختلفة. ①

٩٣ کنز العباد فی شرح الأوراد

یعلی بن احمد غوری کی تصنیف ہے، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۶ھ) اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

أوراد الشیخ، الأجل، محیی السنۃ: شهاب الدین السہروردی.
والشرح: لبعض المشايخ فی مجلد. منقول من کتب الفتاوى،
والواقعات وهو شرح فارسی لعلی بن احمد الغوری. ②

ترجمہ: یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے اوراد کا مجموعہ ہے، اس کی شرح ایک جلد میں بعض مشائخ نے لکھی ہے، جو مختلف کتب فتاوی و واقعات سے ماخوذ ہے، یہ شرح فارسی زبان میں علی بن احمد غوری کی تحریر کردہ ہے۔

علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

وكذا ”كنز العباد“ فإنه مملوء من المسائل الواهية والأحاديث

الموضوعة، لا عبرة له عند الفقهاء ولا عند المحدثين. ③

① کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۵۱

② النافع الكبير: ص ۳۳

③ النافع الكبير: ص ۳۲

ترجمہ: ”کنز العباد“ ایسے بے بنیاد مسائل اور موضوع احادیث سے بھری ہوئی ہے جن کا نہ فقہاء کے ہاں کوئی اعتبار ہے اور نہ محدثین کے ہاں۔

۹۳..... جامع الرموز

یہ علامہ قہستانی رحمہ اللہ (متوفی ۹۵۳ھ) کی تصنیف ہے، علامہ تاج الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ نے اپنے پوتے علامہ عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ (متوفی ۷۴۷ھ) کے لئے ایک مختصر متن لکھا، جس کا نام ”الوقایة“ رکھا، پھر علامہ عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ نے اس متن کی شرح لکھی اور اس کا نام ”شرح الوقایة“ رکھا، پھر علامہ عبد اللہ رحمہ اللہ نے اس کا اختصار کر کے ایک متن ”النقایۃ“ کے نام سے لکھا، علامہ قہستانی رحمہ اللہ نے اس متن کی شرح ”جامع الرموز“ کے نام سے لکھی، وہ کتابیں جن سے فتویٰ دینا جائز ہیں ہے ان میں ایک ”جامع الرموز“ بھی ہے، اس وجہ سے کہ اس کے مصنف کے حالات کا علم ہیں ہے کہ کون ہیں اور کس درجہ کے ہیں، معتمد اور ثقہ فقیہ ہیں یا غیر معتمد، محقق ہیں یا سطحی نظر کے حامل ہیں، رطب و یابس جمع کرنے والے ہیں یا معتمد اقوال کے جامع ہیں، ان کے تفصیلی حالات کا علم ہیں ہے، ایسے مصنفین میں کنز کے شارح ملا مسکین رحمہ اللہ اور علامہ قہستانی

رحمہ اللہ ہیں:

لَا يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ مِنْ الْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ كَالنَّهْرِ وَشَرِحِ الْكَنْزِ لِلْعَيْنِ
وَالدُّرِّ الْمُخْتَارِ شَرِحٌ تَنْوِيرٌ لِلْأَبْصَارِ، أَوْ لِعَدَمِ الْإِلَاطَّلَاعِ عَلَى حَالٍ مُؤْلَفِيهَا
كَشَرِحِ الْكَنْزِ لِمُنْلَا مُسْكِينٍ وَشَرِحُ النُّقَايَةِ لِلْقُهْسُتَانِيِّ، أَوْ لِنَقْلِ الْأَقْوَالِ
الضَّعِيفَةِ فِيهَا كَالْقُنْيَةِ لِلزَّاهِدِيِّ، فَلَا يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ مِنْ هَذِهِ إِلَّا إِذَا عَلِمَ

الْمَنْقُولَ عَنْهُ وَأَخْذَهُ مِنْهُ. ①

رد المختار: مقدمة، ج ۱ ص ۷۰ ①

ترجمہ: کتب مختصرہ سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، جیسے ”النہر“، اور علامہ عینی کی ”شرح الکنز“، اور ”الدر المختار شرح تنویر الأبصار“ یا جن (کتابوں کے) مصنفین کا حال معلوم نہیں ہے، جیسے ماسکین کی شرح کنز اور قہستانی کی ”شرح النقایة“ یا (جن کتابوں) میں ضعیف اقوال موجود ہیں، جیسے علامہ زاہدی کی ”القنیۃ“، ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، مگر اس وقت جب ان کے منقول عنہ اور مأخذ کا علم ہو۔

ملا عاصم الدین رحمہ اللہ علامہ قہستانی اور ان کی اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں:

أنه يجمع في شرحه هذا بين الغث والسمين، وال الصحيح وال ضعيف،

من غير تحقيق ولا تصحيح وتدقيق، فهو كحاطب الليل. ①

ترجمہ: انہوں نے اپنی اس شرح میں قوی اور ضعیف اقوال بغیر کسی تحقیق و تدقیق کے جمع کر دیئے ہیں، یہ رطب و یابس کو جمع کرنے والے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے رات کے وقت کوئی لکڑی چننے والا ہو۔

علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) مصنف اور اس کی کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

و منها: عدم الاطلاع على حال مؤلفه، هل كان فقيها أم كان جاماًعاً
بين الغث والسمين، وإن عرف اسمه و اشتهر رسمه كجامع الرموز
للقہستانی فإنه وإن تداوله الناس لكنه لم يعرف حاله أنزله من درجة

الكتب المعتمدة إلى حيز الكتب الغير المعتمدة. ②

ترجمہ: (غیر معتر کتابوں میں سے ایک قسم وہ ہے) جن کے مصنفین کے حالات کا علم نہیں ہے، کیا وہ قابل اعتماد فقیہ تھے یا رطب و یابس جمع کرنے والے تھے، اگرچہ ان کا نام اور کتاب مشہور ہو، جیسے علامہ قہستانی کی ”جامع الرموز“، اگرچہ یہ لوگوں کے درمیان

(اپنے نام اور کتاب سے معروف ہیں) لیکن ان کے حالات کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کتاب کتب معمتمدہ کے درجہ سے اتر کر غیر معمتمدہ کے درجہ پر پہنچ چکی ہے۔

اس کتاب میں رطب و یابس کی ایک مثال یہ ہے کہ مصنف اس پر بحث کرتے ہوئے کہ کن چیزوں سے استجاء جائز ہے اور کن سے نہیں، تو لکھتے ہیں کہ وہ اوراق جن میں کوئی قابل احترام چیز لکھی ہوئی ہواں سے استجاء جائز نہیں ہے، قابل احترام کی قید سے غیر قابل احترام خارج ہو گیا جیسے حکمیات میں علم منطق۔ تو گویا مصنف کا میلان اس طرف ہے کہ منطق کے اوراق سے استجاء جائز ہے اس لئے کہ یہ قابل احترام نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ①

٩٣ مجمع الأنهار فی شرح ملتقى الأبحر

امام ابراہیم بن محمد حلبی رحمہ اللہ (متوفی ۹۵۶ھ) نے مسائل فقہ پر ایک جامع کتاب مرتب کی، جس میں انہوں نے متون اربعہ ”مختصر القدوری، المختار، کنز الدقائق“ اور ”الوقایة“ کے مسائل کو جمع کیا، نیز ”مجمع البحرين“ سے اور ”الهداۃ“ سے بھی ضروری مسائل کا اضافہ کیا، اور اقاویل مختلفہ میں سے سب سے مقدم اس قول کو ذکر کیا جو زیادہ رائج تھا، اور اس بات کا اہتمام کیا کہ متون اربعہ کا کوئی مسئلہ رہ نہ جائے، انہوں نے اس کا نام ”ملتقى الأبحر“ (دریاؤں کا سنگم) رکھا۔ اس میں ائمہ ثلاثة کے اقوال کا تذکرہ ہے لیکن دلائل کا ذکر نہیں ہے۔ اس کتاب کی جامعیت اور افادیت کے باعث کئی ایک اہل علم نے اس کی شرحیں لکھیں۔ اس کی معروف مشہور شرح علامہ عبد الرحمن بن شیخ محمد بن سلیمان رحمہ اللہ (متوفی ۸۷۰ھ) کی ”مجمع الأنهار“ ہے، یہ شرح ”دار إحياء التراث العربي“ سے دو جلدوں میں طبع ہے۔ اس کتاب کی ایک شرح

① جامع الرموز: کتاب الطهارة، باب الاستجائن ج ۱ ص ۱۵۷، ط: انجام سعید

علامہ حصلہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۸ھ) نے ”الدر المتنقی“ کے نام سے لکھی ہے، اس کا مخطوطہ ”کتب خانہ دار العلوم دیوبند“ میں ہے۔

۹۵ غنية المتمملی شرح منية المصلى

یہ علامہ ابراہیم بن محمد حلبی رحمہ اللہ (متوفی ۹۵۶ھ) کی تصنیف ہے، جو ”الحلبی الکبیری“ کے نام سے مشہور ہے۔ فروع طہارت اور صلوٰۃ میں یہ کتاب حنفیہ کے نزدیک سند مانی جاتی ہے، اس میں ائمہ احناف کے اقوال مختصر دلائل کے ساتھ مذکور ہیں، اس میں متقد میں کی کتب سے بحوالہ مسائل کا ذکر ہے۔ ”فروع“ کے عنوان کے تحت دیگر مشابہ تفہیمات بھی ذکر کرتے ہیں۔ (۵۳۶) صفحات پر مشتمل یہ کتاب ”مکتبہ نعمانیہ“ کا نسی روڈ کوئٹہ سے طبع ہے۔ مصنف نے مبتدی طلبہ کے لئے اس کتاب کا اختصار ”مختصر غنية المتمملی“ کے نام سے کیا جو ”الحلبی الصغیری“ کے نام سے معروف ہے۔

۹۶ البحر الرائق شرح کنز الدقائق

یہ علامہ زین الدین بن ابراہیم المعروف ابن حبیم رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۰ھ) کی تصنیف ہے، مصنف کی تصانیف میں معروف ”الأشباء والنظائر، البحر الرائق، الرسائل الزينة“ (اس میں ۴۷ رسائل ہیں) اور ”الفتاویٰ الزينة“ ہیں۔

کنز پر لکھی گئی شروحات میں یہ سب سے مفصل شرح ہے، مصنف نے شرح کے آغاز میں اپنے مراجع و مأخذ کا ذکر کیا ہے۔ ①

یہ شرح سابقہ کتب کا خلاصہ ہے، اس میں معروف تمام کتب حنفیہ سے معروف کتب فقہ سے استفادہ کیا گیا ہے، جا بجا فقہی کتب کے حوالے سے مسائل، دلائل اور تفہیمات کا

ذکر ہے۔ ظاہر الروایہ اور راجح قول کی نشاندہی، جابجا احادیث و آثار کا بحوالہ تذکرہ، تسامحات کی نشاندہی، کثرت تفريعات میں یہ شرح صرف شروعات کنز ہی نہیں بلکہ کتب فقہ حنفی میں ممتاز ہے۔

انہوں نے ”الإجارة الفاسدة“ تک کتاب کی شرح لکھی، پھر اس شرح کا تکملہ علامہ محمد بن حسین بن علی طوری حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۳۸ھ) نے لکھا۔ یہ شرح سب سے پہلے ”مکتبہ علمیہ“ سے ۱۴۱۳ھ میں طبع ہوئی۔ متداول نسخہ ”دار الكتاب الإسلامي“ کا ہے جو آٹھ جلدیں پر مشتمل ہے۔ اس شرح پر علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۵۲ھ) نے حاشیہ لکھا، جو ”منحة الخالق على البحر الرائق“ کے نام سے اصل کتاب کے ساتھ طبع ہے۔

مصنف صرف نقل مسائل پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ نقد و جرح بھی کرتے ہیں، مفتی بہ اقوال کی تعین بھی کرتے ہیں، ہر کتاب اور باب کے شروع میں بطور تمہید وہ تمام فنی، لغوی اور فقہی مباحث نقل کردیتے ہیں جو آنے والے مسائل کے سمجھنے میں مدد و معاون ہوں۔ یہ صرف شرح ہی نہیں بلکہ فقہی مسائل اور تفريعات کا ایک عظیم ذخیرہ ہے، ابتدائی پانچ جلدیں میں کتاب اور حاشیہ کے مطالعہ کے دوران بہت سی مفید باتیں زیر مطالعہ آئیں، ”مکتبہ رسیدیہ“ کوئی سے شائع شدہ نسخہ کے مطابق جلد اور صفحہ نمبر کے ساتھ اہل علم کے ذوق کو لخوڑ خاطر رکھتے ہوئے اشارۃ درج کیا جا رہا ہے:

”البحر الرائق“ سے ایک سو اسی تفريعات کا ذکر

ا..... اعتقادات، عبادات، معاملات، مزاجر، آداب ہر ایک کی پانچ پانچ فسمیں

ہیں۔ (ج اص ۱۹)

- ۲..... جس شخص کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور چہرہ زخمی ہو تو بلاوضو و تینم نماز پڑھے۔ (ج اص ۲۰-۲۵۱-۲۲۶-۲۸۰)
- ۳..... لفظ طہارت کے طاء کے حرکات کی تبدیلی کے ساتھ معنی کی تبدیلی۔ (ج اص ۲۱)
- ۴..... وضواس امت کے خصائص میں سے ہے۔ (ج اص ۲۲، ۲۳)
- ۵..... فرض اور واجب کی تعریف اور ہر ایک کا حکم۔ (ج اص ۲۵)
- ۶..... اگر کسی کے ناخن اس قدر بڑے ہوں جو انگلیوں کے پوروں سے آگے بڑھ جائیں تو ان کے نیچے حصے کا دھونا ضروری ہے۔ (ج اص ۲۹)
- ۷..... وضو میں واجب نہ ہونے کی وجہ، نیز وضو کی اقسام۔ (ج اص ۳۲)
- ۸..... شعر کی تین قسمیں۔ (ج اص ۳۵)
- ۹..... سنت موکدہ اور غیر موکدہ کی تعریف۔ (ج اص ۳۶)
- ۱۰..... علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ کے تسامح کی نشاندہی۔ (ج اص ۲۱)
- ۱۱..... کن موقع پر مساوک کرنا مستحب ہے؟ نیز انہ کا اختلاف اور ثمرہ اختلاف، مساوک کرنے کا طریقہ۔ (ج اص ۳۲)
- ۱۲..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق روایات نقل کرنے والے صحابہ کی تعداد بائیس ہے۔ (ج اص ۲۲)
- ۱۳..... ایک مجلس میں بار بار وضو کرنا مکروہ ہے۔ (ص ۲۸) نیز جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ (ج اص ۲۸)
- ۱۴..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فعل پر موانطبت کرنا اگر علی سبیل العبادت ہو تو سنت ثابت ہوگی اور اگر علی سبیل العادت ہو تو اس سے استحباب ثابت ہوگا۔ (ج اص ۵۶)
- ۱۵..... وجود عائیں اعضا نے وضو کے دھوتے وقت منقول ہیں بقول امام نووی رحمہ اللہ "لا أصل لها" (ج اص ۵۸)

۱۶.....امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں عجوز کو چھونے سے وضو لازم ہونے پر ایک واقعہ۔

(ج اص ۱۱۱)

۱۷.....چار موقع پر غسل کرنا سنت ہے۔ (ج اص ۱۱۶) چھ موقع پر غسل کرنا فرض ہے۔ (ج اص ۱۲۱) تیرہ مقامات پر غسل کرنا مستحب ہے۔ (ج اص ۱۲۲، ۱۲۱)

۱۸.....مہمان کے سامنے جب کھانا آئے تو اس کے متعلق سوال درست نہیں ہے۔

(ج اص ۱۵۸)

۱۹.....موت اہل سنت کے ہاں وجودی چیز ہے جبکہ معزّلہ کے ہاں عدمی چیز ہے، اس پر تفصیلی گفتگو۔ (ج اص ۱۹۵، ۱۹۲)

۲۰.....کوفہ میں صحابہ کی تعداد (۱۵۰۰) تھی۔ (ج اص ۲۱۲)

۲۱.....مرد کے لئے عورت کا جھوٹا پانی پینا مکروہ ہے جبکہ محارم میں سے نہ ہو۔

(ج اص ۲۲۲)

۲۲.....لفظِ کراہت اگر مطلق آئے تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ (ج اص ۲۲۹)

۲۳.....صاحب ”غایۃ البیان“ کا تاسیح اور مسئلہ کی وضاحت۔ (ج اص ۲۳۱)

۲۴.....چھ چیزیں نسیان پیدا کرتی ہیں۔ (ج اص ۲۳۲)

۲۵.....تہم صرف اس امت کے لئے مشروع ہے۔ (ج اص ۲۳۲)

۲۶.....اگر سفر میں جنپی، میت اور وہ حائضہ عورت ہو جو حیض سے پاک ہو چکی ہو اور پانی صرف ایک آدمی کے استعمال کے لئے کافی ہو تو پھر کون پانی استعمال کرے۔ (ج اص ۲۵۰)

۲۷.....بغیر وضو کے جان بوجھ کر نماز پڑھنا کفر ہے۔ (ج اص ۲۵۱)

۲۸.....ایک ہی جگہ سے دو آدمیوں کا تہم کرنا درست ہے۔ (ج اص ۲۵۷) نیز تہم

پر تہم کرنا مکروہ ہے۔ (ج اص ۲۶۱)

۲۹..... اگر تمیم غیر کی تعلیم کے لئے ہو تو اس تمیم سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔

(ج اص ۲۶۲)

۳۰..... قاعدہ: کن عبادات کے کرنے سے کافر کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ (ج اص ۲۶۵)

۳۱..... ۲۵ مسائل میں نائم مستيقظ کی طرح ہے۔ (ج اص ۲۶۸)

۳۲..... وہ سب سے پہلا واقعہ جس میں امام صاحب نے اپنے استاذ امام حماد کی مخالفت کی۔ (ج اص ۲۷۲)

۳۳..... اگر سر میں درد ہو اور مسح کرنے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مسح کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ (ج اص ۲۸۶)

۳۴..... مسح علی الجبیر و مسح علی الحنفیں میں پندرہ فرق ہیں۔ (ج اص ۳۲۸)

۳۵..... ہارون رشید اور اس کی اہلیہ کا واقعہ۔ (ج اص ۳۰۰)

۳۶..... دس دن کے بارے میں روایات موجود ہیں اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن اکثر مدتِ حیض کے پندرہ دن کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف۔ (ج اص ۳۳۳)

۳۷..... اگر ایک مسئلہ میں کئی وجہ تکفیر کی ہوں صرف ایک وجہ نہ ہو تو مفتی کو اُسی طرف مائل ہونا چاہئے۔ (ج اص ۳۳۳)

۳۸..... اگر حاضرہ عورت معلمہ ہو تو بچوں کو پڑھاتے وقت کلمات کو کاٹ کر پڑھے۔ (ج اص ۳۲۸)

۳۹..... حالتِ حدث میں اگر کندھے پر رومال ہو تو اس سے مصحف پکڑنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز کتب تفسیر و فقہ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، نیز امام سرسخی رحمہ اللہ کا ایک رات میں سترہ دفعہ وضو کرنا۔ (ج اص ۳۵۰)

۴۰..... دینی کتابوں کو کس ترتیب سے رکھا جائے، نیز اگر قرآن کے اور اق پلٹ

رہے ہوں تو لکڑی یا اس کے علاوہ کوئی چیز اُس پر رکھنا جائز ہے۔ (ج اص ۳۵) نیز قلم کے بُرا دہ کا بھی احترام کرنا چاہئے۔

۳۱..... شہید کا خون جب تک جسم کے ساتھ ہو تو پاک ہے۔ (ج اص ۳۹۸)

۳۲..... اس زمانے میں نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھالینا بہتر ہے۔ (ج اص ۴۰۱)

۳۳..... صرف خروج رتخ کی وجہ سے استنجاء کرنا بدعت ہے۔ (ج اص ۴۱۶)

۳۴..... استنجاء کی پانچ اقسام۔ (ج اص ۴۷)

۳۵..... اکثر محققین علماء کے ہاں لفظ ”کان“، استرار اور دوام کے لئے آتا ہے۔

(ج اص ۴۷)

۳۶..... تیرہ چیزوں سے استنجاء کرنا مکروہ ہے۔ (ج اص ۴۲۱)

۳۷..... پانچ نمازوں کی فرضیت کب ہوئی؟ کس تاریخ کو ہوئی؟ (ج اص ۴۲۲)

۳۸..... نائم کو اول وقت میں بیدار نہ کریں مگر یہ کہ وقت تنگ ہو۔ (ج اص ۴۲۵)

۳۹..... شفق سے سفیدی مراد لینا یا اکثر صحابہ کا مسلک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

(ج اص ۴۲۷)

۴۰..... وتر پڑھنے کے بعد تہجد پڑھنے میں کراہت نہیں ہے۔ (ج اص ۴۳۱)

۴۱..... امام، موذن اور مفتی کے لئے اجرت لینا جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، نیز امام

رازی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ (ج اص ۴۲۳)

۴۲..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین موذن تھے۔ (ج اص ۴۲۵)


۴۳..... کن موقع پر سلام کا جواب نہ دینا بھی جائز ہے۔ (ج اص ۴۲۹)

۴۴..... تکرارِ جماعت مکروہ ہے اور کراہت پر دلیل، نیز اذان کا جواب دینا کس پر


واجب ہے؟ (ج اص ۴۵۱)




- ۵۵..... آٹھ موضع پر اذان کا جواب نہ دینا جائز ہے، نیز سلف کے ہاں اذان کا احترام۔ (ج اص ۲۵۲)
- ۵۶..... دوران اذان اگر کھانسی آجائے تو وقفہ قلیلہ کی صورت میں اعادہ نہیں ہوگا۔ (ج اص ۲۵۹)
- ۵۷..... اذان اور اوقات مسجد کے لئے سنت مورّکدہ ہے۔ (ج اص ۳۶۲)
- ۵۸..... اگر نجس جگہ پر نعلین بچھا کر اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو جائز ہے۔ (ج اص ۳۶۶)
- ۵۹..... تین کپڑوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے: ازار، قمیص اور عمامة۔ (ج اص ۳۶۸)
- ۶۰..... ذکر مقطوع اور زیناف کئے ہوئے بالوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ (ج اص ۳۷۱)
- ۶۱..... نماز کے لئے نیت کرنا۔ (ج اص ۳۸۰)
- ۶۲..... علماء کا اجماع ہے کہ اگر کسی نے دل میں نیت کی اور زبان سے تکلم نہیں کیا تو نماز جائز ہے۔ (ج اص ۳۸۳)
- ۶۳..... عمدًاً اگر غیر جہت قبلہ کی طرف رخ کرے تو کافر نہیں ہوگا بخلاف اگر عمدًاً بغیر طہارت کے نماز پڑھے۔ (ج اص ۳۹۷)
- ۶۴..... خروج بصنع المصلی فرض ہے یا نہیں؟ نیز یہ قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے یا نہیں؟۔ (ج اص ۵۱۲)
- ۶۵..... سورہ فاتحہ نوافل اور وتر کی تمام رکعتوں اور فرائض کی پہلی دور رکعتوں میں واجب ہے، جبکہ آخری دور رکعتوں میں سنت ہے۔ (ج اص ۵۱۶)
- ۶۶..... خروج من الصلاة کے لئے لفظ "السلام" کافی ہے نہ کہ "عليكم" (ج اص ۵۲۵)
- ۶۷..... دعائے قنوت خاص الفاظ کے ساتھ مختص نہیں ہے اس کے علاوہ بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ (ج اص ۵۲۶)



- ۶۸.....اگر طالب علم استاذ کے سامنے کلام کا افتتاح کرے تو تعوذ نہ پڑھے۔
(ج اص ۵۲۸)
- ۶۹.....لفظ ”اللہ“ کے ہمزہ کو مدد کے ساتھ پڑھنے میں نماز فاسد ہوگی اور ایسے شخص
کے بارے میں کفر کا اندیشہ ہے۔ (ج اص ۵۲۹)
- ۷۰.....مرد اور عورت کی نماز میں دس طرح کا فرق ہے۔ (ج اص ۵۶۱)
- ۷۱.....ایک نماز میں دس مرتبہ تشهد پڑھنے کی صورت۔ (ج اص ۵۷۱)
- ۷۲.....”کما صلیت علی ابراہیم“ میں تشییہ پروار داعتر اض کے پانچ
جوابات۔ (ج اص ۵۷۲)
- ۷۳.....کافر کے لئے مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے، بقول علامہ قرآنی مالکی رحمہ اللہ
کے۔ (ج اص ۶۷۶)
- ۷۴.....انبیاء علیہم السلام سب سے افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں
سب سے افضل ہیں۔ (ج اص ۵۸۳)
- ۷۵.....اگر امام نفل نماز وغیرہ پڑھنا چاہے تو اپنی جگہ سے ذرا ہٹ کر پڑھے۔
(ج اص ۵۸۵)
- ۷۶.....حفظ ”قدر ما تجوز به الصلاة“ فرض عین ہے، کامل قرآن حفظ کرنا
فرض کفایہ ہے، سورہ فاتحہ کا یاد کرنا واجب ہے۔ (ج اص ۵۹۲)
- ۷۷.....قراءۃ فی الصلاۃ کی پانچ صورتیں ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب اور
مکروہ۔ (ج اص ۵۹۵)
- ۷۸.....امامت کی شرائط۔ (ج اص ۶۰۲)
- ۷۹.....نفل نماز جماعت کے ساتھ علی سبیل التنداعی مکروہ ہے۔ (ج اص ۶۰۳)



- ۸۰.....جماعت کی نماز چھوڑنے کے بیس اعذار ہیں۔ (ج اص ۶۰۶)
- ۸۱.....حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کفر ہے۔ (ج اص ۶۱۱)
- ۸۲.....خوارج کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ (ج اص ۶۱۲)
- ۸۳.....روایت اور عذاب قبر کا انکار کفر ہے۔ (ج اص ۶۱۲)
- ۸۴.....اگر کوئی شخص صفات میں ہو اور کوئی بڑی عمر کا یا صاحب علم شخص آجائے تو اس کو چاہئے کہ پیچھے ہٹ جائے۔ (ج اص ۶۱۹)
- ۸۵.....اگر عورت مردوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئی تو ایک صورت میں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور ایک صورت میں تین آدمیوں کی نماز اور ایک صورت میں اس کی اپنی نماز۔ (ج اص ۶۲۵)
- ۸۶.....شوہر کے لئے جائز ہے کہ عورت کو سات مواقع پر خروج کی اجازت دے۔ (ج اص ۶۲۸)
- ۸۷.....اگر نماز میں حدث ہو جائے تو بناء کرنے کے لئے بارہ شرائط ہیں۔ (ج اص ۶۲۳ تا ۶۲۶)
- ۸۸.....کن موقع پر سلام کا جواب نہ دینا جائز ہے؟ نظم کی صورت میں ان کو جمع کیا ہے۔ (ج ۲۲ ص ۱۶)
- ۸۹.....اگر امام صاحب سے کوئی قول منقول نہ ہو تو الی یوم القيامہ اس میں اضطراب ہو گا۔ (ج ۲۲ ص ۲۲)
- ۹۰.....نمازی کے سامنے سے گزرنے میں کراہت تحریکی ہے تنزیہی نہیں ہے۔ (ج ۲۶ ص ۲۶)
- ۹۱.....اگر ایک فعل سنت اور بدعت میں دائرہ ہو تو ترکِ بدعت راجح ہے فعلِ سنت پر۔ (ج ۳۵ ص ۲۲)




- ۹۲.....جماعی کو دور کرنے کا مجرب طریقہ۔ (ج ۲ ص ۲۵)
- ۹۳.....تبیح ہاتھ میں لے کر ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ۔ (ج ۲ ص ۵۲)
- ۹۴.....سانپ کے قتل کرنے میں احتیاط کرنی چاہئے اس پر اپنے بڑے بھائی کا واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ (ج ۲ ص ۵۳)
- ۹۵.....فرائض میں سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا چاہئے اور نوافل میں اختیار ہے۔ (ج ۲ ص ۵۷)
- ۹۶.....قبلہ، مصحف اور کتب فقہ کی طرف پاؤں کرنا مکروہ ہے۔ (ج ۲ ص ۵۹)
- ۹۷.....مسجد میں مراتب کے لحاظ سے ترتیب۔ (ج ۲ ص ۶۲)
- ۹۸.....مسجد میں سونا اور تعزیت کے لئے بیٹھنے کا حکم نیز مذریں اور فتویٰ مسجد میں دینا جائز ہے۔ (ج ۲ ص ۶۳)
- ۹۹.....امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور یوسف بن خالد کا واقعہ (ج ۲ ص ۶۷)
- ۱۰۰.....حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شہروالے مساوک کی سنیت کا انکار کریں تو ہم ان سے لڑیں گے۔ (ج ۲ ص ۶۸)
- ۱۰۱.....دعا کی چار قسمیں ہیں۔ (ج ۲ ص ۷۸)
- ۱۰۲.....وہ چھ مسائل جو امام محمد نے امام ابو یوسف سے سنن تھے لیکن امام ابو یوسف ان کو بھول گئے تھے۔ (ج ۲ ص ۷۱)
- ۱۰۳.....جماعت کی نماز ہمارے ہاں واجب یا واجب کے حکم میں ہے۔ (ج ۲ ص ۱۲۶)
- ۱۰۴.....امام کے لئے اسی جگہ جہاں فرض نماز پڑھی بقیہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (ج ۲ ص ۱۳۱)



- ۱۰۵..... ظہر کی اگر چار سنتیں رہ جائیں تو پہلے دو سنتیں پڑھے پھر چار پڑھے۔ (ج ۲ ص ۱۳۲)
- ۱۰۶..... نماز کو عذر کی بناء پر اپنے وقت سے مُؤخر کرنا جائز ہے اُن اعذار کا ذکر۔
(ج ۲ ص ۱۳۰)
- ۱۰۷..... صاحب ”فتح القدير“ کی تعریف اور اپنا طریقہ اس کتاب میں۔ (ج ۲ ص ۱۳۱)
- ۱۰۸..... اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا مکروہ تحریکی کا ارتکاب کرے تو اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے۔ (ج ۲ ص ۱۳۲)
- ۱۰۹..... امام محمد اور امام کسائی حبہما اللہ کے مابین عمدہ واقعہ۔ (ج ۲ ص ۱۶۲)
- ۱۱۰..... ایک نماز میں دس مرتبہ تشهد پڑھنے کی صورت۔ (ج ۲ ص ۱۷۵)
- ۱۱۱..... سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ۔ (ج ۲ ص ۲۲۳)
- ۱۱۲..... جمعہ کے خطبہ میں دو چیزیں فرض ہیں، اور دس چیزیں سنت ہیں۔ (ج ۲ ص ۲۵۸)
- ۱۱۳..... خطبہ کی آٹھ قسمیں ہیں۔ (ج ۲ ص ۲۶۱)
- ۱۱۴..... ”فقال أبو حنيفة رفع الصوت بالذكر بدعة“، (ج ۲ ص ۲۷۹)
- ۱۱۵..... طلوع شمس کے وقت اگر عام آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو بقول شمس الائمه حلوانی اُسے نہ روکا جائے۔ (ج ۲ ص ۲۸۰)
- ۱۱۶..... عید الاضحیٰ سے پہلے جمعہ میں خطیب کے لئے مناسب ہے کہ تکبیر تشریق اور دیگر مسائل عوام کو بتالائے۔ (ج ۲ ص ۲۸۵)
- ۱۱۷..... عید الاضحیٰ کے ایام میں مرغی ذبح کرنا قربانی کرنے والوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے مکروہ ہے۔ (ج ۲ ص ۲۸۶)
- ۱۱۸..... استاذ کے لئے مناسب ہے کہ اپنے ذہین فطیین شاگرد کو لوگوں کے سامنے امامت وغیرہ میں مقدم کرے اور اس کی تعظیم کرے تاکہ عوام بھی اس کی تعظیم کریں۔ (ج ۲ ص ۲۹۰)

- ۱۱۹..... جو شخص مرض الموت میں ہو تو اس وقت دس کام کئے جائیں، نیز اکثر علماء کے ہاں روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ (ج ۲ ص ۳۰۰)
- ۱۲۰..... جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ تحریکی ہے۔ (ج ۲ ص ۳۳۶)
- ۱۲۱..... مستحب یہ ہے کہ جہاں انتقال ہو وہیں دفن کیا جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جائیں۔ (ج ۲ ص ۳۲۲)
- ۱۲۲..... جوان عورتوں کے لئے قبرستان جانا مکروہ ہے، نیز قراءت عند القبور جائز ہے۔ (ج ۲ ص ۳۲۳)
- ۱۲۳..... جو شخص والدین میں سے کسی کو قتل کرے یا بغاوت کرے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ (ج ۲ ص ۳۵۰)
- ۱۲۴..... زکوہ اور نماز کا ذکر ۸۲ مقامات پر آیا ہے، نیز زکوہ کی فرضیت پر علماء کا اجماع ہے۔ (ج ۲ ص ۳۵۲)
- ۱۲۵..... اگر کسی نے مسکین کو دراہم دیئے اور ان کا نام ہبہ رکھا لیکن نیت زکوہ کی تھی تو زکوہ ادا ہو جائے گی۔ (ج ۲ ص ۳۷۰)
- ۱۲۶..... مقدار یہ زکوہ کا ثبوت تو اتر سے ہے، جس طرح قرآن اور تعدادِ رکعات کا ہے۔ (ج ۲ ص ۳۹۳)
- ۱۲۷..... طالب علم کے لئے زکوہ لینا جائز ہے اگرچہ مالدار کیوں نہ ہو جب کہ اس نے اپنے آپ کو علم کے لئے فارغ کیا ہو۔ (ج ۲ ص ۳۲۲)
- ۱۲۸..... بنو ہاشم میں پانچ افراد داخل ہیں، نیز عقیل، جعفر، علی رضی اللہ عنہم کے درمیان عمروں کا تناسب۔ (ج ۲ ص ۳۰۰)
- ۱۲۹..... طالب علم کا خرچہ اس کے والد کے ذمے ہوگا اگرچہ وہ تندرست اور کمائی کے لاکٹ ہو۔ (ج ۲ ص ۳۷۷)



- ۱۳۰..... صاحب قاموس کے تسامح کی نشاندہی۔ (ج ۲ ص ۳۸)
- ۱۳۱..... متاخرین علماء کے ہاں شوال کے چھ روزوں میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز جو روزے لازم ہیں وہ تیرہ ہیں، ان میں سات میں تتابع شرط ہے اور چھ میں تتابع شرط نہیں ہے۔ (ج ۲ ص ۴۵)
- ۱۳۲..... زبان سے تلفظ کے ساتھ نیت کرنا تمام عبادات میں بدعت ہے۔ (ج ۲ ص ۵۶)
- ۱۳۳..... ایک شخص نے مکہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا تو امام صاحب نے وصیت کی کہ یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے۔ (ج ۲ ص ۵۷)
- ۱۳۴..... دورانِ طواف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت نہیں ہے، نیز حجر اسود پر سجدہ کرنا مشاہیر سے ثابت نہیں ہے۔ (ج ۲ ص ۵۷)
- ۱۳۵..... کثرت سے طواف کرنا افضل ہے یا کثرت سے عمرے کرنا؟ (ج ۲ ص ۵۸)
- ۱۳۶..... اہل سنت والجماعت کے ہاں حج یا ہجرت کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اس سے مراد صرف تاخیر کا گناہ معاف ہو گا باقی نمازوں اور روزوں کی قضاء لازم ہو گی، دین کی ادائیگی لازم ہو گی۔ (ج ۲ ص ۵۹)
- ۱۳۷..... اس کتاب میں اگر لفظ شارح آئے تو مراد علامہ زیلیعی رحمہ اللہ ہوں گے۔ (ج ۲ ص ۶۳)
- ۱۳۸..... صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن میں بدنہ واجب ہوتا ہے بقیہ تمام میں شاة واجب ہوتی ہے۔ (ج ۳ ص ۱۶)
- ۱۳۹..... امام طحاوی رحمہ اللہ اور ائمہ تلاشہ کے ہاں موچھوں میں حلق بہتر ہے جبکہ متاخرین علماء کے ہاں کتر و انا بہتر ہے۔ (ج ۳ ص ۱۸)



- ۱۴۰..... عمرہ من الحجر اندازے قول کا اعتبار نہیں، کذافی فتح القدری۔ (ج ۳ ص ۱۰۳)
- ۱۴۱..... اہل سنت والجماعت کے ہاں نماز اور صدقہ کا ثواب زندہ اور مردہ دونوں کے لئے کرنا درست ہے۔ (ج ۳ ص ۱۰۵)
- ۱۴۲..... عبادت کی تین قسمیں ہیں۔ (ج ۳ ص ۱۰۷)
- ۱۴۳..... دم، کفارہ اور قضائے صلاۃ کو اخفااءً ادا کرنا چاہئے۔ (ج ۳ ص ۱۲۸)
- ۱۴۴..... اشتعال بالنکاح افضل ہے تخلی بالنوافل سے، اس پر چار دلائل نقل کئے۔ (ج ۳ ص ۱۲۳)
- ۱۴۵..... جو شخص یا اعتقاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں وہ کافر ہے۔ (ج ۳ ص ۱۵۵)
- ۱۴۶..... اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جماع کے لئے جگار باتھا یہاں تک کہ ہاتھ بیٹی پر شہوت کے ساتھ لگ گیا تو مان حرام ہو جائے گی۔ (ج ۳ ص ۱۷۶)
- ۱۴۷..... ائمہ اربعہ، جمہور مسلمین کے ہاں چار سے زائد نکاح جائز نہیں، روافض کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں۔ (ج ۳ ص ۱۸۶)
- ۱۴۸..... تین چیزوں میں لشخ دو مرتبہ آیا ہے۔ (ج ۳ ص ۱۹۰)
- ۱۴۹..... خاموش رہنا رضا مندی پر دلالت کرتا ہے اور یہ قول کے قائم مقام ہے بیس مقامات پر۔ (ج ۳ ص ۲۰۱)
- ۱۵۰..... اگر کوئی شخص امر بالمعروف میں مصروف ہو دوسرا اس کو فضولی کہے تو اس کے بارے میں کفر کا اندیشہ ہے۔ (ج ۳ ص ۲۲۲)
- ۱۵۱..... شوہر کا اپنی بیوی کی خدمت کرنے کا حکم۔ (ج ۳ ص ۲۷۶)
- ۱۵۲..... ایک مسئلہ میں تین صورتیں، پھر آگے اس مسئلہ کی ۲۸۸ صورتیں بنتی ہیں۔ (ج ۳ ص ۲۸۲)



۱۵۳.....تصرفاتِ فاسدہ دس ہیں۔ (ج ۳۷ ص ۲۹)

۱۵۴.....حقوقِ زوجین، مرد عورت کو جیش اور نفاس کے غسل پر مجبور کر سکتا ہے۔

(ج ۳۷ ص ۳۸۵)

۱۵۵.....امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ فتویٰ جس کی بنیاد پر انہیں بخارا سے نکالا گیا۔

(ج ۳۷ ص ۴۰۰)

۱۵۶.....اگر عورت موذیہ یا تارک صلاۃ ہو تو اس کو طلاق دیدینا جائز ہے۔ (ج ۳۷ ص ۳۱۲)

۱۵۷.....اگر کسی کو طلاق دینے پر مجبور کیا گیا اور اس نے لکھ کر طلاق دی تو کیا حکم ہے۔

(ج ۳۷ ص ۳۲۹)

۱۵۸.....”قاعدۃ: الثابت بالعرف کا الثابت بالنص“ (ج ۳۷ ص ۳۰۶)

۱۵۹.....شروعیہ، عقلیہ، عرفیہ، لغویہ۔ (ج ۳۷ ص ۱۷)

۱۶۰.....امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی بیٹی کو املاء کروار ہے تھا اس دوران ان کی بے جا ہنسی پر موت کی تمنا کی۔ (ج ۳۷ ص ۵)

۱۶۱.....اگر شوہرنے بیوی کو تین طلاقیں دی ہوں اس کے باوجود جماع کرنے لگے تو کیا بیوی اپنے شوہر کو قتل کر سکتی ہے یا نہیں؟ (ج ۳۷ ص ۹)

۱۶۲.....شمس الائمه کی فضیلت کا واقعہ نیز علامہ سرخی رحمہ اللہ کا مبسوط کو اپنے حافظہ سے املاء کروانا۔ (ج ۳۷ ص ۲۳۷)

۱۶۳.....ایک پیچیدہ مسئلہ میں امام صاحب کی ذہانت کا عمدہ واقعہ۔ (ج ۳۷ ص ۲۳۷)

۱۶۴.....فرقہ کے بعد بچے کا زیادہ حق دار کون ہوگا۔ (ج ۳۷ ص ۲۸۲)

۱۶۵.....کھانا پکانا اور دیگر گھر یا امور عورت پر دیانتاً واجب ہیں، اس پر حضرت فاطمہ اور

علی رضی اللہ عنہما کے عمل سے استدلال۔ (ج ۳۷ ص ۳۱۱)



۱۶۶..... شوہر کے لئے جائز ہے کہ اپنی اہلیہ کو سات جگہ خروج کی اجازت دے۔
(ج ۲۳۱ ص ۳)

۱۶۷..... قرآن کی قسم کھانا نیمین میں داخل ہوگا، نیز جو قدیم ہو محال ہے کہ وہ معدوم ہو۔
(ج ۲۳۲ ص ۲۸۲)

۱۶۸..... اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں آج کے دن پانچ نمازیں جماعت سے پڑھوں گا،
بیوی سے جماع کروں گا اور غسل بھی نہیں کروں گا؟ اس مسئلے کا حل۔ (ج ۲۳۲ ص ۶۰۲)

۱۶۹..... لواطت کی حرمت عقلاءً، شرعاً اور طبعاً ہر طرح سے ثابت ہے۔ (ج ۵ ص ۲۸)
۱۷۰..... اگر کسی شخص نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی اجنبی کو پایا آیا وہ قتل کر سکتا ہے یا نہیں؟
(ج ۵ ص ۶۹)

۱۷۱..... اصحاب رسول تین موقعوں پر آواز بلند کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ (ج ۵ ص ۱۲۸)
۱۷۲..... مجاہد کے لئے ناخن ناکاٹنا اور موچھیں بڑی رکھنا مندوب ہے۔ (ج ۵ ص ۱۲۹)
۱۷۳..... قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ (ج ۵ ص ۲۰۵)

۱۷۴..... شفاعت، روایت، عذاب قبر، صحبت صدیق اور قذف عائشہ کفر ہے۔
(ج ۵ ص ۲۳۳)

۱۷۵..... وہ مرغاب جس کو لٹایا جاتا ہے اس کی بیع مکروہ نہیں ہے۔ (ج ۵ ص ۲۳۰)
۱۷۶..... لقطہ کے متعلق ایک حکایت۔ (ج ۵ ص ۲۵۵)
۱۷۷..... بیع کی تیرہ قسموں کا ذکر۔ (ج ۵ ص ۳۳۸)

۱۷۸..... جہاد کے بعد بہترین کسب تجارت ہے، نیز صحابہ کی تجارت کا ذکر۔ (ج ۵
ص ۲۳۹)

۱۷۹..... ایک عورت مشرق میں قید ہو جائے تو مغرب والوں پر بھی اس کی خلاصی
ضروری ہے۔ (ج ۵ ص ۱۲۳)

۱۸۰..... روایت اور عذاب قبر کا انکار کفر ہے۔ (ج ۵ ص ۲۰۶)

۷ الأشباء والنظائر

علامہ ابن حکیم رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۰ھ) کی یہ کتاب درج ذیل سات فنون پر مشتمل ہے:

الفَنُ الْأَوَّلُ: الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ

الْفَنُ الثَّانِي: فِي الْقَوَائِدِ

الْفَنُ الثَّالِثُ: الْجَمْعُ وَالْفَرْقُ

الْفَنُ الرَّابِعُ: الْأَلْغَازُ

الْفَنُ الْخَامِسُ: الْحِيلُ

الْفَنُ السَّادِسُ: الْفُرُوقُ

الْفَنُ السَّابِعُ: الْحِكَايَاتُ وَالْمُرَاسَلَاتُ

”الأشباء والنظائر“ کی چھ شروحات

یہ کتاب اپنے موضوع پر جامعیت و افادیت کی وجہ سے اہل علم کے درمیان معروف ہے، اس لئے بہت سے اہل علم نے اس پر حواشی و شروحات لکھیں، ان میں معروف درج ذیل ہیں:

۱..... علامہ مصلح الدین مصطفیٰ بن خیر الدین رومی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۲۵ھ) نے اس کتاب کی شرح ”تنویر الأذهان والضمائر فی شرح الأشباء والنظائر لابن نجیم فی الفروع“ کے نام سے لکھی۔ نیز انہوں نے اس کتاب کو اپنے اسلوب پر مرتب کیا اور اس کا نام رکھا ”العقد النظيم فی ترتیب الأشباء والنظائر“ ①

۲..... علامہ احمد بن محمد بن المعروف جموی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۹۸ھ) نے ”غمز“

عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر“ کے نام سے مفصل شرح لکھی، ”الأشباه والنظائر“ کی مطبوعہ شروحات میں یہ شرح سب سے مفصل و محقق شرح ہے۔ یہ شرح چار جلدیں میں ”دار الكتب العلمية“ سے طبع ہے۔

۳..... علامہ محمد بہتہ اللہ بن محمد بن حسینی بعلبکی تاجی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۲۳ھ) نے اس کی شرح ”التحقيق الباهر فی شرح الأشباه والنظائر“ کے نام سے لکھی۔ یہ شرح غیر مطبوعہ ہے۔ ①

۴..... علامہ ابراہیم بن حسین بن احمد المعروف ابن بیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۹۹ھ) نے ”الأشباه والنظائر“ کے اہم مقامات کو حل کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ”عمدة ذوى البصائر بحل مهمات الأشباه والنظائر“ یہ شرح غیر مطبوعہ ہے۔ ②

۵..... علامہ علی بن عبد الدلّطواری رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۰۳ھ) نے ”ذخیرۃ الالفاظ شرح الأشباه والنظائر“ کے نام سے شرح لکھی۔ یہ شرح غیر مطبوعہ ہے۔ ③

۶..... علامہ محمد بن خالد انصاری حمصی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۶۲ھ) نے ”شرح الأشباه والنظائر“ کے نام سے شرح لکھی۔ ④

کیا ”الأشباه والنظائر“ سے فتویٰ دے سکتے ہیں؟

”الأشباه والنظائر“ اور ”الدر المختار“ ان کتابوں میں سے ہیں جن میں نہایت اختصار پایا جاتا ہے اور مفہوم سمجھنے میں غلطی واقع ہوتی ہے۔ نیز بعض مسائل میں مرجوح اقوال کو ترجیح دی ہے، بعض جگہ دیگر مذاہب کے اقوال کو ترجیح دی ہے، جس کا قائل علمائے احناف میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس لئے ان کتابوں کی شروع، حواشی، تعلیقات

① هدیۃ العارفین: ج ۲ ص ۳۵۶ ② إيضاح المکنون: ج ۲ ص ۱۲۱

③ معجم المؤلفین: ج ۷ ص ۲۷۷ ④ معجم المؤلفین: ج ۹ ص ۱۳۷

دیکھنے کے بعد ان سے فتوی دیا جائے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) لکھتے ہیں:

إن الدر المختار والأشباه والنظائر تشتمل على سقط في النقل في
مواضع كثيرة، وترجح ما هو خلاف الراجح، بل ترجح ما هو مذهب الغير
مما لم يقل به أحد من أهل المذهب. ①

ترجمہ: ”الدر المختار“ اور ”الأشباء والنظائر“ میں بہت سے مقامات پر مسائل نقل کرنے میں غلطیاں واقع ہوئی ہیں، اور ان میں بعض مرجوح اقوال کو ترجیح دی گئی ہے، بلکہ بعض جگہ تو دیگر مذاہب کے ایسے قول کو ترجیح دی گئی ہے کہ مذهب حنفی والوں میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔

٩٨ الفتاوى الزينية في فقه الحنفية

یہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۰ھ) کی تصنیف ہے، ان کے صاحبزادے علامہ احمد رحمہ اللہ کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

جمعتها نحو ألف سؤال وأكثر، ورتبتها على ترتيب الكتب، يسهل
الكشف عنه من الطهارة إلى الفرائض وسميتها "الفتاوى الزينية في فقه
الحنفية"

ترجمہ: میں نے اس میں ایک ہزار یا اس سے زائد سوالات کو جمع کر دیا ہے، اور میں نے اسے طہارت سے لے کر فرائض تک کتب کی ترتیب پر مرتب کیا ہے تاکہ اس سے استفادہ آسان ہو۔ اور میں نے اس کا نام رکھا ”الفتاوى الزينية في فقه الحنفية“

فائدہ: علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) لکھتے ہیں کہ ”فتاوی طوری“ اور

”فتاوی ابن نجیم“ پر اعتماد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کی تائید کسی دوسرے فتاوی سے نہ ہو جائے:

وَسِمِعْتُ كَثِيرًا مِنْ شَيْخِنَا أَنَّ فَتاوَى الطُّورِيَّ كَفَتاوَى ابنِ نَجِيمٍ لَا يُوثقُ بِهَا إِلَّا إِذَا تَأَيَّدَتْ بِنَقْلٍ آخَرَ. ①

نیز علامہ شامی رحمہ اللہ ”رد المحتار“ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

وَرَأَيْتُ فِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ الْأَزْهَرِيِّ عَلَى شَرِحِ مُلَّا مِسْكِينٍ أَنَّهُ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى فَتاوَى ابنِ نَجِيمٍ وَلَا عَلَى فَتاوَى الطُّورِيِّ. ②

٩٩ خلاصة الکیدانی

یہ لطف اللہ النسفي کی تالیف ہے، یہ کتاب اگرچہ بعض شہروں میں مشہور ہے لیکن اس کے مصنف کے احوال کا کوئی علم نہیں ہے، کون تھے، ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کے تلامذہ کون ہیں، خود ان کے احوال بھی معلوم نہیں، یقینی طور پر نام بھی معلوم نہیں ہے۔ اس رسالہ میں بہت سی غیر مستند روایات ہیں، غیر مستند مسائل ہیں، یہ ایک رطب و یابس کا مجموعہ ہے، اس لئے محققین علماء نے اس کتاب کو غیر معتمد کتابوں میں شمار کیا ہے، علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) لکھتے ہیں:

هی منسوبة إلى لطف الله النسفي، والكتاب وإن كانت مشهورة في بعض البلاد إلا أنه لا يعرف إلى الآن حال مؤلفها أنه من هو، وكيف هو، وهل هو من يستند بتصنيفه، أو هو من يضرب به المثل المشهور: إن من لا يعرف الفقه صنف فيه كتاباً، وهذا مع ما أورد فيها من الروايات واهية. ③

① رد المحتار: کتاب الطلاق، باب الکنایات، ج ۲ ص ۲۹

② رد المحتار: مقدمہ، ج ۱ ص ۷۰ ③ اعمدة الرعاية: ص ۱۲

ترجمہ: یہ کتاب لطف اللہ سفی کی طرف منسوب ہے، یہ کتاب اگرچہ بعض شہروں میں مشہور ہے، لیکن اب تک اس کے مصنف کے حالات معلوم نہیں ہو سکے کہ یہ کون ہے؟ کس درجے کے ہیں؟ آیا ان میں سے ہیں کہ جن کی تصانیف مستند ہیں یا ان میں سے جن کے بارے میں یہ کہادت کہی جاتی ہے کہ جو فقہ نہیں جانتا وہ اس فن پر کتاب لکھتا ہے، نیز اس میں بہت سی غیر مستند روایات بھی ہیں۔

اس میں غیر مستند احادیث بھی ہیں اور غیر مفتی بہ اقوال بھی ہیں، بہت سے منکر اور مرجوح اقوال بھی ذکر کئے ہیں، علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ نے بطور مثال کے ذکر کیا کہ انہوں نے نماز کے محramات میں جھرأتسمیہ پڑھنا، ابتداء کی رفع یہیں کے علاوہ رفع یہیں کرنا، اور تشهد میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، ان سب کو محramات میں شمار کیا ہے۔ ①

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) لکھتے ہیں:

وقال فی بعض رسائله: لو لا حدیث ظنوا بالمؤمنین خيراً لا كفرت
صاحب الکیدانیة، ولا نعلم صاحب الکیدانیة أنه معتبر أو غيره. ②

ترجمہ: (ملا علی قاری نے) اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی کہ مؤمنین کے بارے میں حسن نظر رکھو تو ”خلاصة الکیدانی“ کے مصنف کی تکفیر کرتا، (شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ) ہم نہیں جانتے ہیں کہ ”خلاصة الکیدانی“ کے مصنف معتبر ہیں یا غیر معتبر۔

یہ کتاب اس وقت علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ کی شرح کے ساتھ ”الجوهر الکلی شرح عمدة المصلى المشهور بالمقدمة الکیدانیة“ کے نام سے طبع ہے، یہ

① عمدة الرعاية: ص ۱۲

② العرف الشذى: أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة بالتشهد، ج ۱ ص ۲۸۶

شرح ”دار الكتب العلمية“ سے ۱۴۲۸ھ میں طبع ہوئی ہے۔ علامہ نابلسی رحمہ اللہ نے جا بجا ان کی علمی طور پر گرفت کی اور غیر مستند روایات و مسائل کی نشان دہی کی ہے۔

”خلاصة الکیدانی“ کی سات شروحات

۱..... شیخ رکن الدین سندری رحمہ اللہ (متوفی ۹۴۹ھ) نے ”شرح علی خلاصة الکیدانی“ کے نام سے اس کی شرح لکھی۔
 ۲..... شیخ فیض الحسن بن نور الحسن بن محمد حسین رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۵۱ھ) نے ”شرح خلاصة الکیدانی“ کے نام سے شرح لکھی، یہ ”شرح الفرشادی“ کے نام سے بھی معروف ہے۔
 ۳..... شیخ محمد عبدالنقشبندی لاہوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۶۰ھ) نے اس کی مفصل شرح

لکھی ”شرح بسيط علی خلاصة الکیدانی“^۱

۴..... نصر اللہ بن محمد خویشکی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۹۹ھ) نے فارسی زبان میں اس کتاب کی شرح لکھی۔^۲

۵..... شیخ بدر الدین بن شیخ ابراہیم سرقندی رحمہ اللہ نے ”معراج المؤمنین فی أهل علیین“ کے نام سے شرح لکھی۔

۶..... علامہ محمد امین قاسمی رحمہ اللہ نے ”شرح خلاصة الکیدانی“ کے نام سے شرح لکھی۔


۷..... علامہ محمد حسن سمہلی رحمہ اللہ نے ”شرح خلاصة الکیدانی“ کے نام سے شرح لکھی۔^۳

^۱ نزهة الخواطر: ج ۲ ص ۳۳۱

^۲ نزۂ الخواطر: ج ۷ ص ۱۱۲۳

^۳ نزۂ الخواطر: ج ۲ ص ۸۲۶

^۴ معجم المطبوعات العربية والمعربة: ج ۲ ص ۱۵۸۰، ۱۵۸۱



۱۰۰ خزانۃ الروایات

یہ قاضی جکن ہندی گجراتی کی تصنیف ہے، ان کا انتقال ۹۲۰ھ کے حدود میں ہوا ہے، یہ ان مصنفین فقہ میں سے ہیں جن کے حالات کا کوئی علم نہیں ہے، معلوم نہیں کہ کون ہیں، اور کس درجہ کے ہیں۔ نیز یہ کتاب بھی رطب و یابس کا مجموعہ ہے، اس میں بہت سی وہی روایات اور مرجوح مسائل ہیں، یہ کتاب غیر معتمد ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) فرماتے ہیں:

أما خزانۃ الروایات، فلا أعتمدُ عليه، وهو من تصانیف عالم من

کجرات۔ ①

ترجمہ: ”خزانۃ الروایات“، گجرات کے ایک عالم کی تصنیف ہے، میں اس پر اعتماد نہیں کرتا۔

وأما خزانۃ الروایات فغير معتبر. ②

علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) ”كنز العباد“، ”مطلوب المؤمنین“، اور ”خزانۃ الروایات“ کے متعلق لکھتے ہیں:

فإن هذه الكتب مملوءة من الرطب واليابس مع ما فيها من

الأحاديث المخترعة. ③

ترجمہ: یہ کتابیں رطب و یابس سے بھری ہوئی ہیں اور ان میں من گھڑت احادیث بھی ہیں۔

① فیض الباری: کتاب الحج، باب طواف الوداع، ج ۳ ص ۲۷۲

② العرف الشذی: أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، ج ۱ ص ۱۷۱

③ النافع الكبير: ص ۳۳



١٠..... تنویر الأ بصار و جامع البحار

یہ علامہ شمس الدین محمد بن عبد اللہ تبرتاشی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۰۳ھ) کی تصنیف ہے،

حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۷ھ) اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

جمع فيه مسائل المتون المعتمدة عوناً لمن ابتلى بالقضاء

والفتوى. ①

ترجمہ: اس کتاب میں متون معتمدہ سے مسائل جمع کئے ہیں اس شخص کے لئے جو قضاۓ اور فتویٰ سے مسلک ہو۔

اس کتاب میں درج ذیل معتمد متون سے مسائل جمع کئے ہیں:

(۱) ”مختصر الطحاوی“ (۲) ”مختصر القدوری“ (۳) ”کنز الدقائق“ (۴) ”المختار“ (۵) ”الوقایة“ اور دیگر کتب سے اہم مسائل جمع کئے ہیں، کتاب کے نام میں ”جامع البحار“ سے اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس میں فقہ کے سمندروں کو جمع کر دیا ہے جس سے آنکھیں روشن ہوں گی۔ چونکہ یہ متن سابقہ متون کا خلاصہ ہے اور اس میں متعدد و مہذب انداز میں کثیر الوقوع مسائل کو جمع کر دیا ہے، اس لئے بہت سے اہل علم نے شروح کی صورت میں اس متن کی خدمت کی۔

”تنویر الأ بصار“ کے چھ شروح و حواشی

ا..... ماتن علامہ تبرتاشی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۰۳ھ) نے خود ”منح الغفار“ شرح ”تنویر الأ بصار“ کے نام سے اس کی شرح لکھی، اس شرح کی تکمیل ۹۹ھ میں ہوئی، یہ شرح مطبوع نہیں ہے، اس شرح پر علامہ خیر الدین رملی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۱ھ) نے حاشیہ لکھا ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) ”رد المحتار“ میں اس حاشیہ کے

حوالے سے مسائل و فوائد نقل کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں ”قال الرملی فی حاشیة المنح“ اور کبھی ”ذکر الخیر الرملی فی حاشیة المنح“ کے الفاظ سے حوالہ دیتے ہیں۔

۲.....علامہ حسین بن اسکندر رومی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۳ھ) نے ”الجوهر المنیر

فی شرح التنویر“ کے نام سے اس کی شرح لکھی، یہ شرح مطبوع نہیں ہے۔ ①

۳.....علامہ محمد بن عبد اللہ برسوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۸ھ) نے ”تبصیر الأنوار

فی شرح تنویر الأ بصار“ کے نام سے شرح لکھی۔ ②

۴.....علامہ علاء الدین حشکفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۸ھ) نے ”خزائن الأ سرار

وبدائیں الأ فکار فی شرح تنویر الأ بصار“ کے نام سے دس جلدیں مفصل شرح

لکھنے کا ارادہ کیا، پھر خود اس شرح کا اختصار ”الدر المختار فی شرح تنویر الأ بصار“

کے نام سے کیا:

لما بیضت الجزء الاول من (خزائن الأ سرار، وبدائیں الأ فکار، فی
شرح تنویر الأ بصار، وجامع البحار)، قدرته فی عشر مجلدات کبار،
فصرفت عنان العناية نحو الاختصار، وسمیته بالدر المختار، فی شرح

تنویر الأ بصار. ③

۵.....علامہ نجم الدین محمد بن خیر الدین رملی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۱۳ھ) نے ”لواح

الأنوار علی منح الغفار“ کے نام سے مصنف کی شرح پر حاشیہ لکھا۔

۶.....علامہ عبد الرزاق بن خلیل بن جنید رومی رحمہ اللہ (متوفی حدود ۱۲۰۰ھ) نے

① هدیۃ العارفین: ج ۱ ص ۳۲۳ ② هدیۃ العارفین: ج ۲ ص ۲۹۵

الدر المختار: مقدمة المصنف، ج ۱ ص ۷



”منیر الأفکار شرح تنویر الأ بصار“ کے نام سے نو (۹) جلدوں میں شرح لکھی۔ ①
فائدہ: ”الدر المختار“ مرکب توصیفی ہے اس کا معنی ہے منتخب موتی، اس پر علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے ”رد المختار“ کے نام سے حاشیہ لکھا ہے جو اہل علم کے درمیان مقبول و متد اوں ہے، اس کو ”فتاویٰ شامی“ بھی کہتے ہیں، متن، شرح اور حاشیہ کے ساتھ اس کا مکمل نام یہ ہے ”رد المختار علی الدر المختار فی شرح تنویر الأ بصار“
یعنی حیران شخص کو پھرنا منتخب موتی کی طرف جو آنکھوں کو روشن کرنے والا ہے، یعنی ایک شخص کا قیمتی موتی گم ہو گیا جو نورِ بصر ہے وہ اس کی تلاش میں حیران و پریشان ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی راہنمائی کی کہ دیکھو تمہارا مطلوب یہ ہے، پس ”رد المختار“ خاء کے ساتھ پڑھنا یا لکھنا غلط ہے، عام طور پر اس میں غلطی کی جاتی ہے۔ ②

۲۰ فتح باب العناية

علامہ عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ (متوفی ۷۷۷ھ) نے ”الوقایة“، متن کی شرح لکھی، پھر خود اس شرح کا اختصار ”النقایة“ کے نام سے کیا۔ ملاعی قاری رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۱۳ھ) نے اس متن کی شرح ”فتح باب العناية“ کے نام سے لکھی۔ ان سے پہلے علامہ قہستانی رحمہ اللہ (متوفی ۹۵۳ھ) نے اس متن کی شرح ”جامع الرموز“ کے نام سے لکھی، ملاعی قاری رحمہ اللہ کی اس شرح کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں احادیث و آثار کو بطورِ دلائل کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ شیخ عبدالفتاح ابو غده رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۱۷ھ) اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

و هو أفضـل الشروح جـمـيـعاً كـما أـنـهـ أـنـقاـهاـ لـغـةـ، وـأـسـلسـهاـ عـبـارـةـ،
.....

① هدیۃ العارفین: ج ۱ ص ۵۶۸

② آپ فتویٰ کیسے دیں: ص ۱۳۲

وأوفاها استدلالاً، وأحسنها تعليلًا، مع امتيازه إلى هذه المزايا يعزى

الأحاديث إلى مخرجها، والأقوال إلى قائلها. ①

ترجمہ: یہ تمام شروحات میں سب سے بہتر شرح ہے، انہوں نے لغوی اعتبار سے منقطع کر کے (الفاظ کے معانی بیان کئے ہیں) اس کی عبارت سلیمانی ہے، (نصوص سے) استدلال میں کامل ہے، نہایت عمدگی کے ساتھ (مسائل کی) علت بیان کی ہے، اس شرح کی خصوصیات میں ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ احادیث کو اس کے مأخذ سے بیان کیا ہے اور اقوال کو ان کے قائلین کی طرف منسوب کیا ہے۔

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں:

إن الشیخ علی القاری ما جاء بشیء یعجب القلوب والأسماع مثل
کتابه "شرح النقایة" ویجب أن یدخل فی الدرس النظامی بدلاً من "شرح
الوقایة" ②

ترجمہ: ملا علی قاری کی "شرح النقایة" ایسی کتاب ہے جس سے دلوں کو راحت ملتی ہے اور کانوں کو سن کر خوشی حاصل ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ درس نظامی (کے نصاب میں) "شرح الوقایة" کی جگہ اس کتاب کو شامل کیا جائے۔

یہ شرح شیخ عبدالفتاح ابو غدر رحمہ اللہ کی تعلیقات کے ساتھ "المطبوعات
الإسلامية" حلب سے طبع ہے۔

٣٠ نور الإيضاح

یہ علامہ حسن بن عمار شربلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۹ھ) کی تصنیف ہے، (ان کی

① فتح باب العناية: مقدمة المحقق، ص ۷

② فتح باب العناية: مقدمة المحقق، ص ۷



تصانیف میں ”شرح منظومة ابن وهبان، تحفة الأكمل، العقد الفريد“، اور ”درر الحکام“ کا حاشیہ ”غنية ذوى الأحكام“ ہے۔) یہ انہوں نے مبتدی طلباء کے لئے ایک متن لکھا ہے، اس میں صرف عبادات یعنی ”کتاب الطهارة، کتاب الصلاة، کتاب الصوم، کتاب الزکاة“ اور ”کتاب الحج“ کے مسائل ہیں۔

۱۰۳ إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح

یہ علامہ شربلابی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۹ھ) کی تصانیف ہے، یہ ”نور الإيضاح“ کی مفصل شرح ہے، لیکن یہ غیر مطبوعہ ہے۔

۱۰۴ مراقبی الفلاح شرح نور الإيضاح

علامہ حسن بن عمار بن علی شربلابی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۹ھ) نے ”نور الإيضاح“ کے نام سے عام فہم انداز میں مبتدی طلبہ کے لئے صرف مسائل کو بیکھا کیا، اس میں فقهاء کے مذاہب، تفصیلی مباحث اور دلائل کا تذکرہ نہیں کیا۔ پھر مصنف نے اس کی تفصیلی شرح ”إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح“ کے نام سے لکھی، اس شرح کا تذکرہ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کیا ہے، دیکھئے: ①

پھر اس پر مفصل حاشیہ علامہ طحطاوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۱ھ) نے ”حاشیۃ الطھطاوی علی مراقبی الفلاح شرح نور الإيضاح“ کے نام سے لکھا، یہ حاشیہ ”دار الكتب العلمیة“ سے محمد عبد العزیز خالدی کی تحقیق کے ساتھ طبع ہوا ہے۔

علامہ شربلابی رحمہ اللہ کے ۲۰ مفید رسائل ”مجموع الرسائل الستین“ کے نام سے دو جلدوں میں ”مکتبہ حقانیہ“ کوئٹہ سے شائع ہوئے ہیں۔

٦٠١ الفتاوى الخيرية

علامہ خیر الدین بن احمد بن علی ایوبی رملی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۱ھ) کا دو جلدیں میں یہ فتاوی مطبوعہ ہے، اس فتوی کی تکمیل علامہ ابراہیم بن سلیمان رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۸ھ) نے کی ہے، انہوں نے ”البحر الرائق“ پر حاشیہ ”مظہر الحقائق“ کے نام سے لکھا ہے جو بھی تک مخطوطہ ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ ”البحر الرائق“ کے حاشیہ ”منحة الخالق“ میں اس کے بکثرت حوالے نقل کرتے ہیں۔

٧٠١ الدر المختار شرح تنوير الأ بصار

علامہ محمد بن علی بن محمد المعروف علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۸ھ) اپنے دور کے ایک عظیم فقیہ، بلند پایہ ادیب اور نجوی تھے، آپ کی تصنیفات میں معروف کتب درج ذیل ہیں:

(۱) إفاضة الأنوار على أصول المنار

یہ صاحب مدارک علامہ نسفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷۷ھ) کی ”المنار“ کی شرح ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے اس کتاب پر مفید تعلیقات و حواشی ”نسمات الأصحاب“ کے نام سے لکھیں، یہ متن، شرح و حاشیہ اس نام کے ساتھ ”نسمات الأصحاب علی إفاضة الأنوار علی كتاب المنار“ ”مطبع مصطفی البابی حلبي“ سے ۱۳۹۹ھ میں طبع ہو چکے ہیں۔

(۲) الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر

یہ فقہ کی معروف کتاب ”ملتقى الأبحر“ کی شرح ہے۔

(۳) شرح قطر الندى

یہ علم نجومیں ہے۔

”الدر المختار“ پر مختلف شروح و حواشی لکھے گئے، مصنف رحمہ اللہ نے پہلے ایک طویل شرح لکھنی شروع کی جس کا نام ”خزانہ الأسرار وبدائع الأفکار“ رکھا، یہ شرح دس صفحہ جلدیں میں ”باب الوتر“ تک تھی، پھر مصنف نے اختصار کر کے ”الدر المختار“، لکھی، موصوف نے اپنی اس صفحہ شرح اور تلخیص کا ذکر ان الفاظ میں کیا:

لما بيضت الأول من خزانة الأسرار وبدائع الأفکار في شرح تنوير الأ بصار وجامع البحار قدرته في عشر مجلدات كبار، فصرفت عنان العناية

نحو الاختصار وسميت بالدر المختار في شرح تنوير الأ بصار. ①

اس پر ایک نہایت مفید حاشیہ علامہ شامی رحمہ اللہ کے استاذ علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طھطاوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۱ھ) کا ہے، جو ”حاشیۃ الطھطاوی علی الدر المختار“ کے نام سے معروف ہے، یہ چار صفحہ جلدیں پر مشتمل ہے، مصنف نے ایک حاشیہ علامہ شربلابی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۲۹ھ) کی کتاب ”مراقبی الفلاح شرح نور الإیضاح“ پر بھی لکھا ہے، نیز آپ کا ایک رسالہ ”کشف الرین عن بیان المسع علی الجوربین“ کے نام سے ہے۔

علامہ عبد الرحمن بن ابراہیم بن احمد المعروف ابن عبد الرزاق رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۳۸ھ) نے ”مفایح الأسرار ولوائح الأفکار في شرح الدر المختار“ کے نام سے اس کی شرح لکھی، یہ شرح مطبوع نہیں ہے۔ ②

علامہ شامی رحمہ اللہ نے ”رد الدر المختار“ میں انھائیں مقامات پر ان کی اس شرح سے استفادہ کر کے لکھا ہے، آپ نے اس کے لئے ”ابن عبد الرزاق“ کا رمز اختیار کیا ہے۔

① الدر المختار: مقدمة، ج ۱ ص ۷۱

② هداية العارفین: ترجمة: ابن عبد الرزاق، ج ۱ ص ۵۵۲

علامہ ابراہیم حلبی رحمہ اللہ نے بھی ”الدر المختار“ پر حاشیہ لکھا، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس حاشیہ سے بھی بہت سے مقامات پر استفادہ کیا ہے، اس کی طرف آپ لفظ ”ح“ سے اشارہ کرتے ہیں، علامہ حلبی رحمہ اللہ نے اس حاشیہ میں علامہ حسکفی رحمہ اللہ پر بہت سے اشکالات کئے ہیں، ان اشکالات کے جوابات علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف ”رفع الانظار عما اوردہ الحلبی علی الدر المختار“ میں دیئے ہیں۔ اس تصنیف کا تذکرہ علامہ اسماعیل بغدادی رحمہ اللہ نے آپ کی تصنیفات میں کیا ہے۔ ①

”الدر المختار“ کے پندرہ شروح و حواشی

۱.....علامہ محمد صالح بن عبد اللہ مدینی نرحمہ اللہ المعروف قاضی زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۰۸ھ) نے ”نخبۃ الأفکار علی الدر المختار“ کے نام سے حاشیہ لکھا۔ ②
 ۲.....علامہ عبدالرحیم بن محمود مشقی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۲۳ھ) نے ”حاشیۃ علی الدر المختار“ کے نام سے حاشیہ لکھا۔

۳.....علامہ عبدالرحمن بن ابراہیم بن احمد المعروف ابن عبدالرازاق رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۳۸ھ) نے ”مفاتیح الأسرار ولوائح الأفکار فی شرح الدر المختار“ کے

نام سے حاشیہ لکھا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ ”رد المختار“ میں ”ابن عبدالرازاق“ کے رمز سے اس حاشیہ سے مسائل و فوائد نقل کرتے ہیں: ③

دکتور عبداللطیف صالح فرفور کی رائے یہ ہے کہ اس حاشیہ کا نام ”سلک النصار“

① هدیۃ العارفین: ترجمۃ: ابن عابدین، ج ۲ ص ۳۶۸

② هدیۃ العارفین: ج ۲ ص ۳۹۵

③ هدیۃ العارفین: ج ۱ ص ۵۶۳

④ الأعلام: ج ۳ ص ۵۵۲ / معجم المؤلفین: ج ۵ ص ۱۱۲ / هدیۃ العارفین: ج ۱ ص ۲۹۳



شرح الدر المختار“ ہے۔ ①

۳..... علامہ ابو الطیب محمد بن عبد القادر سنڈی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۳۹ھ) نے ”قرۃ الانتظار“

فی حاشیة الدر المختار“ کے نام سے حاشیہ لکھا۔ ②

۵..... علامہ خلیل بن محمد بن ابراہیم بن منصور القتال دمشقی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۸۶ھ)

نے ”دلائل الأسرار علی الدر المختار“ کے نام سے حاشیہ لکھا، جو ”حاشیہ فتال“
کے نام سے مشہور ہے۔ ③

۶..... علامہ بدر الدین حسن بن برہان الدین حبرتی عقیلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۸۸ھ)

نے ”اصلاح الأسفار عن وجوه بعض مخدرات الدر المختار“ کے نام سے
حاشیہ لکھا۔ ④

۷..... علامہ ابراہیم بن مصطفیٰ حلبی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۹۰ھ) نے ”تحفة الأخيار“

علی الدر المختار“ کے نام سے حاشیہ لکھا۔ ⑤

۸..... علامہ عبد القادر بن صالح بن عبد الرحمن بانقوسی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۹۹ھ) نے

”سلک النضّار علی الدر المختار“ کے نام سے حاشیہ لکھا ہے۔ ⑥

۹..... علامہ محمد طاہر سنبل بن محمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۱۹ھ) نے ”ضياء الأ بصار علی

منسک الدر المختار“ کے نام سے حاشیہ لکھا۔ ⑦

اس حاشیہ کا درست نام ”المناسک من الدر المختار“ ہے، اور یہ صرف

① ابن عابدین و أثره في الفقه الإسلامي: ج ۱ ص ۲۵۵

② إيضاح المكنون: ج ۲ ص ۲۲۳

③ هدية العارفین: ج ۱ ص ۳۰۰

④ هدية العارفین: ج ۲ ص ۲۵۳

⑤ الأعلام: ج ۲ ص ۳۹

مناسک حج کے مسائل پر حاشیہ ہے، نام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ ①

۱۰..... علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحطاوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۱ھ) نے ”حاشیۃ الحططاوی علی الدر المختار“ کے نام سے چار حصین جلدیں میں اس پر حاشیہ لکھا۔

۱۱..... علامہ عبد المولی بن عبد اللہ دمیاطی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۸ھ) نے ”تعالیق الأنوار علی الدر المختار“ کے نام سے حاشیہ لکھا۔ ②

۱۲..... علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے ”رد الدر المختار علی الدر المختار“ کے نام سے مفصل حاشیہ لکھا، جسے ”حاشیۃ ابن عابدین“ اور ”فتاوی شامی“ بھی کہتے ہیں۔

۱۳..... علامہ محمد عبدالبن احمد بن علی سندی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۷ھ) نے ”طوالع الأنوار علی الدر المختار“ کے نام سے شرح لکھی۔ ③

۱۴..... علامہ محمد بن سعید بن محمد امین طقباطبائی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۷۳ھ) نے ”تعليقات علی الدر المختار“ کے نام سے حاشیہ لکھا۔ ④

۱۵..... مولانا عبدالحق آبادی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۳۳ھ) نے ”التعليقات علی الدر المختار“ کے نام سے حاشیہ لکھا۔ ⑤

ان تمام شروح و حواشی میں زیادہ شهرت دو حواشی کوئی ہے:

۱..... رد الدر المختار علی الدر المختار ۲..... حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار

در المختار

① ابن عابدین و أثره في الفقه الإسلامي: ج ۱ ص ۲۵۲

② هدية العارفين: ج ۱ ص ۱۸۰ الأعلام: ج ۱ ص ۱۳۰ / معجم

المؤلفين: ج ۱ ص ۱۱۳ / نزهة الخواطر: ج ۷ ص ۱۰۹

⑤ نزهة الخواطر: ج ۲ ص ۳۷۳ هدية العارفين: ج ۲ ص ۱۲۶۲

یہ دونوں حواشی مطبوعہ ہیں۔

۱۰۸ عمدة ذوى البصائر لحل مبهمات الأشباه والنظائر

یہ علامہ ابراہیم بن حسین بن احمد بن محمد المعروف ابن بیری رحمہ اللہ (متوفی ۹۹۰ھ) کی تصنیف ہے، یہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۷ھ) کی "الأشبه والنظائر" کی معروف شرح ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) "رد المحتار" اور "شرح عقود رسم المفتی" میں جابجا ان کے حوالے سے مسائل اور علمی فوائد و نکات ذکر کرتے ہیں، یہ کتاب اب تک طبع نہیں ہوئی۔

۹ الفتاوى الهندية

متحده ہندوستان میں مشہور مغل فرمانرواؤرنگ زیب عالمگیر رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۱۸ھ) نے جب باقاعدگی سے شریعت کا نفاذ ہندوستان میں کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کئی باتیں ایسی ہیں کہ جن میں اصل مسئلہ تک پہنچنے میں دقت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی کوئی جامع کتاب موجود نہیں ہے کہ جس میں تمام جزئیات اور نئے پیش آنے والے مسائل کا حل مذکور ہو، تو انہوں نے اس کے لئے ملک کے چیدہ چیدہ منتخب علمائے کرام کا ایک بورڈ قائم کیا، اور اس وقت کے ایک ممتاز عالم شیخ نظام کو اس کا ذمہ دار بنایا۔

اور ان کے ماتحت چار کبار علماء کی ایک کمیٹی بنائی اور ہر عالم کے ساتھ معاونت کے لئے دس دس علماء کو رکھا، ان چار بڑے علماء کے اسماء درج ذیل ہیں:

۱.....مولانا قاضی محمد حسین جو پوری رحمہ اللہ

۲.....مولانا علی اکبر اسعد اللہ خانی رحمہ اللہ

۳.....مولانا شیخ حامد جو پوری رحمہ اللہ

۴.....مفتقی محمد اکرم لاہوری رحمہ اللہ

ان حضرات کے معاونین کے اسماء اور اس فتاوی کے متعلق دیگر معلومات کے لئے دیکھیں: ①

آٹھ سال کے عرصے میں اس فتاوی کی تدوین کا کام مکمل ہوا، بادشاہ عالمگیر خود بھی اس کی تدوین میں شریک رہے، روزانہ کام مرتب کردہ حصہ علامہ نظام رحمہ اللہ سے پڑھوا کر سنتے تھے اور بوقتِ ضرورت اس پر جرح و قدح بھی کرتے تھے تاکہ مسئلہ میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ یہ کتاب بادشاہ کی نسبت سے ”فتاوی عالمگیری“ کے نام سے مشہور ہے، چونکہ یہ فتاوی ہندوستان میں ترتیب دیا گیا اس لئے اس کو ”الفتاوی الہندیۃ“ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فتاوی ہدایہ کی ترتیب پر ہے، فقہی جزئیات کی کثرت اور احاطہ کے اعتبار سے ”المحيط البرهانی“ اور ”الفتاوی التاتارخانیۃ“ کے علاوہ شاید ہی کوئی کتاب اس کے مقابلہ میں رکھی جاسکے، یہ فتاوی جامعیت اور حسن ترتیب کے لحاظ سے دیگر فتاوی سے ممتاز ہے، ہر کتاب کے تحت ابواب اور فصول قائم کر کے تمام مسائل کو نہایت حسن اسلوبی کے ساتھ کیجا کیا ہے، مثلاً ”کتاب الطهارة“ کے تحت سات ابواب ہیں:

- ١..... الباب الأول في الوضوء اس باب کے تحت پانچ فصلیں ہیں:
- (١) الفصل الأول في فرائض الوضوء (٢) الفصل الثاني في سنن الوضوء
- (٣) الفصل الثالث في المستحبات (٤) الفصل الرابع في المكرورهات
- (٥) الفصل الخامس في نواقض الوضوء .

اس طرح ”الباب الثاني في الغسل“ کے تحت تین فصلیں ہیں، ”الباب الثالث في المياه“ اس کے تحت دو فصلیں ہیں، ”الباب الخامس في المسح على الخفين“ اس کے تحت دو فصلیں ہیں، ”الباب السادس في الدماء المختصة في النساء“ اس کے تحت چار فصلیں ہیں، ”الباب السابع في النجاسة وأحكامها“ اس کے تحت تین فصلیں ہیں۔

اندازہ سمجھئے کہ ایک ”کتاب الطهارة“، میں سات ابواب اور بائیس فصلوں کا تذکرہ کر کے نہایت جامعیت کے ساتھ تمام مسائل مآخذ کے حوالے سے سیکھا کر دیئے ہیں، اس کتاب نے علماء، طلباء کو بہت سی کتابوں سے مستغنی کر دیا ہے۔ لیکن طویل عرصہ گزرنے کے باوجود کتابت و طباعت کے معیار، مسائل کی ترقیم اور تحقیق و تعلیق کے لحاظ سے اس کتاب کی خاطر خواہ خدمت اب تک نہیں ہو سکی ہے۔

اس فتاوی میں بعض فقہی روایات و مسائل نہایت کمزور ہیں، خاص طور پر ”کتاب الکراہیة“، میں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) فرماتے ہیں:

وَبَابُ الْحَظْرِ وَالإِبَاحةِ مِنْ تِلْكَ الْفَتاوِيِّ مَمْلُوَةً مِنَ الرِّوَايَاتِ
الضَّعِيفَةِ إِنَّ مَأْخُذَهُ كِتَابُ مَطَالِبِ الْمُؤْمِنِينَ لِلْمَوْلَوِيِّ بَدْرُ الدِّينِ الْلَّاهُورِيِّ
وَهُوَ رَجُلٌ غَيْرُ مَعْتَمِدٍ عَلَيْهِ۔ ①

ترجمہ: ”الفتاوی الہندیۃ“ کا ”باب الحظر والاباحة“ ضعیف روایات سے بھرا ہوا ہے، اس کا مأخذ مولوی بدر الدین لاہوری کی کتاب ”مطالب المؤمنین“ ہے، یہ شخص قابل اعتماد نہیں ہے۔

اس فتاوی کو ایک جماعت نے مرتب کیا لیکن یہ وثوق اور استیناد میں اس مقام تک نہ پہنچ سکا جس کو علامہ شامی رحمہ اللہ نے تھا ”رد المحتار“ کی صورت میں کیا۔ یہ فتاوی ”الفتاوی البزاریۃ“ اور ”فتاوی قاضی خان“ کے ساتھ بھی طبع ہے اور الگ سے بھی چھ جلدیوں میں طبع ہے۔

۱۱..... مفاتیح الأسرار ولوائح الأفكار شرح الدر المختار
یہ شیخ عبد الرحمن بن ابراہیم بن احمد المعروف ابن عبد الرزاق رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۳۸ھ) کی تصنیف ہے، یہ کتاب علامہ حسکفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۸ھ) کی ” الدر

المختار“ کی شرح ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے ”رد المختار“ میں جام جا اس شرح کے حوالے سے مسائل و فوائد ذکر کئے ہیں، یہ شرح غیر مطبوعہ ہے۔

۱۱ الفتاوی الطوری

یہ علامہ محمد بن حسین بن علی الطوری رحمہ اللہ (متوفی بعد ۱۳۸ھ) کی تالیف ہے، انہوں نے علامہ ابن حکیم رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۰ھ) کی ”البحر الرائق“ کا تکملہ لکھا ہے، ان کی ایک تصنیف ”الفوآکہ الطوریۃ فی الحوادث المصریۃ“ ہے۔ ”الفتاوی الطوری“ میں انہوں نے علامہ سراج الدین ہندی رحمہ اللہ کے فتاوی جمع کئے ہیں، ان کی تہذیب و تنقیح کی اور اضافات کئے، لیکن اس کتاب سے فتاوی دینا درست نہیں ہے اور نہ اس پر اعتماد کیا جائے گا:

وَرَأَيْتُ فِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ الْأَزْهَرِيِّ عَلَى شَرِحِ مُلَّا مِسْكِينٍ أَنَّهُ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى فَتاوَى أَبْنِ نُجَيْمٍ وَلَا عَلَى فَتاوَى الطُّورِيِّ. ①

وَسَمِعْتُ كَثِيرًا مِنْ شَيْخِنَا أَنَّ فَتاوَى الطُّورِيِّ كَفَتاوَى أَبْنِ نُجَيْمٍ لَا يُؤْتُقُ بِهَا إِلَّا إِذَا تَأَيَّدَتْ بِنَقْلٍ آخَرَ. ②

۱۲ حاشیة الطحطاوی علی مراقب الفلاح

یہ علامہ طحطاوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۱ھ) کا ”مراقب الفلاح“ پر حاشیہ ہے۔ علامہ شربل الی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۹ھ) نے مبتدی طلباء کے لئے عبادات کے مسائل پر مشتمل ایک کتاب ”نور الإيضاح“، لکھی، پھر خود اس کی مفصل شرح ”إمداد الفتاح“ شرح نور الإيضاح کے نام سے لکھی، پھر متوسط شرح ”مراقب الفلاح“ شرح نور الإيضاح کے نام سے لکھی، یہ کتاب اہل علم کے درمیان معروف ہے، علامہ طحطاوی رحمہ

① رد المختار: مقدمة، ج ۱ ص ۷۰

② رد المختار: کتاب الطلاق، باب الکنایات، ج ۲ ص ۲۹



اللہ نے اس شرح پر حاشیہ لکھا ہے، مصنف کی تصانیف میں دو حاشیے مشہور ہیں:

۱ حاشیة الطھطاوی علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار

۲ حاشیة الطھطاوی علی مراقب الفلاح شرح نور الإیضاح

یہ دونوں حواشی اصل کتابوں کے ساتھ طبع ہیں ”حاشیة الطھطاوی علی مراقب الفلاح“، ایک جلد میں ۱۴۱۸ھ میں ”دار الكتب العلمية“ سے طبع ہے، اور ”حاشیة الطھطاوی علی الدر المختار“ چار جلدوں میں ”مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ“ سے طبع ہے۔

۱۱۳ حاشیة الطھطاوی علی الدر المختار

علامہ طھطاوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۳۳ھ) نے ” الدر المختار“ پر بھی حاشیہ لکھا ہے جو ”حاشیة الطھطاوی علی الدر المختار“ کے نام سے چار جلدیں جلدیں میں ”مکتبہ رشیدیہ“ کوئٹہ سے طبع ہے۔ کتاب کے مقدمہ میں مصنف نے اپنی فقہی سند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نقل کی ہے۔ حل کتاب کے لحاظ سے یہ نہایت مفید حاشیہ ہے، موصوف نے اختصار کے ساتھ متن حل کیا ہے اور بقدر ضرورت وضاحت کی ہے۔ اس میں بعض ایسی جزئیات ہیں جو دیگر کتب میں نہیں ملتیں۔ فقہی بصیرت کے لئے اس حاشیہ کو مطالعہ میں رکھنا چاہئے۔

۱۱۴ العقود الدرية في تنقیح الفتاوى الحامدية

یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۵۲ھ) صاحب ”رد المختار“ کی تصانیف ہے۔ یہ علامہ حامد بن علی عمامی آندری رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۷۱ھ) مفتی دمشق کی فتاوی کی تنقیح ہے، جوانہوں نے منصب افتاء پر فائز رہنے کے زمانہ (۱۴۵۵ھ تا ۱۴۷۲ھ) میں صادر فرمائے تھے، اور ”فتاوی حامدیہ“ کے نام سے خود مولانا حامد صاحب رحمہ اللہ نے جمع فرمائے تھے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اس سے زیادہ نافع اور اس سے زیادہ قابل اعتماد فتاوی کا مجموعہ میں نے نہیں دیکھا،

نیز مفتی صاحب کے متاخر زمانے میں ہونے کے باعث اس میں بہت سے جدید پیش آمدہ

حوادث و اوقات کا حل بھی مل جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کی ترتیب کوئی عمدہ نہ تھی کہ جس سے مسئلہ آسانی سے معلوم کیا جاسکے، مشہور اور غیر ضروری مسائل بھی اس میں درج تھے اور بعض مسائل مکر بھی درج ہو گئے تھے، نیز بعض جگہ ایسے بھی ہوا کہ مسئلہ ایک جگہ ذکر کیا گیا اور دلیل کسی دوسری جگہ نقل کر دی گئی تھی اس لئے میں نے اس کو صحیح ترتیب پر مرتب کرنے اور مہذب منقح کرنے نیز بوقت ضرورت اہم اضافے کرنے کا عزم کر کے کام شروع کر دیا یہاں تک کہ میں نے اس کو مکمل کر ڈالا۔ ①

تمام اہم نقیبی ابواب سے متعلق سوال و جواب کی صورت میں مسائل کا ذکر کیا ہے، انہے احناف کے اقوال بھی ذکر کئے ہیں، اور راجح قول کی تعین بھی کی ہے، اور کبھی بھی دیگر انہے فقہاء کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں لیکن دلائل کا ذکر نہیں کرتے۔ اس فتاوی کے مطالعے سے جہاں بیش بہا معلومات حاصل ہوتی ہیں وہیں ایک مفتی میں فتویٰ کاملہ بھی پیدا ہوتا ہے، تخصص فی الافتاء کے طلبہ کے لئے (۶۸۰) صفحات پر مشتمل اس فتاوی کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے ”الفتاوی الحامدیۃ“ کی تشقیح اپنی کتاب ”رد المحتار“ اور ”منحة الخالق“ کی تکمیل کے بعد فرمائی ہے، ترتیب جدید کے بعد علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کا نام ”العقود الدریۃ فی تنقیح الفتاوی الحامدیۃ“ رکھا، یہ کتاب مصر سے ”فتاویٰ خیریہ“ کے حاشیہ پر دو جلدوں میں طبع ہے اور ”دار المعرفة“ سے تہبا بھی دو جلدوں میں طبع ہو گئی ہے۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ مصنف اور اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں:

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ انہتائی و سیع المطالعہ ہونے کے باوجود اس قدر تقوی شعار اور محتاط بزرگ ہیں کہ عام طور پر اپنی ذمہ داری سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے بلکہ جہاں

تک ممکن ہوتا ہے اپنے سے پہلے کی کتابوں میں سے کسی نہ کسی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ اگر ان اقوال میں بظاہر تعارض ہو تو اس کو رفع کرنے کے لئے بھی حتی الامکان کسی دوسرے فقیہ کے قول کا سہارا لیتے ہیں اور جب تک بالکل مجبوری نہ ہو جائے خود اپنی رائے ظاہر نہیں فرماتے، اور جہاں ظاہر فرماتے ہیں وہاں بھی بالعموم آخر میں ”تامل“ یا ”تدبر“ کہہ کر خود بری ہو جاتے ہیں اور ذمہ داری پڑھنے والے پڑال دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات الجھے ہوئے مسائل میں ہم جیسے لوگوں کو ان کی کتاب سے مکمل شفاء نہیں ہوتی، لیکن یہ طریقہ ”رد المحتار“ میں تو رہا ہے مگر چونکہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے ”البحر الرائق“ کا حاشیہ ”منحة الخالق“ اور ”تنقیح الفتاوی الحامدية“ بعد میں لکھا ہے اس لئے ان کتابوں میں مسائل زیادہ متقدح انداز میں آتے ہیں، جنہیں پڑھ کر فیصلہ کن بات معلوم ہو جاتی ہے۔ ①

۱۵..... رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الأ بصار
علامہ شامی رحمہ اللہ فقہ، اصول فقہ میں اپنے دور کے ایک ممتاز عالم گزرے ہیں، آپ کی تصانیف میں معروف کتب درج ذیل ہیں:

(۱) رد المحتار

علامہ شمس الدین محمد بن عبد اللہ تبرتاشی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۰۳ھ) نے ”تنویر الأ بصار“ کے نام سے متن لکھا، مصنف نے خود اس متن کی شرح ”منح الغفار“ کے نام سے لکھی۔ اس متن کی معروف شرح علامہ علاء الدین محمد بن علی حصکفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۸ھ) نے ” الدر المختار“ کے نام سے لکھی، پھر اس پر حاشیہ و شرح علامہ محمد امین بن عمر بن عبد العزیز المعروف ابن عابدین شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے ”رد المحتار“ کے نام سے لکھی۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے نہایت تحقیق و تدقیق، عرق ریزی، محنت و جستجو، لگن و جانشنازی کے ساتھ سینکڑوں کتابوں کے ہزاروں صفحات کے مطالعے کے بعد جس میں بیسیوں کتابیں مخطوطات اور نادر

تھیں، ان کا مطالعہ کر کے ایک جامع و مدلل کتاب تصنیف کی۔ شیخ لؤی بن عبد الرؤف خلیلی نے ”رد المحتار“ کے تمام مصادر کو ”اللائی المحار فی تحریج مصادر ابن عابدین فی حاشیة رد المحتار“ نامی کتاب میں جمع کیا ہے، دو جلدوں پر مشتمل اس تحقیقی کتاب میں مطبوعہ اور مخطوطہ تمام مصادر کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ کتاب ”دار الفتح“ اردن سے ۱۴۳۳ھ میں طبع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے لئے کس قدر عرق ریزی کی ہے، مصنف چونکہ دوسرے مصنفین سے متاخر ہیں اس لئے انہوں نے سابقہ تقریباً تمام کتب سے استفادہ کر کے امت کی بارہ صدیوں کی محنت اور تحقیقات کا نچوڑ پیش کیا۔ مصنف نے اس بات کا بھی التزام کیا کہ ہر قائل کی بات کو حتی الامکان ان کی اپنی کتب یا مستند مراجع سے نقل کیا جائے، مصنف کی عادت ہے کہ وہ سابقہ تمام اقوال و مباحث کو سامنے رکھ کر تطبيق یا ترجیح بیان کرتے ہیں۔ موصوف راجح اور مفتی بہ اقوال کی نشاندہی کرتے ہیں، مصنف نہایت مختار عالم ہیں، افراط و تفریط سے بچ کر جملہ مسائل میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بات نقل کرنے کے بجائے سابقہ اہل علم کی آراء نقل کی جائیں، کسی قول میں تطبيق، ترجیح یا مفتی بہ ہونے کی نشاندہی کی ہوتی ہے کہی سابقہ کتب یا اہل علم کے اقوال کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، جب تک مجبوری نہ ہو اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، اور اگر کہیں کریں بھی تو آخر میں ”تأمل، تدبیر“ کہہ کر خود بری ہو جاتے ہیں، موصوف کی چونکہ ساری عمر فقہ و اصول فقہ میں گزری اس لئے ان دونوں علوم میں آپ کو خوب دسترس تھی۔

آپ کے فقہی مقام و مرتبہ اور ”رد المحتار“ کے تفصیلی مطالعہ کے لئے ”ابن عابدین و اثرہ فی الفقه الإسلامی“ کا مطالعہ کریں، مصنف دکتور محمد عبداللطیف فرفور، دو خنیم جلدیوں پر مشتمل یہ کتاب ”دار البشائر“، دمشق سے ۱۴۲۲ھ میں شائع ہوئی ہے۔ ”رد المحتار“ میں مسئلہ تلاش کرنے کے لئے پہلے مسئلے کا مظان متعین کریں یعنی

یہ مسئلہ کس کتاب یا باب سے متعلق ہے، اس کے بعد فہرست دیکھیں، عموماً اکثر اہم مسائل پر ”مطلوب“ کے نام سے عنوان قائم ہے، اگر کسی مطلب کے تحت مل جائے تو فہرست مطلوبہ مسئلے سے قریب ترین مطلب کے تحت دیکھیں، اگر ایسا بھی نہ ہو تو متعلق باب یا فصل کا متن دیکھنا شروع کریں، اگر متن میں نہ ملے تو متن کے جس مسئلے سے اس کی مناسبت ہو وہاں شرح اور حاشیہ دیکھ لیں، اگر پھر بھی نہ ملے تو باب کے آخر میں ”فروع“ کے عنوان سے متفرق اہم مسائل اور اشعار ہوتے ہیں، یہ ہر باب کے مسائل شتیٰ ہیں ان میں دیکھیں، ان میں بھی نہ ملے تو ”مسائل شتیٰ“ کے عنوان کے تحت دیکھیں۔

اس کتاب سے مسائل تلاش کرنے کے لئے حضرت مولانا مفتی محمد طاہر شاہ صاحب کی تصنیف ”فتح الغفار معجم رد المحتار“ کا مطالعہ کریں۔ موصوف نے نہایت محنت اور عرق ریزی سے سات سال کے عرصے میں یہ کتاب تصنیف کی، اس میں معروف چھ مکتبوں کے نسخوں سے جلد اور صفحہ نمبر کے ساتھ مسائل کی نشاندہی کی ہے، جس کی وجہ سے مطلوبہ بات کی تلاش نہایت آسان ہو گئی ہے، یہ کتاب ”مکتبہ فاروقیہ“ سے شائع ہوئی ہے۔

”رد المحتار“ کا تکملہ مصنف کے صاحبزادے علامہ محمد علاء الدین بن محمد امین رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۶ھ) نے ”قرۃ عین الأختیار لتکملة رد المحتار“ کے نام سے لکھا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے پہلے ”کتاب الإجازة“ سے آخر تک تبییض کی، پھر ابتداء سے تبییض شروع کی اور آخر ”کتاب القضاء“ صاحب ” الدر المختار“ کے اس قول ”وقد حرر محسن الأشباه المنح“ جلد ۵ صفحہ ۲۸۸ تک پہنچے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، بقیہ حصے کی تبییض و تعلیق آپ کے صاحبزادے نے کی۔

امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) فرماتے ہیں کہ جو شخص ”البحر الرائق“ اور ”رد المحتار“ کا مطالعہ کرے اس کے لئے فتویٰ دینا جائز نہیں:

لَا يجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَفْتَنَ مَا لَمْ يَطَّالِعْ بِالْبَحْرِ وَرَدَ الْمُحتَارَ بِأَسْرِهِ۔

① تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر و آثارهم الفقهية: ص ۳۸

یاد رہے کہ کتاب کا اصل نام تو ”رد المحتار“ ہے لیکن اسے ”حاشیہ ابن عابدین“ بھی کہا جاتا ہے۔ ”عبدین“ علامہ شامی رحمہ اللہ کے جدا مجدد ہیں، آپ خود بھی اپنی طرف عابدین کی نسبت کیا کرتے تھے، تو اس مناسبت سے آپ کو ”علامہ ابن عابدین“ اور حاشیہ کو ”حاشیہ ابن عابدین“ کہا جاتا ہے، نیز پاک و ہند میں اس حاشیہ کو ”فتاویٰ شامیہ“ یا ”فتاویٰ شامی“ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، مصنف چونکہ شام کے باشندے تھے اس لئے آپ کو ”شامی“ اور فتاویٰ کو ”شامیہ“ کہتے ہیں۔

یہ کتاب عبدالمجید طعمہ علی کی نہایت عمدہ تعلیق و تحقیق، تخریج، تراجم رجال اور تقریرات رافعی کے ساتھ بارہ جلدیوں میں ”مکتبہ رسیدیہ“ کوئٹہ سے طبع ہے، اور چھ جلدیوں میں ”دارالفکر“ بیروت سے بھی طبع ہے۔

(۲) حاشیۃ منحة الخالق علی البحر الرائق

یہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۰ھ) کی معروف کتاب ”البحر الرائق“ پر آپ کا نہایت گراں قدر علمی و تحقیقی حاشیہ ہے، یہ حاشیہ اصل کتاب کے ساتھ طبع ہے۔ شیخ زکریا عسیرات کی تعلیق و تخریج کے ساتھ اصل کتاب اور حاشیہ دونوں چھپ چکے ہیں۔ ”مکتبہ رسیدیہ“ کوئٹہ سے نوجلدیوں میں طبع ہے۔

(۳) العقود الدرية في تنقیح الفتاوى الحامدية

اس کا تعارف گزر چکا ہے۔

(۴) نسمات الأصحاب على إضافة الأنوار على كتاب المنار

صاحب مدارک امام نسفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷۰ھ) نے ”منار الأصول“، ”متن لکھا“، علامہ حسکلفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۸ھ) نے اس متن کی شرح ”إضافة الأنوار“ کے نام سے لکھی، پھر علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر جواشی ”نسمات الأصحاب“ کے نام سے لکھے، یہ کتاب شیخ محمد تنوخی کی تعلیقات کے ساتھ ”مصطفیٰ البابی حلبي“ سے ۱۳۹۹ھ میں طبع ہوئی ہے۔

(۵) رسائل ابن عابدین

اس میں مختلف موضوعات پر علامہ شامی رحمہ اللہ کے ۳۲ رسائل ہیں، یہ مجموعہ ”مکتبہ عثمانیہ“ کوئٹہ سے چھپا ہوا ہے۔ میرے نہایت محترم و مکرم دوست حضرت مولانا مفتی شاء اللہ صاحب مدظلہ نے علامہ شامی رحمہ اللہ کے دورسالوں کو نہایت مفید تعلیق و تحقیق، تخریج حدیث، تراجم رجال، مسائل فقہیہ اور قواعد کی تخریج، اعلام و ترکیم اور عمده طباعت کے ساتھ ”مرکز البحوث الإسلامية“، مردان سے حضرت مولانا سجاد جباری صاحب دامت برکاتہم کے علمی و تحقیقی مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے:

- (۱) نشر العرف فی بناء بعض الأحكام على العرف
- (۲) تنبیه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام اللہ تعالیٰ موصوف کو یا کسی صاحب علم و تحقیق کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ مصنف کے دیگر رسائل کو بھی تعلیق و تحقیق کے ساتھ طبع کروائیں۔

۱۱..... الباب فی شرح الكتاب

یہ علامہ عبدالغنی میدانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۹۸ھ) کی تصنیف ہے، قدوری پر لکھی گئی مطبوعہ شروحات میں یہ مفصل شرح ہے۔ مصنف ہر کتاب کے شروع میں ماقبل سے مناسبت، لغوی و اصطلاحی معنی اور اُس کتاب یا باب میں استعمال ہونے والی اہم اصطلاحات ذکر کرتے ہیں۔ رسائل کی توضیح عام فہم اور جامع الفاظ میں کرتے ہیں۔ استدلال میں قرآن و سنت اور قیاس سے جابجا دلائل ذکر کرتے ہیں، انہمہ حنفیہ کے مذاہب اور دلائل ذکر کرنے کے بعد راجح قول کی عموماً تعین بھی کرتے ہیں، جیسے ”باب صدقۃ الفطر“ میں صاع اور رطل کی بحث میں، اور ”باب خیار الرؤیة“ میں گھر کا ظاہر اور صحن کا دیکھ لینا کافی ہے یا کمروں کا دیکھنا بھی ضروری ہے؟ مصنف دیگر کتب فقہیہ سے بھی مسائل، دلائل اور راجح قول کی تعین ذکر کرتے ہیں، انہوں نے جابجا ”الجوهرة النيرة“ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ یہ جامع اور مفصل شرح چار جملوں میں محمد محی الدین عبدالحمید کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ ”المکتبۃ العلمیۃ“، بیروت سے شائع ہوئی ہے۔

۱۱..... الفتاوى الحمادية

یہ مفتی رکن الدین ناگوری بن حسام الدین ناگوری کی تصنیف ہے جو علاقہ گجرات (کاٹھیاوار) کے ایک مشہور شہر نہر والہ میں منصب افتاء پر فائز تھے، یہ کتاب انہوں نے اپنے ہی علاقہ کے قاضی القضاۃ قاضی حماد الدین بن محمد اکرم گجراتی کے حکم پر تالیف فرمائی، اس کی تالیف میں ان کے صاحبزادے مفتی داؤد بن مفتی رکن الدین ناگوری بھی اپنے والد کے ساتھ شامل رہے۔ فتاویٰ حمادیہ کے مقدمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ تفسیر، حدیث، فقه اور اصول فقه کی دوسو سولہ (۲۱۶) کتابوں سے استفادہ کر کے اس کو مرتب کیا گیا ہے، قاضی حماد الدین صاحب نے یہ بھی ہدایت فرمائی تھی کہ اس کتاب میں صرف وہ مسائل جمع کریں جو جمہور فقہاء کے اجماعی اور مفتی بہ ہوں، چونکہ اس کی تالیف اس ہدایت کے مطابق عمل میں آئی ہے اس لئے یہ کتاب لاائق اخذ اور قابل اعتماد بن گئی ہے۔ یہ کتاب نویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، اس کتاب کے قلمی نسخہ متعدد کتب خانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ”معجم المطبوعات العربية والمصرية“ (۱۸۳۶/۲) اور بعض دیگر شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ہندوستان کے اندر ۱۸۲۶/۵ ہلکتہ سے طبع ہو چکی ہے۔

۱۲..... السعایة فی کشف ما فی شرح الوقایة

یہ علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۴ھ) کی تصنیف ہے، یہ ”شرح الوقایة“ کی سب سے عمدہ، جامع، مفصل اور مدلل شرح ہے، یہ شرح ”مکتبہ سہیل الکیدمی“ لاہور سے طبع ہے۔ یہ نو سو (۹۰۰) صفحات پر مشتمل ”فصل فی القراءة“ تک کی شرح ہے، یعنی ”کتاب الصلاۃ“ بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر یہ شرح مکمل ہو جاتی تو کتب فقه میں یہ سب سے منفرد کتاب ہوتی، اس میں تفسیر، حدیث، اصول فقه، علوم عربیت کے دریا موجز نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حدیث، رجال حدیث اور فقہ میں نمایاں مقام عطا کیا تھا۔


اس کتاب کا انداز امام ابن قدامہ رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۰ھ) کی "المغني" اور امام نووی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۶ھ) کی "المجموع شرح المذهب" کا ہے، لیکن یہ لغوی، نحوی، صرفی، تفسیری، حدیثی اور فقہی اور فنی مباحثت کی وجہ سے ان پر فائقت ہے، اس میں علم حدیث کی محققانہ مباحثت پڑھ کر روح میں تازگی آتی ہے۔ اس میں فقہاء کے مذاہب، دلائل، وجہ ترجیحات، طرز استدلال، احادیث کی اسنادی تحقیق، متعارض روایات کے درمیان تطبیق و ترجیح اور اصولی مباحثت تفصیل کے ساتھ ہیں، کاش کوئی اہل علم میں سے اس نجح پر اس کا تکملہ لکھے۔ جو حصہ مطبوعہ ہے کاش کوئی صاحب علم اس کو تخریج و تحقیق کر کے عمدہ طباعت کے ساتھ شائع کرے تو اہل علم کے لئے ایک مفید کام ثابت ہوگا۔ علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ نے "شرح الوقایہ" پر "عمدة الرعایة" کے نام سے ایک مختصر حاشیہ بھی لکھا ہے۔

۱۱ عمدة الرعایة

یہ علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) کا "شرح الوقایہ" پر مشہور حاشیہ ہے، جو ابتدائی دو جلدوں پر مشتمل ہے، اس کے شروع میں نہایت مفید علمی مقدمہ ہے، جو فقہ اور فتاوی سے متعلق ہے، اس کی تکمیل ان کے شاگرد علامہ فتح محمد لکھنؤی رحمہ اللہ نے کی ہے، یہ تکمیلہ تقریباً اسی نجح پر ہے جس پر اصل کتاب ہے، اس حاشیہ سے ان کے علمی فقہی مقام کا اندازہ ہوتا ہے، یہ اصل کتاب کے ساتھ طبع ہے۔

۱۲ قرة عین الأخيار لتکملة رد المحتار

یہ علامہ علاء الدین محمد بن عمر رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۶ھ) کی تصنیف ہے، مصنف علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) کے صاحبزادے ہیں، یہ کتاب "رد المحتار" کا تکملہ ہے، جو مباحثت، عناوین اور مسائل ان کے والد سے رہ گئے تھے انہوں نے اس کی تکمیل کی، یہ "کتاب الأشربة" سے "کتاب العاریة" تک ہے، دو خیم جلدوں پر مشتمل یہ تکملہ الگ سے بھی "دار الفکر" سے طبع ہے۔



۱۲۱ التحریر المختار علی رد المحتار

علامہ عبدالقادر بن مصطفی رافعی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۱۲ھ) نے ”رد المحتار“ کا کئی مرتبہ مطالعہ کیا، مطالعے کے دوران جو باتیں محل نظر آئیں یا کہیں مسئلے یاد لیل میں سقم محسوس ہوا، یا کہیں عبارت میں فنی اعتبار سے کوئی خامی نظر آئی، یا کوئی مفید نکتہ ذہن میں آتا تو اسے اپنے نسخے پر نقل کرتے، کئی باتیں سامنے آتی رہیں اُسے نسخے پر لکھتے رہے، یہاں تک کہ ایک مجموعہ تیار ہو گیا، تو ان کے صاحبزادے محمد رشید رافعی رحمہ اللہ نے ان کی اجازت سے اُن کے نسخے سے وہ تعلیقات نقل کیں، خود علامہ رافعی رحمہ اللہ بھی اپنی وفات سے چند دن پہلے تک اس میں مزید غور و فکر کرتے رہے، بالآخر آپ کو ان کی صحت کاطمینان ہو گیا، یہ استدراکات مستقل دو جلدوں میں الگ سے طبع ہیں۔ ”اتیج ایم سعید“، کراچی کے نسخے میں یہ آخر میں لگے ہیں، رشیدیہ کے نسخے میں جس عبارت پر ان کا کوئی استدراک ہے تو اسی صفحہ پر حاشیہ میں درج ہے، یہ اسلوب افادیت کے لحاظ سے زیادہ مفید ہے۔

۱۲۲ الفتاوی المهدیة فی الواقع المصرية

یہ شیخ محمد عباسی مہدی مصری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۱۵ھ) کے فتاوی کا مجموعہ ہے، ان کے والد کا انتقال جب ہوا تو ان کی عمر اس وقت تین سال تھی، معاشی حالت ناگفتہ بہ تھی، لیکن باسی ہمہ انہوں نے بڑی محنت سے جامع از ہر میں تعلیم حاصل کی، ۲۱ سال کی نو عمری میں ان کو منصب افتاء کا اعزاز حاصل ہوا، نو عمری کے باعث ان پر بہت سارے لوگوں کو حسد بھی پیدا ہوا، لیکن یہ ان کے حق میں اس طور سے مزید مفید ثابت ہوا کہ وہ اپنے فتاوی انتہائی محنت اور جانشناختی سے لکھتے اور حتی الامکان تحقیق کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے دور میں اس منصب کے اہل ترین فرد بن گئے، ۱۴۸۷ھ میں ان کو افتاء کے ساتھ ساتھ شیخ الاسلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، اس منصب کی ذمہ داریوں سے بھی وہ بڑی حسن و خوبی سے عہدہ برآ ہوئے، تقریباً ۵۲ سال تک انہوں نے

افتاء کا کام کیا ہے اور ۱۸۱ سال تک شیخ الاسلام کے عہدہ پر فائز رہے ہیں۔

مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس فتاوی کی ایک خصوصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حنفیہ کی کتابوں میں سے جس کتاب نے وقف کے مسائل کو سب سے زیادہ شرح و بسط اور انضباط کے ساتھ بیان کیا ہے وہ ”فتاوی مہدویہ“ ہے۔ ①

کتب حنفیہ کی ترتیب پر ایک طائرانہ نظر

فقہ حنفی کی اہم کتابوں پر اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو وہ اس ترتیب سے لکھی گئیں۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۰ھ) سے علم فقہ حاصل کیا امام محمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ) نے، آپ نے چھ مشہور کتابیں تصنیف کیں:

۱..... المبسوط ۲..... الجامع الصغیر ۳..... الجامع الكبير

۴..... زيادات ۵..... السیر الصغیر ۶..... السیر الكبير


ان چھ کتابوں کو عموماً اور ”المبسوط“، ”کو خصوصاً سامنے رکھ کر امام حاکم شہید رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۲ھ) نے ایک مجموعہ تیار کیا، جس کا نام ”الكافی فی فروع الحنفیة“، ”رکھا، اس ”الكافی“ کی علامہ سرخسی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ) نے ”المبسوط“ کے نام سے مکمل شرح کنویں سے زبانی املا کروائی، یہ شرح اس وقت ”دار المعرفة“ سے تیس (۳۰) جلدوں میں طبع ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۸ھ) نے امام محمد رحمہ اللہ کی تصانیف کو سامنے رکھ کر ایک مختصر متن ”المختصر للقدوری“ کے نام سے لکھا۔

علامہ برہان الدین مرغینیانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۳ھ) نے ”مختصر القدوری“ اور ”جامع الصغیر“ امام محمد رحمہ اللہ کو سامنے رکھ کر ایک متن مبتدی طلبہ کے لئے تیار کیا، اس کا نام ”بدایۃ المبتدی“، ”رکھا، پھر اس متن کی تفصیلًا شرح لکھی“ ”کفایۃ المنتهی“ کے نام سے اسی (۸۰) جلدوں میں، پھر اس شرح کا اختصار ”الہدایۃ“ کے نام سے چار جلدوں میں کیا۔ پھر ”الہدایۃ“ کو سامنے رکھ کر علامہ تاج الشریعۃ محمود بن صدر الشریعۃ اکبر رحمہ اللہ نے اپنے پوتے

علامہ صدر الشریعتہ اصغر عبید اللہ بن مسعود رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۷ھ) کے حفظ کرنے کے لئے ”الوقایہ“ کے نام سے متن لکھا، پھر اس متن کی شرح علامہ عبید اللہ بن مسعود رحمہ اللہ نے ”شرح الوقایہ“ کے نام سے لکھی، نیز آپ نے ”الوقایہ“ متن کو مختصر کر کے ایک عمدہ انتخاب ”النقاۃ“ کے نام سے کیا۔ اس ”النقاۃ“ کی شرح ملائی قاری رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۱۳ھ) نے ”فتح باب العناية بشرح کتاب النقاۃ“ کے نام سے تین جلدیں میں لکھی۔ اسی طرح علامہ شمس الدین قہستانی رحمہ اللہ (متوفی ۹۵۳ھ) نے ”جامع الرموز“ کے نام سے ”النقاۃ“ کی شرح لکھی۔ ”شرح الوقایہ“ کی شرح علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) نے ”السعایہ فی کشف ما فی شرح الوقایہ“ کے نام سے لکھی۔ نیز ”عمدة الرعایة“ کے نام سے آپ نے اس کتاب کا حاشیہ لکھا۔ علامہ علاء الدین محمد بن احمد سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۵۵۸ھ) نے ”مختصر القدوری“ کو سامنے رکھ کر ترتیب و تہذیب اور اضافات کے ساتھ ایک متن ”تحفة الفقهاء“ کے نام سے لکھا۔ پھر اس متن کی شرح علامہ ابو بکر کاسانی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۸ھ) نے ”بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع“ کے نام سے چھ جلدیں میں لکھی۔ جب یہ شرح مکمل ہوئی تو مصنف نے ماتن کی خدمت میں پیش کی، آپ کو یہ شرح بہت پسند آئی، چنانچہ اپنی فقیہہ بیٹی فاطمہ کا نکاح آپ سے کر دیا، مہر میں بدائع کو مقرر کیا، چنانچہ آپ کے زمانے میں مشہور ہوا ”شرح تحفۃ و تزویج ابنتہ“

چونکہ اس کتاب میں ایک نیا انداز اور عمدہ ترتیب و اسلوب اختیار کیا گیا اس لئے اس کا نام ”بدائع الصنائع“ رکھا۔ علامہ مجدد الدین موصی رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۳ھ) نے ”المختار للفتوى“ کے نام سے ایک مختصر متن لکھا، پھر خود ہی اس کی شرح ”الاختیار للتعلیل المختار“ کے نام سے لکھی، علامہ مظفر الدین احمد بن علی ساعاتی رحمہ اللہ (متوفی ۶۹۳ھ) نے ”مختصر القدوری“ اور ”منظومة الخلافیات“ (یہ منظومہ صاحب عقائد نسفیہ علامہ عمر بن محمد نسفی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۳ھ) کا ہے۔) اس منظومہ کی مفصل شرح علامہ نسفی رحمہ اللہ (متوفی

۱۰۷ھ) نے ”المستصفی“ کے نام سے لکھی، پھر اس کا اختصار ”المصفی“ کے نام سے کیا۔ علامہ ساعاتی رحمہ اللہ نے ”قدوری“ اور ”منظومہ“ کو سامنے رکھ کر ایک متن ”مجمع البحرين“ کے نام سے لکھا، اس میں قدوری کے سب مسائل آگئے ہیں، اس لئے متاخرین نے متون اربعہ (کنز، وقاریہ، مختار، مجمع) کو ترجیح دی ہے، اس میں قدوری کو شامل نہیں کیا، اس لئے کہ قدوری کے تمام مسائل ”مجمع البحرين“ میں آگئے۔ علامہ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم حلی رحمہ اللہ (متوفی ۹۵۶ھ) نے ”ملتقى الأبحر“ کے نام سے ایک متن لکھا، اس میں قدوری، کنز، مختار، وقاریہ کے مسائل کو جمع کیا گیا ہے، اور کچھ مسائل کا اضافہ ”هدایہ“ اور ”مجمع البحرين“ سے بھی کیا ہے، اس متن کی شرح علامہ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المعروف داماد آندری رحمہ اللہ (متوفی ۷۸۰ھ) نے ”مجمع الأنہر شرح ملتقى الأبحر“ کے نام سے دو جلدیں میں شرح لکھی۔ علامہ شمس الدین محمد بن عبد اللہ تبرتاشی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۰۳ھ) نے ”تنویر الأ بصار“ کے نام سے ایک متن لکھا، پھر علامہ حصلفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۸ھ) نے ”الدر المختار شرح تنویر الأ بصار“ کے نام سے اس کی شرح لکھی، پھر اس پر علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے ”حاشیة لکھا جو رد المحتار علی الدر المختار“ کے نام سے معروف ہے، اس کو ”فتاوی شامی“ اور ”حاشیة ابن عابدین“ بھی کہتے ہیں۔ ”الدر المختار“ مرکب توصیفی ہے اس کا معنی ہے ”منتخب موتی“ اور ”رد المختار“ یہ مرکب اضافی ہے مختار اسم مفعول کا صیغہ ہے بمعنی حیران، لہذا ”رد المختار“ کا معنی ہے حیران طلبہ کی رہنمائی مکمل کتاب کا نام یہ ہے ”رد المختار علی الدر المختار فی شرح تنویر الأ بصار“ یعنی حیران طلبہ کو پھیرنا منتخب موتیوں کی طرف جو انکھوں کو روشن کرنے والے ہیں۔ علامہ حسن بن عمار شربلابی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۹ھ) نے ”نور الإيضاح“ کے نام سے ایک متن لکھا، پھر خود اس متن کی شرح ”مراقب الفلاح شرح نور الإيضاح“ کے نام سے کی، اس کتاب پر حاشیہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحطاوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۱ھ) نے لکھا، اس کا نام ”حاشیة الطحطاوی علی مراقب الفلاح“ ہے۔



کتبِ مالکیہ کا تعارف

متونِ مالکیہ

۱..... ”الرسالة“ علامہ ابو محمد عبد اللہ نفرزی قیروانی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۶ھ)

۲..... ”إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك“

شیخ عبدالرحمن بن محمد بن عسکر بغدادی رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۷ھ)

۳..... ”مختصر خلیل“ علامہ ضیاء الدین خلیل بن اسحاق بن شعیب جندی رحمہ اللہ (متوفی ۲۷۷ھ)

۴..... ”المرشد المعین على الضروري من علوم الدين“ شیخ عبد الواحد بن احمد بن عاشر اندری رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۲۰ھ)

۵..... ”أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك“ شیخ احمد بن محمد دردیر عدوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۰ھ)

۶..... ”مجموع الأمير أو مختصر الأمير“ علامہ محمد بن احمد بن عبد القادر مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۲ھ)

۱..... الرسالة

علامہ ابو محمد عبد اللہ بن عبدالرحمن قیروانی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۶ھ) نے اس متن میں نہایت اختصار کے ساتھ صرف معروف مسائل ذکر کئے ہیں، دلائل ذکر نہیں کئے، یہ متن (۱۶۰) صفحات پر مشتمل ہے، جو ”دار الفکر“ سے طبع ہے۔

”الرسالة“ کی شروح، حواشی و منظومات

(۱) تنظیم مشکلات الرسالة

شیخ محمد بن احمد بن غازی عثمانی رحمہ اللہ (متوفی ۹۱۹ھ)

(۲) کفاية الطالب الربانی لرسالة ابن أبي زید القیروانی

امام ابو الحسن علی بن محمد منوفی مصری رحمہ اللہ (متوفی ۹۳۹ھ)

(۳) تنوير المقالة فی حل ألفاظ الرسالة

امام ابو عبد اللہ محمد بن ابراهیم بن خلیل مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۹۳۲ھ)

(۴) الفواكه الدوانی علی رسالت ابن أبي زید القیروانی

شیخ احمد بن غنیم بن سالم نفراؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۲۰ھ)

(۵) شرح الرسالة

امام ابو عبد اللہ محمد بن قاسم جوسوس رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۸۲ھ)

(۶) الشمر الدافی فی تقریب المعانی لرسالة ابن أبي زید القیروانی

شیخ صالح بن عبد السمیع الابنی الاذہری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۳۵ھ)

(۷) مسالک الدلالۃ علی مسائل الرسالة

امام ابو الفیض احمد بن محمد بن صدیق غماری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۸۰ھ)

(۸) الفتح الربانی علی نظم رسالت ابن أبي زید القیروانی


شیخ محمد بن احمد شنقبطی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۸۹ھ)

۲..... إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه

الإمام مالك

شیخ عبد الرحمن بن محمد بن عسکر بغدادی رحمہ اللہ (متوفی ۷۳۲ھ) مقدمہ میں سبب

تالیف اور اپنے اسلوب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:



ألفه بناء على سؤال ولده أن يضع له كتاباً يكون كثرة معانيه وجيز اللفظ، سهل التناول والحفظ فاستخرت الله تعالى وجمعت له هذا المختصر وأودعته جزيلاً من الجواهر والدرر.


ترجمہ: (میں نے یہ کتاب) اپنے بیٹے کی فرماش پر لکھی، اس میں الفاظ مختصر ہیں اور معانی کی کثرت ہے، اس کتاب کو لینا (سمجھنا) اور حفظ کرنا آسان ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور اس مختصر (کتاب) میں (مسائل) کو جمع کیا، میں نے اس میں کثرت کے ساتھ جواہر اور موتیوں کو پروردیا ہے۔ ①

مصنف نے اس متن میں اختصار کے ساتھ مبتدی طلباء کے حفظ کے لئے نفس مسائل کو ذکر کیا ہے، (۱۳۰) صفحات پر مشتمل یہ متن ”مصطفیٰ البابی حلبي“ مصر سے طبع ہے۔ رقم کی معلومات کے مطابق اس کتاب کی مطبوعہ شروعات میں صرف ایک شرح طبع ہے۔

”إرشاد السالك“ کی شرح

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك

امام ابو بکر بن حسن بن عبد اللہ کشنوی رحمہ اللہ (متوفی ۷۳۹ھ) نے مسائل کی تقطیع کر کے ہر مسئلہ کے ساتھ اس سے متعلق دیگر فروعات کا ذکر کیا ہے، مذاہب اور دلائل اختصار کے ساتھ ذکر کئے ہیں، جامجا فقہاء مالکیہ کی آراء اور کتب مالکیہ سے باب سے متعلق دیگر مسائل ذکر کئے ہیں، یہ شرح حلٰ کتاب اور فقہاء مالکی کی تفہیم کے لئے نہایت موزوں ہے۔ یہ شرح تین جلدیں میں ”دار الفکر“ سے طبع ہے۔



۳..... مختصر خلیل

امام ابو محمد ضیاء الدین خلیل بن اسحاق بن موسی جندی رحمہ اللہ (متوفی ۷۷۷ھ) نے بیس سال سے زائد عرصہ میں یہ متن لکھا، یہ تقریباً (۱۴۰۰) مسائل پر مشتمل ہے، مصنف نے اس میں فقہ مالکی کے راجح اقوال کو ذکر کیا ہے، یہ کتاب جم کے لحاظ سے مختصر ہے مگر علم و فوائد اور معلومات کے لحاظ سے عمیق سمندر ہے، (۲۶۲) صفحات پر مشتمل یہ متن ”دار الحدیث“، ”قاہرہ“ سے طبع ہے۔


”مختصر خلیل“ کی شروح، حواشی و منظومات

(۱) مواہب الجلیل فی شرح مختصر خلیل

امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن طرابلسی رحمہ اللہ (متوفی ۹۵۲ھ) کی یہ شرح سب سے جامع اور مدلل ہے، مصنف قوسمیں کے درمیان متن لکھ کر ایک ایک کلمہ کی تشریع کرتے ہیں، فقهاء کے مذاہب اور دلائل ذکر کرتے ہیں، ہر قول کو اس کے قائل کے ساتھ ذکر کرنے کا التزام کرتے ہیں، دلائل پر مناقشہ کرتے ہیں، راجح قول کی تعین کرتے ہیں، مالکیہ کے ہاں فتویٰ اور قضاۓ کے لحاظ سے معتمد کتاب ہے۔ یہ کتاب چھ جلدیوں میں ”دار الفکر“ سے طبع ہے۔

(۲) التاج واللکلیل لمختصر خلیل

امام ابو عبد اللہ محمد بن یوسف عبد ربی رحمہ اللہ (متوفی ۷۸۹ھ) نے اس شرح میں فقہ مالکی کے فروع کو بالتفصیل ذکر کیا ہے، اس کتاب میں فقهاء کے مذاہب اور دلائل کی طرف تعرض نہیں کیا، البتہ ہر مسئلہ کے تحت اقوال ذکر کر کے راجح کی تعین کی ہے، یہ شرح آٹھ جلدیوں میں ”دار الكتب العلمية“ سے طبع ہے۔



(۳) شرح الزرقانی علی مختصر خلیل

امام عبدالباقي بن یوسف بن احمد زرقانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۹۹ھ) کی یہ شرح حل کتاب کے لحاظ سے نہایت مفید ہے، اس میں کتاب کے ہر ہر مسئلہ کو ذکر کر کے اس کی توضیح کی ہے، البتہ مذاہب اور دلائل کی طرف تعریض نہیں کیا، ہر باب کے شروع میں مبادیات اور ربط بین الابواب کا اہتمام کیا ہے۔ یہ شرح آٹھ جلدیں میں ”دار الكتب العلمية“ سے طبع ہے۔

اس شرح پر علامہ محمد بن حسن بن مسعود بنانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۹۲ھ) نے حاشیہ لکھا ہے جو ”الفتح الربانی فيما ذهل عنه الزرقانی“ کے نام سے اصل کتاب کے ساتھ طبع ہے۔

(۴) شرح الخرسی علی مختصر خلیل


امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن علی خرشی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۰۱ھ) نے اس کتاب کی دو شرخیں لکھیں، ایک مفصل اور دوسری مختصر، یہ مبتدی طلاباء کے لئے اختصار کے ساتھ شرح ہے، اس میں سہل انداز سے نفس مسائل کو ذکر کیا ہے، یہ شرح چار جلدیں میں ”دار صادر“ بیروت سے طبع ہے۔

(۵) إتحاف المقتني بالقليل في شرح مختصر خليل

امام ابوالعباس عبد العزیز بن رشید ہلالی تخلیماً سی رحمہ اللہ (متوفی ۵۷۱ھ) کی نہایت مختصر شرح ہے، جو دو جلدیں میں ”المطبعة الفاسية“ سے طبع ہے۔

(۶) الشرح الكبير على مختصر خليل

شیخ ابوالبرکات محمد الدردیر عدوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۰۱ھ) نے نہایت اختصار کے ساتھ شرح کی ہے، کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:



وهو شرح مختصر على المختصر، اقتصر فيه على فتح مغلقه، وتقيد مطلقه، وعلى المعتمد من أقوال المذهب.

ترجمہ: یہ ”مختصر خلیل“ کی مختصر شرح ہے، جس میں مغلق مقامات کے حل اور مطلق مقامات کی تقید پر اکتفاء کیا ہے اور مذهب کے اقوال میں قابلِ اعتماد (راجح) قول کو ذکر کیا ہے۔

یہ شرح ”مطبعة السعادة“ مصر سے چار جلدیں میں طبع ہے۔

(۷) الإَكْلِيلُ شَرْحُ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ

شیخ محمد بن محمد بن احمد بن عبد القادر مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۲ھ) نے متن کے مغلق مقامات کو حل کیا ہے اور غریب الفاظ کیوضاحت کی ہے اور بقدر ضرورت مسائل کی توضیح کی ہے، یہ شرح ایک جلد میں ”مکتبۃ القاهرۃ“ مصر سے طبع ہے۔

(۸) مَنْحُ الْجَلِيلِ عَلَى مُخْتَصَرِ سَیدِيِّ خَلِيلٍ

شیخ محمد بن احمد بن محمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۹۹ھ) نے متن کے مسائل کی تقطیع کر کے متوسط انداز میں ان کی توضیح کی ہے۔ یہ شرح ”مکتبۃ النجاح“ طرابلس سے چار جلدیں میں طبع ہے۔

(۹) جواہر الإَكْلِيلِ عَلَى مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ خَلِيلٍ

شیخ صالح بن عبد السمیع ابی ازہری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۵ھ) نے اختصار کے ساتھ حل کتاب کیا ہے، مذاہب، دلائل اور دیگر فروعات ذکر نہیں کیں، یہ شرح دو جلدیں میں ”مصطفیٰ البابی حلبی“ مصر سے طبع ہے۔

(۱۰) مَوَاهِبُ الْجَلِيلِ مِنْ أَدْلَةِ الْحَلِيلِ

شیخ احمد بن احمد مختار شنقبطي رحمہ اللہ نے اس شرح میں ”مختصر خلیل“ متن کے مسائل

کے دلائل ذکر کئے ہیں، اس میں روایات و آثار کا بیش بہاذ خیرہ ہے، یہ کتاب چار جلدیں میں ”دار إحياء التراث العربي“ سے طبع ہے۔

۳..... المرشد المعین علی الضروری من علوم الدین

شیخ عبدالواحد بن احمد بن علی اندری رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۲۰ھ) کا یہ متن منظوم ہے، اس کے شروع میں دو مقدمہ ہیں، پہلے مقدمہ میں اشعار کے اعتقاد کے مطابق عقیدوں کا ذکر ہے، اور دوسرے مقدمے میں اصول فقہ کا ذکر ہے، پھر طہارت، صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج اور آخر میں تصوف سے متعلق مسائل و فوائد کو (۳۱۲) اشعار میں ذکر کیا ہے۔ یہ متن ”دار إحياء الكتب العربية“ مصر سے طبع ہے۔

”المرشد المعین“ پر لکھی گئی شروحات

(۱) الدر الشمین والموارد المعین

شیخ محمد بن احمد بن محمد مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷۲ھ) نے اختصار کے ساتھ ان اشعار کی توضیح کی ہے، (۸۸) صفحات پر مشتمل یہ کتاب ”مصطفیٰ البابی حلبي“ سے طبع ہے۔

(۲) المحبل المتنین علی نظم المرشد المعین

شیخ محمد بن عبد اللہ فتحی مرکشی رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ اشعار کی تشریح کی ہے، اور اشعار میں موجود عقائد، اصطلاحات اور مسائل کو الگ الگ کر کے ان کی توضیح کی ہے۔ یہ کتاب ”المکتبة الثقافية“ بیروت سے طبع ہے۔

(۳) الفتح المتنین علی المرشد المعین

شیخ حسن فضل اللہ بن نور نے متوسط انداز میں اشعار کی توضیح کی ہے، (۲۲۲) صفحات پر مشتمل یہ کتاب ”مطبعة محمد بن علی صبیح“ مصر سے طبع ہے۔

۵..... أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

شیخ احمد بن محمد در دری عدوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۰۱ھ) مقدمہ میں اس متن کا تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

اقتصرت فيه على بيان معانى ألفاظه، يسهل فهمه على المبتدئين.
مصنف نے مبتدئ طلاب کے لئے نہایت سہل اسلوب میں امہات مسائل کا ذکر کیا ہے۔ تمام متون میں تسهیل کے لحاظ سے یہ سب سے ممتاز ہے۔ یہ متن ”مطبعة الاستقامة“ قاهرہ سے طبع ہے۔

”أقرب المسالك“ پر کچھ گئی شروح و حواشی

(۱) الشرح الصغير

ماتن نے خود اپنی کتاب کی مختصر شرح لکھی، اس میں صرف الفاظ کے معانی کے بیان پر اکتفاء کیا، مذاہب، دلائل، مسائل اور تفریعات ذکر نہیں کیں، یہ کتاب ”مطبعة محمد بن علی صبیح“ سے طبع ہے۔

(۲) بلغة السالك لأقرب المسالك

امام ابو العباس احمد بن محمد خلوتی صاوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۱ھ) کی یہ کتاب ”الشرح الصغير“ کی شرح ہے، یہ متوسط انداز میں شرح ہے، اس میں مصنف نے الفاظ لغویہ اور غریب الفاظ کی وضاحت کی ہے۔ اس میں فقه مالکی کے علاوہ دیگر مذاہب اور فقہاء کی آراء کا ذکر نہیں ہے، اہم مسئلہ میں فقه مالکی کے اقوال و روایات کو ذکر کیا ہے اور راجح قول کی تعین بھی کی ہے۔ اختصار کے ساتھ دلائل بھی ذکر کئے ہیں، یہ کتاب فقه مالکی کے معتمد مراجع میں سے ہے، فقه مالکی کا کوئی طالب علم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یہ اہل علم کے ہاں ”حاشیۃ الصاوی علی الشرح الصغير“ کے نام سے معروف ہے۔ یہ شرح چار



جلدوں میں ”دار المعرف“ سے طبع ہے۔

علامہ محمد بن ابراہیم بن مبارک الحسائی مالکی رحمہ اللہ نے اس شرح پر حاشیہ لکھا ہے جو ”التعليق الحاوی لبعض البحوث على شرح الصاوی“ کے نام سے اصل کتاب کے ساتھ ”مطبعة عیسیٰ البابی حلبی“ سے طبع ہے۔

(۳) تبیین المسالک لتدريب السالک إلى أقرب المسالک
شیخ محمد شیبانی بن محمد بن احمد شدقیطی رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ نفس مسائل کی وضاحت کی ہے، اور باب کی مناسبت سے دیگر کتب مالکیہ سے مسائل بھی ذکر کئے ہیں، یہ کتاب چار جلدوں میں ”دار الغرب“ بیروت سے طبع ہے۔

۶ مجموع الأُمَّيْر

شیخ محمد بن محمد بن احمد بن عبد القادر ملکی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۲ھ) اس متن میں ”مختصر خلیل“ کے طرز پر چلے ہیں، البتہ انہوں نے راجح قول کے ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور اس متن میں دیگر اہم فقہی مسائل کا بھی ذکر کیا ہے، جو ”مختصر“ میں نہیں تھے، اس لئے اس کو ”المجموع“ کہتے ہیں کہ مصنف نے دیگر کتب سے اس میں اضافہ کیا ہے۔ اس متن کو ”مختصر الأُمَّيْر“ بھی کہا جاتا ہے۔ مصنف نے خود اپنے اس متن پر حاشیہ بھی لکھا جو ”ضوء الشموع على المجموع“ کے نام سے اہل علم کے درمیان معروف ہے۔ یہ متن اور حاشیہ ”المطبعة الخيرية“ مصر سے طبع ہے۔

مصنف کی سوانح اور اس کتاب کے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے ”الشيخ الأُمَّيْر و أثره في الفقه المالكي“ کا مطالعہ کریں۔

کتب شافعی کا تعارف

شافعی کے کتب فقہیہ کے متون سات (۷) ہیں، عموماً فقہ شافعی میں جتنی بھی کتب لکھی گئی ہیں وہ انہی سات متون سے متعلق ہیں، یا ان کی شروح یا حواشی، یا تعلیقات، یا اختصارات، یا منظومات، یا تخریجات، یا دلائل، یا تصحیحات وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ شافعی کے متون درج ذیل ہیں:

متون شافعی

- ۱..... ”التنبیہ فی الفقہ الشافعی“، امام ابوسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۴ھ)
- ۲..... ”الغاۃ والتقریب“، امام ابوشجاع احمد بن حسین اصفہانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۳ھ)
- ۳..... ”منہاج الطالبین و عمدة المفتین“، امام ابووزکریا محبی الدین تھجی بن شرف نووی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۶ھ)
- ۴..... ”إرشاد الغاوی فی مسالک الحاوی“، امام شرف الدین مقری رحمہ اللہ (متوفی ۷۸۳ھ)
- ۵..... ”روض الطالب“، امام شرف الدین مقری رحمہ اللہ (متوفی ۷۸۷ھ)
- ۶..... ”الزبد فی الفقہ الشافعی“، امام ابوالعباس احمد بن حسین بن حسن المعروف ابن رسلان رحمہ اللہ (متوفی ۸۲۳ھ)
- ۷..... ”منهج الطالب“، شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمہ اللہ (متوفی ۹۲۶ھ)

۱..... التنبیہ فی الفقہ الشافعی

امام ابوسحاق شیرازی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۴ھ) کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

هذا كتاب مختصر في أصول مذهب الشافعى رحمه الله، إذا قرأه
المبتدى وتصوره، تنبه به على أكثر المسائل، وإذا نظر فيه المنتهى، تذكر
به جميع الحوادث إن شاء الله تعالى.

ترجمہ: یہ کتاب مذهب شافعی کے اصول پر مشتمل مختصر کتاب ہے، مبتدی طالب علم
جب اس کو پڑھے اور غور و فکر کرے تو اکثر مسائل سے واقف ہو جائے گا، اور اگر منتھی طالب
علم اس میں غور و فکر کرے تو تمام بیش آمدہ سے آگاہ ہو جائے گا۔

مصنف نے نہایت اختصار کے ساتھ اس کتاب میں صرف مسائل ذکر کئے ہیں، اس
کا آغاز ”کتاب الطهارة“ سے اور اختتام ”کتاب الشهادات“ پر ہے، مبتدی طلباء
کے لئے یہ نہایت مفید ہے۔ (۲۸) صفحات پر مشتمل یہ کتاب ”عالم الكتب“ بیروت
سے طبع ہے۔

”التنبيه في الفقه الشافعى“ سے متعلق لکھی گئی کتابیں
اس کتاب کی لغات اور کلمات کے مادے اور معانی سے متعلق امام نووی رحمہ اللہ (متوفی
۶۷۶ھ) نے ”تحریر ألفاظ التنبيه“ کے نام سے کتاب لکھی۔ نیز امام نووی رحمہ اللہ
نے اس کے مسائل کی تصحیح پر ”العمدة في تصحیح التنبيه“ کے نام سے کتاب لکھی۔
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (متوفی ۷۷۴ھ) نے اس کتاب میں موجود مسائل کے دلائل
ذکر کئے، یہ کتاب ”إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه“ کے نام سے ”مؤسسة
الرسالة“ سے دو جلدیں میں طبع ہے۔

٣ الغایہ والتقریب

یہ امام ابو شجاع احمد بن حسین اصفہانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۳ھ) کی تصنیف ہے، ان

کی ولادت (۴۳۳ھ) میں ہوئی اور وفات (۵۹۳ھ) میں ہوئی، ان کی عمر ایک سو سال تھی۔ مصنف اس کتاب کا سببِ تالیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سألهن بعض الأصدقاء حظفهم الله تعالى أن أعمل مختصرًا في الفقه على مذهب الإمام الشافعى رحمه الله فى غاية الاختصار ونهاية الایجاز ليقرب على المتعلم درسة ويسهل على المبتدى حفظه.

ترجمہ: مجھ سے میرے بعض دوستوں نے اس بات کی فرمائش کی کہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ کے مطابق ایک نہایت مختصر کتاب لکھوں تاکہ پڑھنے والوں کے لئے سہولت ہو اور مبتدی طلبہ کے لئے اُس کا حفظ کرنا آسان ہو۔ ①

① مقدمہ المصنف: ص ۲

یہ (۴۸) صفحات پر مشتمل رسالہ ہے، جس میں مصنف نے نہایت اختصار کے ساتھ اہم مسائل بیان کئے ہیں، یہ رسالہ ”عالم الكتب“ بیروت سے طبع ہے۔

”الغاية والتقریب“ کی شروح، حواشی اور منظومات کی ایک شوافع علماء نے اس متن کی شروح لکھی، ان میں مطبوعہ شروح درج ذیل ہیں:

(۱) **کفاية الأخيار في حل غاية الاختصار**

امام ابو بکر بن محمد حسینی حصني دمشقی رحمہ اللہ (متوفی ۸۲۹ھ)


(۲) **فتح القریب المจیب فی شرح ألفاظ التقریب**

امام ابو عبد اللہ محمد بن قاسم غزی رحمہ اللہ (متوفی ۹۱۸ھ)

(۳) **النهاية فی شرح الغایة**

امام ابو عبد اللہ محمد ولی الدین البصیر رحمہ اللہ (متوفی ۹۲۷ھ)

(۴) **الإفناع فی حل ألفاظ أبي شجاع**



علامہ خطیب محمد شری بنی رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۷ھ)

(۵) التهذیب فی أدلۃ متن الغایة والتقریب

دکتور مصطفیٰ دیب البغا

علامہ شرف الدین یحییٰ بن شیخ نور الدین رحمہ اللہ (متوفی ۸۹۰ھ) نے ”الغایة والتقریب“ کے مسائل کاظم کی صورت میں لکھا، اور اس کا نام رکھا ”نهاية التدریب فی نظم غایة التقریب“ یہ نظم (۱۶۳) صفحات پر ”دار إحياء الكتب العربية“ مصر سے طبع ہے۔ اس نظم کی شرح علامہ احمد بن حجازی بن بدیر رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۸ھ) نے لکھی، اور اس کا نام رکھا ”تحفة الجیب بشرح نظم غایة التقریب“ یہ شرح ”مصطفیٰ البابی حلبي“ مصر سے طبع ہے۔

۳..... منهاج الطالبین و عمدة المفتیین


امام نووی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۶ھ) نے نہایت عام فہم انداز میں مبتدی طلباۓ کے لئے اس میں صرف مسائل ذکر کئے ہیں، ”کتاب الطهارة“ سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے، اور ”کتاب أمہات الأولاد“ پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ (۳۷۰) صفحات پر مشتمل یہ کتاب ایک جلد میں ”دار الفکر“ سے طبع ہے۔

”منهاج الطالبین“ کی شروح و حواشی

اس کتاب کی جامعیت اور افادیت کے پیش نظر کئی ایک اہل علم نے اس کی شروح لکھی، جن میں مطبوعہ شروح درج ذیل ہیں:

(۱) تحفة المحتاج بشرح المنهاج

امام شہاب الدین احمد بن حجر یعنی رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۷ھ)



(۲) مفہومی المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج

علامہ محمد بن محمد شریب بن رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۹ھ)

(۳) نہایۃ المحتاج إلى شرح المنهاج

شیخ شمس الدین محمد بن احمد بن حمزہ علی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۰۳ھ)

(۴) السراج الوهاج شرح متن المنهاج

شیخ محمد زہری غمراوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۳۷ھ)

(۵) زاد المحتاج بشرح المنهاج

شیخ عبداللہ بن شیخ حسن کوہنی رحمہ اللہ

”منهاج الطالبین“ کے مسائل کے دلائل پر لکھی گئی کتابیں

”منهاج الطالبین“ کی جامعیت اور مقبولیت کی وجہ سے اس کتاب کے مختلف پہلوؤں پر اہل علم نے خدمات سر انجام دیں، اس کتاب کے مسائل کے دلائل پر لکھی گئی کتابیں میں مطبوعہ کتابیں دو ہیں:

(۱) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

علامہ ابن الملقن رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۳ھ)


(۲) دلائل المنهاج من کتاب رب العلمین وسنة سید المرسلین

شیخ عبد الملک بن منی باری حلبی رحمہ اللہ (متوفی ۸۳۹ھ)

”منهاج الطالبین“ کی اصطلاحات، رموز اور لغات پر لکھی گئی کتابیں

(۱) الابتهاج فی بیان اصطلاح المنهاج

شیخ احمد بن ابی بکر بن سمیط علوی حضری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۱۵ھ)



(۲) سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج

شیخ احمد میہری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۰ھ)

(۳) دقائق المنهاج

امام نووی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۶ھ)

”منهاج الطالبین“ سے متعلق لکھی گئی وہ کتابیں جواب تک طبع
نہیں ہوئیں

(۱) الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعانى واللغات
علامہ ابن الهمقون رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۳ھ) کی اس کتاب کا مخطوطہ ”مکتبہ بلدیہ
اسکندریہ“ میں رقم (۲۲۹۳) کے تحت موجود ہے۔

(۲) عجالۃ المحتاج إلى توجیہ المنهاج

علامہ ابن الهمقون رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۳ھ) کی اس کتاب کا مخطوطہ ”مکتبہ ظاہریہ“
میں رقم (۲۰۰۲) کے تحت موجود ہے۔ اس کتاب کی شرح علامہ سراج الدین عمر بن محمد بیکنی
رحمہ اللہ (متوفی ۸۸۷ھ) نے ”الصقالۃ فی زوائد العجالۃ“ کے نام سے لکھی، اس
کتاب کا نسخہ ”خزانۃ الآصفیۃ“ میں رقم (۱۱۶۰) کے تحت موجود ہے۔

(۳) التاج فی إعراب مشکل المنهاج

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (متوفی ۹۱۱ھ) اس کتاب کا مخطوطہ ”دار الكتب
المصریۃ“ میں رقم (۳۲۰) کے تحت موجود ہے۔

۳..... ارشاد الغاوی فی مسائل الحاوی

علامہ شرف الدین مقری رحمہ اللہ (متوفی ۸۳۷ھ) کی کتاب کے نام میں ”الحاوی“

سے مراد علامہ نجم الدین عبدالغفار قزوینی رحمہ اللہ (متوفی ۶۶۵ھ) کی ”الحاوی الصغیر“ ہے

علامہ مقرر رحمہ اللہ اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:

لَمْ يَكُنْ فِي الْمَذَهَبِ مَصْنُوفٌ أَوْ جُزٌّ وَلَا أَعْجَزٌ مِّنَ الْحَاوِي لِإِلَامِ عَبْدِ
الْغَفَارِ قَزوِينِيِّ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَنْكُرُ فَضْلَهُ وَلَا يَخْتَلِفُ اثْنَانٌ فِي أَنَّهُ مَا
صَنَفَ قَبْلَهُ مُثْلُهُ.

ترجمہ: مذهب (شافعی) میں امام عبدالغفار قزوینی رحمہ اللہ کی کتاب ”الحاوی“ سے زیادہ مختصر اور مجھر کتاب نہیں لکھی گئی، اس کتاب کے فضل و کمال کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور نہ دو اہل علم کی آراء اس میں مختلف ہو سکتی ہیں کہ مذهب میں اس سے پہلے اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ①


”إرشاد الغاوی“ میں نوے ہزار (۹۰۰۰) مسائل کا ذکر ہے، ساٹھ ہزار (۶۰۰۰) مسائل کا ذکر منطق میں ہے اور تیس ہزار (۳۰۰۰) مسائل مفہوم سے سمجھ آرہے ہیں۔ ②

”إرشاد الغاوی“ کی شروحات اس کتاب کی نافعیت کی وجہ سے کئی ایک علماء نے اس کی شرح لکھی، جن میں معروف شروح درج ذیل ہیں:

(۱) إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي
یہ شرح مصنف نے خود لکھی ہے جو چار جلدیں میں طبع ہے۔

① إخلاص الناوي: ج ۲ ص ۷۲

② مقدمة إخلاص الناوي: ج ۱ ص ۱۲



(۲) فتح الجواد بشرح الإرشاد

علامہ ابن حجر یتیمی رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۳ھ)

(۳) الإمداد بشرح الإرشاد

علامہ ابن حجر یتیمی رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۳ھ) یہ شرح مذکورہ بالشرح کا اختصار ہے، جو مخطوطہ کی صورت میں ”دار الكتب المصرية“ میں رقم (۱۲۷۲) کے تحت موجود ہے۔

(۴) الإسعاد شرح الإرشاد


علامہ کمال الدین بن شریف مقدسی رحمہ اللہ (متوفی ۹۰۳ھ) یہ شرح مخطوطہ کی صورت میں ”دار الكتب العربية“ میں رقم (۱۲۸۳) کے تحت موجود ہے۔ ①

۵..... روض الطالب

امام شرف الدین مقری رحمہ اللہ (متوفی ۸۳۷ھ) کی یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۶ھ) کی ”روضۃ الطالبین“ کا اختصار ہے، اس متن کی سب سے جامع اور مفصل شرح شیخ الاسلام ابو الحجی زکریا بن محمد انصاری رحمہ اللہ (متوفی ۹۲۶ھ) کی ”أسنی المطالب شرح روض الطالب“ ہے، جو چار جلدوں میں ”دار الكتاب الاسلامی“ سے طبع ہے۔

۶..... الزبد فی الفقه الشافعی

علامہ ابن رسلان شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۸۲۲ھ) نے اس متن میں کمال کیا ہے کہ فقہ شافعی کے اہم مسائل کو فقہی ابواب کی ترتیب پر اشعار کی صورت میں جمع کیا ہے۔ اس میں تقریباً ایک ہزار چالیس (۱۰۳۰) اشعار ہیں۔ (۳۳۵) صفحات پر مشتمل یہ کتاب ”دار المعرفة“، بیروت سے طبع ہے۔



”الزبد فی الفقه الشافعی“ کی شروحات

ان اشعار کی معروف شروح درج ذیل ہیں:

(۱) مواهب الصمد فی حل ألفاظ الزبد

علامہ احمد بن حجازی فشنی رحمہ اللہ (متوفی ۷۸۹ھ)

(۲) غایۃ البیان شرح زبد ابن رسلان

علامہ شمس الدین محمد بن احمد رملی انصاری رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۰۳ھ)

(۳) فتح المنان شرح زبد ابن رسلان

شیخ محمد بن علی بن محسن جیشی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۸۳ھ) یہ تینوں شروح مطبوعہ ہیں۔

(۴) فیض المنان بشرح زید ابن رسلان

شیخ یوسف بن محمد طباخ رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۶ھ) اس شرح کا مخطوطہ نسخہ مکتبہ

الباز، میں رقم (۱۲۰) کے تحت موجود ہے۔

..... منهج الطالب

شیخ الاسلام ابو یحییٰ زکریا بن محمد بن احمد انصاری رحمہ اللہ (متوفی ۹۲۶ھ) کا یہ متن

اختصار ہے امام نووی رحمہ اللہ کی ”منهج الطالبین“ کا، اس کتاب میں مصنف نے

معروف مسائل کو نہایت سہل انداز میں ذکر کیا، غیر معتمد اور مجرور اقوال کو حذف کیا ہے۔

(۲۰۰) صفحات پر مشتمل یہ متن ”دار الكتب العلمية“ سے طبع ہے۔

”منهج الطالب“ اور ”فتح الوهاب“ کی شروحات

اس متن کی شرح مصنف نے تفصیل کے ساتھ ”فتح الوهاب“ بشرح منهج

الطالب“ کے نام سے لکھی، یہ شرح دو جلدوں میں ”دار الفکر“ سے طبع ہے۔


مصنف کی اس شرح کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، کئی ایک علماء نے اس شرح پر حواشی و تعلیقیات لکھیں، جن میں معروف حواشی درج ذیل ہیں:

(۱) فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطالب

علامہ سلیمان بن عمر بن جبلی المعروف علامہ جمل رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۰۳ھ) یہ حاشیہ ”المطبعة الميمنية“ سے طبع ہے۔ یہ حاشیہ ”حاشیۃ الجميل علی شرح المنهج“ کے نام سے بھی طبع ہے۔

(۲) حاشیۃ البیجرمی علی شرح منهج الطالب

علامہ سلیمان بن محمد بن عمر بن جبلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۲۱ھ) کا یہ حاشیہ ”دار الكتب العربية“ سے چار جلدؤں میں طبع ہے۔



کتب حنابلہ کا تعارف

متوں حنابلہ

حنابلہ کے متوں چار ہیں:

(۱) ”مختصر الخرقی“، امام ابوالقاسم عمر بن حسین خرقی رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۲ھ)

(۲) ”عمدة الفقه“، علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۰ھ)

(۳) ”زاد المستقنع“، علامہ موسیٰ بن احمد جحاوی مقدسی رحمہ اللہ (متوفی ۹۶۸ھ)

(۴) ”دلیل الطالب“، علامہ مرعیٰ بن یوسف مقدسی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۳۳ھ)

عموماً فقه حنبیلی میں جتنی بھی کتب لکھی گئی ہیں وہ انہی چار متوں سے متعلق ہیں، یا ان کی شروح یا حواشی یا تعلیقات یا اختصارات یا منظومات یا تخریجات یا دلائل پر مشتمل ہیں۔

۱ مختصر الخرقی

امام القاسم عمر بن حسین خرقی رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۲ھ) کا یہ متن فقہی ابواب کی ترتیب پر ہے، اور اس میں نہایت اختصار کے ساتھ معروف مسائل کا ذکر ہے، دلائل کا ذکر نہیں ہے، (۱۶۷) صفحات پر مشتمل یہ متن ”دار الصحابة للتراث“، مصر سے طبع ہے۔

”مختصر الخرقی“ کی شروحات

(۱) شرح القاضی أبی یعلیٰ علیٰ مختصر الخرقی

امام ابویعلیٰ محمد بن حسین بن فراء بغدادی رحمہ اللہ (متوفی ۲۵۸ھ) کی یہ شرح شیخ سعود بن عبد اللہ روثی کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ ”جامعۃ أم القریٰ“، مکہ مکرمہ سے طبع ہے۔

(۲) کتاب المقنع فی شرح مختصر الخرقی

امام ابو علی حسن بن احمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۲ھ) کی یہ شرح دکتور عبد العزیز بن سلیمان کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ چار جلدوں میں ”مکتبۃ الرشد“، ریاض سے طبع ہے۔

(۳) شرح الزر کشی علی مختصر الخرقی

امام شمس الدین محمد بن عبد اللہ زرکشی رحمہ اللہ (متوفی ۲۷۷ھ) نے اس شرح میں مسائل کو قرآن و سنت سے مبرہن کیا ہے، اس میں (۳۹۳۶) احادیث کا ذکر ہے، مصنف ہر مسئلہ کو ذکر کر کے روایات و آثار سے اُس کی دلیل ذکر کرتے ہیں۔ سات جلدوں پر مشتمل یہ شرح ”دار العیکان“، ریاض سے طبع ہے۔

(۴) المغنی

امام موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن محمد قدامہ مشقی حنبلی رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۰ھ) کی یہ شرح فقہ المقارن اور مسائل فقہیہ کا انسائیکلو پیڈیا ہے، مصنف ہر ہر مسئلہ کی شرح کرتے ہیں اور قرآن و سنت اور آثار سے دلائل ذکر کرتے ہیں، فقہاء کے مذاہب اور دلائل بغیر کسی تعصب کے ذکر کرتے ہیں، جس مسئلہ کی دلیل قوی سمجھتے ہیں اُسے ترجیح دیتے ہیں۔ ”مسئلة“ کا عنوان ذکر کر کے فقہاء کے مذاہب و دلائل اور پھر ”لنا“ کہہ کر فقہ حنبلی کے دلائل اور وجہ ترجیح ذکر کرتے ہیں، اس میں کل (۸۸۸۰) مسائل کا ذکر ہے، فقہ حنبلی کی سب سے جامع اور مدلل بھی کتاب ہے۔ یہ کتاب عبد اللہ بن عبد الحسن ترکی کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ پندرہ جلدوں میں ”دار هجر“ سے طبع ہے۔

(۵) حاشیة مختصر الإمام أبي القاسم الخرقی فی الفقه علی مذهب

الإمام المبجل أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

شیخ محمد بن عبد الرحمن بن حسین آل اسماعیل کی یہ شرح ”مکتبۃ المعارف“، ریاض سے طبع ہے۔

(۶) كفاية المرتقة إلى معرفة فرائض الخرقى
 شیخ عبدالقدار بن احمد بن بدران رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۶ھ) کی یہ شرح "المکتبۃ
 السلفیۃ"، مشق سے طبع ہے۔

۲ عمدة الفقه

امام موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد قدامہ مقدسی رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۰ھ) کا مختصر
 متن ہے، مصنف نے اس میں نہایت اختصار کے ساتھ صرف راجح مسائل ذکر کئے ہیں،
 تاکہ متعلّمین کے لئے سمجھنا اور حفظ کرنا آسان ہو، (۱۵۲) صفحات پر مشتمل یہ متن
 "المکتبۃ العصریۃ" سے طبع ہے۔

"عمدة الفقه" پر کچھی گئی شروح و حواشی


(۱) العدة شرح العمدة

شیخ بهاء الدین ابو محمد عبد الرحمن بن ابراہیم مقدسی رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۲ھ) نے اس
 شرح میں متن کی توضیح کے ساتھ بقدر ضرورت دلائل بھی ذکر کئے ہیں، ہر مسئلہ کو "مسئلة"
 کا عنوان دے کر ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ یہ شرح ایک جلد میں "دارالحدیث"، قاہرہ
 سے طبع ہے۔

(۲) شرح شیخ الإسلام ابن تیمیۃ

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۸ھ) کی یہ شرح "کتاب الحج"
 تک ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں "شرح العمدة فی أربع مجلدات"، یعنی
 عمدة کی یہ شرح چار جلدیں پر مشتمل ہے۔ ①

① اسماء مؤلفات ابن تیمیۃ: ص ۲۶



(۳) الوردة شرح العمدة

شیخ عبدالکریم بن ابراہیم غضییر کی یہ شرح ”دار الخضیری“ مدینہ منورہ سے طبع ہے۔

(۴) شرح الشیخ محمد بن علی الحركان

علامہ محمد بن علی حركان رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) کی یہ شرح ”کتاب الأیمان والندور“ تک ہے۔

”عمدة الفقه“ میں موجود احادیث کی تخریج لطیفہ بنت شیخ ناصر بن حمر راشد نے کی ہے، یہ تخریج ”دار المعارف“ ریاض سے طبع ہے۔

۳..... زاد المستقنع فی اختصار المقنع


علامہ شرف الدین ابوالنجا موسیٰ بن احمد بن موسیٰ مقدسی رحمہ اللہ (متوفی ۹۶۸ھ) نے اس متن میں فقہ خنبیٰ کے راجح قول کو ذکر کیا ہے، جن مسائل کا وقوع نادر تھا انہیں حذف کیا، اور جن اہم مسائل و فوائد کا ذکر ”المقنع“ میں نہیں تھا انہیں ذکر کیا، (۲۲۸) صفحات پر مشتمل یہ متن ”دار الوطن“ سے طبع ہے۔

فاائدہ: علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۰ھ) نے فقہ خنبیٰ پر متوسط انداز میں ایک کتاب لکھی ”المقنع“ کے نام سے، اس میں مذهب کے دو اقوال، روایات، وجہ اور احتمالات ذکر کئے، امام ابوالنجا رحمہ اللہ نے اس کتاب کا اختصار کر کے راجح قول کے ذکر پر اکتفا کیا۔

”زاد المستقنع“ کی شروح، حواشی و منظومات

(۱) الروض المربع بشرح زاد المستقنع

شیخ منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بہوقی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۵۰ھ) کی یہ



شرح جامعیت، حسن ترتیب اور دلائل کے لحاظ سے نہایت مفید ہے، عرب کے بہت سے مدارس میں یہ نصاب میں شامل ہے، یہ شرح دکتور خالد بن علی اور عبد العزیز بن عدنان کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ ”دار الرکائز“ کویت سے طبع ہے۔

(اس شرح پر متعدد اہل علم نے حواشی و تعلیقات لکھیں، جن میں سے معروف درج

ذیل ہیں:

(۱) حاشیة شیخ عبد الله أبا بطین

شیخ عبد اللہ بن عبد الرحمن ابا بطین رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۸۲ھ)

(۲) حاشیة العنقری

شیخ عبد اللہ بن عبد العزیز عنقری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۷۳ھ)

(۳) حاشیة ابن قاسم

شیخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم عاصمی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۲ھ)

(۴) الملخص الفقهي


شیخ صالح بن فوزان نے عبد الرحمن بن محمد کے حاشیہ کی تتفیح و تہذیب اور اضافات کے ساتھ یہ حاشیہ لکھا ہے۔)

(۵) الشرح الممتع على زاد المستقنع

شیخ محمد بن صالح العثيمین رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۲۱ھ) کی یہ مفصل شرح ہے، جس میں حل الفاظ، توضیح مسئلہ اور راجح قول کے دلائل کا ذکر ہے، یہ آپ کے درسی افادات ہیں جنہیں مصنف کے تلامذہ نے قلمبند کیا اور مصنف نے پھر اس پر نظر ثانی اور اضافات کئے۔

یہ شرح (۱۵) جلدوں میں ”دار ابن الجوزی“ سے طبع ہے۔

(۶) کلمات السداد على متن الزاد



شیخ فیصل بن عبد العزیز آل مبارک رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۲۶ھ) نے ”زاد المستقوع“ پر مختصر حاشیہ لکھا ہے، جو ”مکتبۃ النہضة“ ریاض سے طبع ہے۔

(۴) الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاد

شیخ صالح بن فوزان نے اختصار کے ساتھ مسائل کی توضیح کی ہے، ان کی یہ شرح ”محمد بن سعود“ ریاض سے طبع ہے۔

(۵) نيل المراد بننظم متن الزاد

شیخ سعد بن محمد بن عتیق رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۲۹ھ) نے (۲۲۰۰) اشعار کی صورت میں اس متن کے مسائل کو بیان کیا ہے، لیکن مصنف اس کی تکمیل نہ کر سکے انتقال ہو گیا، اس منظوم کی تکمیل شیخ عبدالرحمن رحمہ اللہ نے کی اور (۲۰۷۰) اشعار کا اضافہ کیا، اب یہ کتاب ”المطابع الأهلية“ ریاض سے طبع ہے۔

(۶) روضة المرتاب في نظم مهمات الزاد

شیخ سلیمان بن عطیہ بن سلیمان مزینی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۶۳ھ) نے (۱۹۰۰) اشعار کی صورت میں مسائل کو ذکر کیا ہے، یہ منظومہ کتاب ”دار الأصفهانی“ جده سے طبع ہے۔

۳..... دلیل الطالب لنیل المطالب

امام مرعی بن یوسف بن ابی بکر بن احمد مقدسی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۳۳ھ) اپنے اس متن کے متعلق مقدمہ میں لکھتے ہیں:

وبينت فيه الأحكام أحسن بيان لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان وسميته ”دلیل

الطالب لنیل المطالب“.

● مقدمة المصنف: ص ۱



ترجمہ: میں نے اس کتاب میں نہایت عمدہ طریقہ کے ساتھ احکام بیان کئے ہیں، اور میں نے اس کتاب میں صرف انہی مسائل کو ذکر کیا ہے جنہیں اہل تصحیح نے جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے (یعنی اہل تصحیح کے ہاں وہ قول درست ہیں) اور اہل ترجیح اور اتقان کے ہاں جو مفتی بہ اقوال ہیں اور میں نے اس کتاب کا نام ”دلیل الطالب لنیل المطالب“ رکھا ہے۔

اس متن میں مصنف نے اختصار کے ساتھ فقه حنبلی کے مفقی بہ مسائل کو ذکر کیا ہے، اس میں نفس مسائل کا ذکر ہے دلائل کا ذکر نہیں ہے، (۱۷۷ صفحات پر مشتمل یہ متن ”دار طیبة“ سے طبع ہے۔

”دلیل الطالب“ کی شرح، حواشی و منظومات

(۱) منار السبیل فی شرح الدلیل

شیخ ابراہیم بن محمد بن سالم رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) نے اختصار کے ساتھ مسائل کی تشریح کی ہے اور دلائل میں احادیث و آثار نقل کئے ہیں۔ یہ کتاب دو جلدوں میں ”المکتب الاسلامی“ بیروت سے طبع ہے۔ اس کتاب کی احادیث کی تخریج علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۰ھ) نے ”ارواء الغلیل فی تحریج احادیث منار السبیل“ کے نام سے کی۔ کتب تخریج میں یہ کتاب اپنائی مفید ہے، خصوصاً فقه حنبلی کے دلائل کی معرفت میں۔ یہ کتاب (۹) جلدوں میں ”المکتب الاسلامی“ بیروت سے طبع ہے۔ جن روایات کی تخریج علامہ البانی رحمہ اللہ سے چھوٹ گئی تھی تو شیخ صالح بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان روایات کی تخریج و تحقیق کی اور ”التمکیل لِما فات تحریجه من ارواء الغلیل“ کے نام سے اُسے طبع کروایا۔ اس کتاب کی احادیث کو شیخ طالب بن محمود نے فقہی ابواب کی ترتیب پر حسن ترتیب کے ساتھ یکجا کیا، اب یہ کتاب ”الدلیل فی ترتیب



احادیث و آثار إرواء الغلیل“ کے نام سے ”دار الأقصی“ کویت سے طبع ہے۔

(۲) نیل المآرب بشرح دلیل الطالب

شیخ عبدالقدیر بن عمر شیبانی رحمہ اللہ نے ”دلیل الطالب“ کے مسائل کو نظم کی صورت میں لکھا ہے۔

(۳) فوائد من شرح منار السبیل

شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن بن جبرین رحمہ اللہ

(۴) المعتمد فی فقه الإمام أحمد

یہ شیخ علی عبدالحید بلطفہ اور شیخ محمد وہبی سلیمان کی تالیف ہے، اس میں ”نیل المآرب“ اور ”منار السبیل“ سے مسائل کی تشریح ذکر کی ہے اور ”إرواء الغلیل“ سے احادیث و آثار کی تحریج نقل کی ہے، یہ شرح دو جلدیں میں ”دار الخیر“ بیروت سے طبع ہے۔

(۵) الواضح فی فقه الإمام أحمد

یہ دکتور علی ابوالخیر کی تالیف ہے۔

(۶) مسلک الراغب بشرح دلیل الطالب

یہ شیخ صالح بہوتی کی تالیف ہے، جواب تک مخطوطہ کی صورت میں ہے۔

(۷) تیسیر المطالب نظم دلیل الطالب

یہ شیخ عبدالقدیر قصاب رحمہ اللہ کی تالیف ہے، مصنف نے ”دلیل الطالب“ کے مسائل کو نظم کی صورت میں لکھا ہے، اس میں کل (۱۳۷۶) اشعار ہیں۔

.....۸..... الذهب المنجلی فی فقه الحنبلي

یہ شیخ موسی بن محمد شحادہ کی تالیف ہے، مصنف نے ”دلیل الطالب“ کے مسائل کو نظم کی صورت میں ذکر کیا ہے۔

علم اصول فقہ

لفظ اصل کا لغوی معنی

اصول الفقہ دو لفظ ہیں، ”اصل“ اور ”فقہ“، اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل کہا جاتا ہے:

ما یبینی علیہ غیرہ سواء کان البناء حسیاً أَو عقلیاً أَو عرفاً۔ ①
ترجمہ: جس پر کسی دوسری شی کی بنا کی جائے، خواہ وہ بناء حسی ہو یا عقلی ہو یا عرفی ہو۔
اصل کا مقابل ”فرع“ ہے:

الفرع هو الشئ الذى یبینى علی غیره كفروع الشجرة لأصولها

وفروع الفقه لأصوله. ②

ترجمہ: فرع وہ شی ہے جس کی اساس کسی اور پر ہو، جیسے درخت کی شاخوں کی بناء اس کی جڑ پر ہے، ایسے ہی فروع فقہ کی بنیاد اس کے اصول پر ہیں۔

لفظ اصل کا اصطلاحی معنی

۱..... الدليل: أصل هذه المسألة: الكتاب والسنة.

۲..... الرجع: الأصل في الكلام الحقيقة.


۳..... القاعدة: الأصل أن الأمر المجرد عن القرآن يقتضي الوجوب

وأن النهي عن القرآن يقتضي التحريم. ③

● المصباح المنير: ج ۱ ص ۲۱ / الوجيز في أصول الفقه الإسلامي: ص ۷۱

● شرح تسهيل الفرقات: ص ۱۰

● نهاية السؤل: ج ۱ ص ۱۸ / أصول الفقه للبدراوي: ص ۲۲



فقہ کا لغوی معنی

اصول الفقہ کا دوسرا جزء ”الفقہ“ جو مضاف الیہ ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی درج ذیل ہے:

۱ فهم غرض المتكلم من کلامہ (متلکم کے کلام سے اس کی غرض سمجھانا)

۲ فهم الأشياء الدقيقة (اشیاء دقیقہ کے فہم کا نام فقہ ہے)

۳ الفقه فی الأصول الفہم (فقہ اصل میں فہم کا نام ہے) ①

لفظ فقہ قرآن کریم میں تقریباً بیس (۲۰) مقامات پر آیا ہے، اور حدیث میں تقریباً ایک سو چار (۱۰۴) مرتبہ آیا ہے۔ صوفیائے کرام کے ہاں فقیہ کا معنی یہ ہے:

إِنَّمَا الْفَقِيْهُ الْمُعْرَضُ عَنِ الدُّنْيَا الزاهِدُ فِي الْآخِرَةِ الْبَصِيرُ فِي عِيُوبِ

نفسہ. ②

ترجمہ: فقیہ وہ ہے جو دنیا سے روگردانی کرے، آخرت سے رغبت رکھے، اپنے ذاتی عیوب سے باخبر ہو۔

فقہ کا اصطلاحی معنی

۱ حفظ الفروع وأقله ثلاثة ③ (فقہ مسائل کے یاد رکھنے کا نام ہے، اور

حفظ مسائل کا مکتمل مرتبہ یہ ہے کہ تین مسائل یاد ہوں)

۲ معرفة النفس ما لها وما عليها ④ (نفس کا اپنے نفع مند اور نقصان دہ

چیزوں کو پہچاننا)

① المعتمد في أصول الفقہ: ج ۱ ص ۳ / نهاية السؤال: ج ۱ ص ۱۹ / لسان العرب:

ج ۱ ص ۸۹ ② الدر المختار: ج ۱ ص ۵

③ الدر المختار: ج ۱ ص ۵ ④ شرح فقه الأکبر: ص ۱۰

۳..... العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلةها التفصيلية. ①

ترجمہ: شریعت کے عملی احکام کا ادله تفصیلیہ سے جاننا فقہ ہے۔

۴..... العلم بالأحكام الشرعية العلمية من أدلةها التفصيلية بالاستدلال. ②

شریعت کے عملی احکام کا ادله تفصیلیہ سے استدلال کے ساتھ جاننا فقہ ہے۔

علم اصول فقه کا واضح

اصول فقه کے واضح کے متعلق چار اقوال ہیں:

امام جعفر صادق رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۸ھ) امام عظیم ابوحنیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۰ھ)

امام ابو یوسف رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۲ھ) امام شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۲۰۳ھ)

۱..... امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے بعض قواعد منقول ہیں جیسا کہ کتب روافض میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن انہوں نے باضابطہ خود کوئی کتاب تصنیف نہیں کی، اور نہ ہی ان سے اصول فقه کے تمام اصول و قواعد منقول ہیں، بلکہ ان سے صرف چند ایک اصول منقول ہیں اس لئے انہیں باضابطہ اصول فقه کا مددوں کہنا مشکل ہے۔ ③

۲..... امام ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ نے ”أصول السرخسی“ کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے امام عظیم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو اصول فقه کا مددوں اول قرار دیا اور اصول فقه پر لکھی گئی ابتدائی کتب کا ان کی تاریخی ترتیب کے لحاظ سے تذکرہ کیا، جس میں امام شافعی رحمہ اللہ کی ”الرسالة“، کو اس فن پر لکھی جانے والی چوتھی کتاب شمار کیا، چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

أَمَا أَوَّلُ مِنْ صِنْفٍ فِي عِلْمِ الْأَصْوَلِ فِيمَا نَعْلَمُ فَهُوَ إِمَامُ الْأَئْمَةِ وَسَرَاجُ

① التنتیح والتوضیح: ص ۲۶
② مختصر منتهی الأصول: ص ۳

الإمام الصادق حیاته وعصره آراء وفقہہ: ص ۲۶۷، ۲۶۸

الأمة أبو حنيفة النعمان رضى الله عنه حيث بين طرق الاستنباط في
”كتاب الرأى“ وتلاه أصحاب القاضى الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
الأنصارى والإمام الربانى محمد بن الحسن الشيبانى ثم الإمام محمد بن
إدريس الشافعى رحمه الله صنف الرسالة۔ ①

ترجمہ: ہمارے علم کے مطابق امام الائمه سراج الامت ابوحنیفہ نعمان رحمہ اللہ نے علم اصول پر پہلی کتاب ”كتاب الرأى“، تصنیف کی، جس میں استنباط کے طریقے بیان کئے، اس کے بعد آپ کے دو شاگردوں قاضی امام ابویوسف اور امام محمد رحمہما اللہ نے اس فن پر کتب تصنیف کیں، پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے ”الرسالة“، تصنیف کی۔

محقق اعصر ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ علم اصول فقہ کے مدون

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ ②

۳.....علامہ ابن ندیم (متوفی ۲۳۸ھ) نے امام ابویوسف رحمہ اللہ کی تصنیفات میں ایک کتاب کا نام ”الأصول“ بھی ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اصول فقہ پر کتاب تصنیف کی ہے۔

ولأبي يوسف من كتب في الأصول والأمالى. ③

علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ (متوفی ۲۸۱ھ) نے امام ابویوسف رحمہ اللہ کے ترجمہ میں یہ بات نقل کی ہے کہ اصول فقہ کے سب سے پہلے واضح امام ابویوسف رحمہ اللہ ہیں:

أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وأهلی

المسائل ونشرها، وبث على أبي حنيفة في أقطار الأرض. ④

① مقدمة أصول السرخسى: ج ۱ ص ۳ ② خطبات بهاولپور: ص ۱۳۵

③ الفهرست: الفن الثانى فى أخبار أبي حنيفة، ج ۱ ص ۲۵۳

④ وفيات الأعيان: القاضى أبو يوسف، ج ۲ ص ۳۸۲

ترجمہ: سب سے پہلے امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کے مذهب پر اصول فقہ میں کتب تالیف کیں اور مسائل املاع کروائے، اور مختلف ملکوں میں امام ابو حنیفہ کے علم کو پھیلایا۔
إن أبا يوسف أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة.

ترجمہ: بلاشبہ امام ابو یوسف پہلے شخص ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے مذهب پر اصول فقہ میں پہلی کتاب تالیف کی۔

۳.....امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
اتفق الناس على أن أول من في هذا العلم (أى أصول الفقه) الشافعى،
وهو الذى رتب أبوابها وميز بعض أقسام من بعض وشرح مراتبها فى
القوة والضعف.

ترجمہ: لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے اس علم (أصول فقہ) میں امام شافعی رحمہ اللہ نے تصنیف کا آغاز کیا اور انہوں نے اس کے ابواب مرتب کئے، اس کی بعض اقسام کو بعض سے جدا کیا، قوت و ضعف کے اعتبار سے اس کے مراتب کی تشریح کی۔
علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ (متوفی ۹۲۷ھ) فرماتے ہیں:

الشافعى رضى الله عنه أول من صنف في أصول الفقه فيه كتاب الرسالة.
ترجمہ: امام شافعی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اصول فقہ میں کتاب تصنیف کی اور وہ تصنیف ”كتاب الرسالة“ ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چونکہ ہزاروں مسائل کی مذویں کی ہے،
.....

❶مناقب الإمام أبي حنيفة للمنكى: ۲/۲۲۵

❷كتاب مناقب الإمام الشافعى: ص ۵۵

❸البحر المحيط: ج ۱ ص ۱۸


ان مدونہ مسائل کے لئے آپ کے اپنے اصول و قواعد تھے جو ”کتاب الرأی“ میں تھے، لیکن یہ کتاب ہم تک نہ پہنچ سکی۔ آپ ہی کے اصولوں کو پھر آپ کے تلامذہ نے اضافات کے ساتھ اپنی تصنیفات میں جمع کیا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ان اصولوں کو ”کتاب الأصول“ کے نام سے اور امام محمد رحمہ اللہ نے بھی ان اصولوں کو ”کتاب الأصول“ کے نام سے جمع کیا۔ ①

امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کی یہ دونوں کتابیں مطبوع نہیں ہیں، مطبوعہ کتابوں میں پہلی کتاب امام شافعی رحمہ اللہ کی ”الرسالة“ ہے، (۵۹۸ صفحات پر مشتمل یہ کتاب مشہور محقق علامہ احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ ”مکتبہ حلیبی“ مصر سے شائع ہوئی ہے۔

كتب اصول فقه کے تدوین کے طریقے
كتب اصول فقه کی تدوین کے تین طریقے ہیں:
۱..... علمائے متكلمین کا طریقہ

۲..... علمائے حنفیہ کا طریقہ
۳..... متأخرین اہل علم کا طریقہ
تیسرا طریقے میں پہلے اور دوسرے طریقے کی کتب کو کیجا کیا گیا ہے۔

علمائے متكلمین کے طریقے پر تدوین کی گئی کتب
۱..... ”العمد“، قاضی عبدالجبار معتزلی (متوفی ۴۱۵ھ)
۲..... ”المعتمد“، امام ابو الحسین بصری معتزلی (متوفی ۴۳۶ھ)
۳..... ”البرهان فی أصول الفقه“، امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ (متوفی ۴۷۸ھ)
۴..... ”المستصفی“، امام غزالی رحمہ اللہ (متوفی ۵۰۵ھ)



یہ چار کتابیں امہات الکتب ہیں، بعد میں لکھنے والے تقریباً تمام اہل علم نے انہی سے استفادہ کیا ہے۔ ①

پھر ان چار کتابوں کے مضمین کو دوا کا برابر اہل علم نے اپنی کتابوں میں یکجا کیا ہے، امام رازی رحمہ اللہ (متوفی ۶۰۶ھ) نے ”المحصول فی اصول الفقہ“ میں اور علامہ آمدی (متوفی ۶۳۱ھ) نے ”الإحکام فی اصول الأحكام“ میں، پھر علامہ تاج الدین ارموی (متوفی ۶۵۶ھ) نے امام رازی رحمہ اللہ کی کتاب کا خلاصہ ”الحاصل“ کے نام سے کیا، جو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۵ھ) کی ”منهاج الوصول“ کا مأخذ ہے۔ دوسری طرف علامہ ابن حاچب مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۶ھ) نے علامہ آمدی رحمہ اللہ (متوفی ۶۳۱ھ) کی کتاب ”الإحکام فی اصول الأحكام“ کا خلاصہ ”منتھی السؤل والأمل إلى علمي الأصول والجدل“ کے نام سے کیا۔ ان مذکورہ بالا کتابوں میں دو کتابیں سب سے زیادہ مفید ہیں، اور ان کتابوں نے متقد میں کی کتابوں سے فی الجملہ مستغنى کر دیا ہے، اور ان میں متقد میں کی تقریباً تمام مباحث یکجا ہو گئی ہیں:

۱.....المحصول ۲.....الإحکام

علمائے حنفیہ کے طریقے پر تدوین کی گئی کتب

- ۱.....”مأخذ الشرائع“، امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ (متوفی ۳۳۰ھ)
- ۲.....”أصول الكرخى“، امام عبد اللہ بن حسین الکرخی رحمہ اللہ (متوفی ۳۴۰ھ)
- ۳.....”الفصول فی الأصول“، امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۰ھ)
- ۴.....”تقویم الأدلة“، امام ابو زید عبد اللہ بن عمر دبوی رحمہ اللہ (متوفی ۳۴۰ھ)
- ۵.....”تأسیس النظر“، امام ابو زید عبد اللہ بن عمر دبوی رحمہ اللہ (متوفی ۳۴۰ھ)

- ۶..... ”أصول البزدوى“، علامہ فخر الاسلام بزدوى رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۲ھ) اس کتاب کی شرح علامہ عبدالعزیز بخاری رحمہ اللہ (متوفی ۳۰۷ھ) نے ”کشف الأسرار فی شرح أصول البزدوى“ کے نام سے چار جلدیں میں لکھی۔
- ۷..... ”أصول السرخسی“، علامہ سرخسی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ)
- ۸..... ”المنار“، علامہ نسٹی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷ھ) اس کی شرح ملاجیون رحمہ اللہ نے ”نور الأنوار“ کے نام سے لکھی ہے۔
- متاخرین اہل علم کے طریقے پر مذکورین کی گئی کتب
- ۱..... بدیع النظام الجامع بین کتابی البزدوى والإحکام علامہ مظفر الدین احمد بن علی المعروف ابن ساعاتی حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۶۹۳ھ) انہوں نے اس کتاب میں امام بزدوى رحمہ اللہ کی ”أصول البزدوى“ اور علامہ آمدی کی ”الإحکام فی أصول الأحکام“ کے مباحث کو بیجا کیا ہے۔
 - ۲..... ”تنقیح الأصول“، علامہ عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ (متوفی ۲۷۷ھ) نے اس کی شرح خود ”التوضیح“ کے نام سے لکھی ہے۔
 - ۳..... ”التنقیح“ میں ”أصول البزدوى، المحسول“ اور ”منتهی السؤل والأمل“ کے مضامین کو جمع کیا اور پھر خود اس کی شرح ”التوضیح“ کے نام سے لکھی، علامہ تقیازانی رحمہ اللہ (متوفی ۹۳۷ھ) نے ”السلویح“ کے نام سے اس پر حواشی و تعلیقات لکھیں۔
 - ۴..... ”جمع الجوامع“، علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۷ھ) کی تصنیف ہے، علامہ بدر الدین زکریٰ رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۷ھ) نے ”تشنیف المسامع“ کے نام سے اس کتاب کی شرح لکھی۔

۳..... ”التحریر فی أصول الفقه“ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۱ھ) نے اصول فقه پر ”التحریر“ کے نام سے یہ متن لکھا، جس میں حفیہ اور شوافع کے اصول فقہ کی اہم مباحث کو بیجا کیا، لیکن اس کتاب کی عبارت بڑی مغلق اور پیچیدہ ہے بغیر شرح کے کما حقہ اس کا سمجھنا دشوار تھا تو علامہ ابن امیر الحاج رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۹ھ) نے ”التقریر والتحبیر“ کے نام سے تین جلدیوں میں اس کی شرح لکھی۔ علامہ محمد بن امین المعروف امیر بادشاہ رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۲ھ) نے ”تيسیر التحریر“ کے نام سے دو جلدیوں میں اس کتاب کی شرح لکھی۔

۴..... ”مسلم الشبوت“ علامہ محب اللہ بھاری رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۱۹ھ) انہوں نے علامہ تاج الدین سکلی رحمہ اللہ کی ”جمع الجوامع“ اور علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ کی ”التحریر“ کی مباحث کو نہایت ابجاز اور اختصار کے ساتھ بیجا کیا ہے، پھر علامہ بحر العلوم عبدالعلی نے ”فواتح الرحموت“ کے نام سے دو جلدیوں میں ”مسلم الشبوت“ کی شرح لکھی۔ اب یہ کتاب ”قدیمی کتاب خانہ“ سے اس نام کے ساتھ طبع ہے، ”فواتح الرحموت“ شرح مسلم الشبوت“ اس میں متن اور شرح دونوں بیجا ہیں۔

۵..... ”إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول“ علامہ شوکانی (متوفی ۱۲۵۰ھ)

۶..... ”حصل المأمول من علم الأصول“ علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۰ھ) انہوں نے علامہ شوکانی کی کتاب کی تخلیص کی ہے۔ دور جدید میں مصر، شام، لبنان، سعودی عرب میں علم اصول فقه پر کام ہوا اور بعض نہایت عمدہ اور معیاری کتابیں تصنیف ہوئیں، جن میں شیخ محمد الحضر می رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۳۶ھ) کی ”أصول الفقه“ اور ”تاریخ التشريع الإسلامی“ اور علامہ محمد عبد الرحمن الحلاوی کی

کتاب ”تسهیل الوصول إلى علم الأصول“، اور شیخ عبدالوهاب خلاف (متوفی ۱۳۷۵ھ) کی کتاب ”علم أصول الفقه“، اور حسن احمد خطیب کی کتاب ”فقہ الإسلام“، اور عمر بن عبد اللہ کی ”سلم الوصول لعلم الأصول“، اور علی حسپ اللہ کی ”التشريع الإسلامي“، اور شیخ محمد ابو زہرہ کی ”أصول الفقه“، اور محمد سعید رمضان البولٹی کی ”ضوابط المصلحة فی الشريعة الإسلامية“، اور ڈاکٹر وہبة الزہبی کی ”نظرية الضرورة الشرعية“، اور مصطفیٰ احمد الزرقاء کی ”المدخل“، خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

کتب اصول فقہ کا تعارف

ا..... الرسالہ

امام شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۲۰۳ھ) کی یہ کتاب اصول فقہ پر کمھی جانے والی کتابوں میں پہلی مطبوعہ کتاب ہے، اصول فقہ کو باضابطہ طور پر اصطلاحات، تشریحات، امثالہ کے ساتھ مدّون کرنے والے امام شافعی رحمہ اللہ ہی ہیں۔ جمہور کے قول کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کی ولادت ۱۵۰ھجری کو غزہ (شام) میں ہوئی، سلسلہ قریشی ہے، دس برس کی عمر میں مکہ آئے، تعلیم حاصل کی پھر مدینہ منورہ آ کر امام مالک رحمہ اللہ (متوفی ۹۷ھ) سے زانوئے تلمذ طے کیا، پھر آپ نے تقریباً دو سے تین سال تک امام محمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ) کی صحبت میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس مکہ لوٹ آئے اور نو سال تک مکہ ہی میں مقیم رہے، ۱۹۵ھجری میں دوسری مرتبہ دو سال کے لئے بغداد آگئے، اسی سال قیام کے دوران آپ نے عبد الرحمن بن مہدی کی درخواست پر "الرسالة" تصنیف کی۔ ۱۹۸ھجری میں تیسرا بار ایک ماہ کے لئے بغداد آئے اور یہاں سے ۱۹۹ھجری میں مصر پہنچے، وہاں ۵۲ سال کی عمر میں ۲۰۳ھجری میں انتقال ہوا۔ ①

مصری دور آپ کے فکری نموکی تکمیل اور آراء فقہیہ کی چیختگی کا دور ہے یہاں آپ نے نئی چیزیں، عرف، حضارت، آثار تابعین دیکھے، اپنی سابقہ آراء کو اپنے تجربہ، پختگی سن اور نئے شہر سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں پھر پرکھا، فن اصول میں جو "الرسالة" لکھی تھی اُسے حذف و اضافہ کے ساتھ دوبارہ قلمبند کیا اور فروع میں بھی آراء کا جائزہ لے کر بعض سے رجوع کر لیا اور بعض نئی آراء قائم کیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تالیف کے بعد برابر

تحقیق و تمجیص کرتے رہتے تھے، اور کتب قدیمہ کو نئے قالب میں ڈھالتے رہتے، چنانچہ آپ کا رسالہ جدیدہ بھی درحقیقت تحقیق و تمجیص اور حذف و اضافہ کے ساتھ رسالہ قدیمہ کا خلاصہ ہے۔

اس کتاب میں امام شافعی رحمہ اللہ نے درج ذیل عنوانین پر قدر تفصیل سے بحث ذکر کی ہے:

”باب: كيف البيان“ ”بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام“ ”بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه“ ”الناسخ والمنسوخ“ ”باب خبر الواحد“ ”الحجۃ في ثبیت خبر الواحد“ ”باب الإجماع“ ”باب الاجتهاد“ ”باب الاستحسان“ ”أقوایل الصحابة“ مشہور محقق شیخ احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ (۵۹۸) صفحات پر مشتمل یہ کتاب ”مکتبة الحلبي مصر“ سے طبع ہوئی ہے۔

۲.....أصول الكرخي

امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ (متوفی ۳۴۰ھ) امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ (متوفی ۳۶۱ھ) کے هم عصر ہیں، امام کرخی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں امام ابو بکر جصاص (متوفی ۳۷۰ھ) بھی شامل ہیں جو ”أحكام القرآن“ اور ”الفصول في الأصول“ کے مصنف ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے (۳۹) قواعد ذکر کئے ہیں۔ ان قواعد کی شرح علامہ نجم الدین ابو حفص عمر النسفي (متوفی ۴۵۳ھ) نے کی ہے، انہوں نے ہر قاعدة کے تحت امثلہ، نظائر اور تفريعات ذکر کی ہیں، مثلاً ”أصول الكرخي“ میں پہلی اصل یہ ہے:

الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك.

امام نسفي رحمہ اللہ نے اس اصل کی تشریح میں فرمایا:

من مسائله أن من شك في الحدث بعد ماتيقن بالوضوء لم ينقض وضوئه۔ ①
 مولانا عبدالقدوس ہاشمی کے بیان کے مطابق (۳۹) میں سے (۳۶) کلیات وہ ہیں جن کے ماتحت فقه حنفی کی جزئیات آتی ہیں اور ان کے مطابع سے پتہ چلتا ہے کہ فقه کے جزوی مسائل کس طرح کلیات کے ماتحت آتے ہیں اور یہ کہ کسی خاص صورتی حال پر حکم فقہی کی تطبیق میں کلیات فقه سے کس طرح استفادہ کیا جاتا ہے اور وہ کیا اصول ہوتے ہیں جن کے تحت استخراج مسائل کئے جاتے ہیں۔

مصطفیٰ احمد الزرقاء کی رائے کے مطابق امام کرخی رحمہ اللہ نے (۳۷) قواعد جمع کئے ہیں:

فقد جاءت جموعة الكرخي بسبع وثلاثين قاعدة۔ ②
 یہ کتاب چونکہ فن کی ابتدائی کتابوں میں سے ہے اس لئے اس میں تمام قواعد کیجا نہیں ہیں اور قواعد کی تعبیرات بھی جامع نہیں ہیں۔ اس رسالے کا اردو ترجمہ عبدالرحیم اشرف بلوج صاحب نے کیا ہے، اس پرمفید مقدمہ مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب نے لکھا ہے، اصل کتاب ”میر محمد کتاب خانہ“ کراچی سے شائع ہوئی ہے، جبکہ ترجمہ ”ادارہ تحقیقات اسلامی“، اسلام آباد سے شائع ہوا ہے۔

۳..... الفصول في الأصول

امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ (متوفی ۴۲۷ھ) کی معروف تصنیف ”أحكام القرآن“ ہے، یہ کتاب انہوں نے ”أحكام القرآن“ کے لئے بطور مقدمہ کے لکھی ہے۔ اس کتاب کے مأخذ دو ہیں، (۱) امام جصاص کے شیوخ اور اُن کی کتب (۲) اور وہ اصولی

① اصول الكرخي: ص ۱، ط: میر محمد کتاب خانہ کراچی

② القواعد الكلية مأخوذة من المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية: الباب

کتابیں جوان کے زمانے میں دستیاب تھیں۔ امام جصاص رحمہ اللہ نے اس کتاب میں عام، خاص، محکم، بجمل، متشابہ، حقیقت، مجاز، امر، نہی، ناسخ و منسوخ، بیان کی اقسام، خبر و واحد، خبر مرسل، افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال صحابہ، اجماع، قیاس و اجتہاد، استحسان، عمل شرعیہ، تقلید مجتہد اور دیگر کئی اہم موضوعات پر قدرے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔

اس کتاب میں امام جصاص رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ”الرسالة“ پر بھی بعض مقامات پر مناقشہ کیا ہے، خصوصاً ”باب البيان“ میں، ان سے مناقشہ میں سخت اسلوب اختیار کیا ہے اور بیان کی تقسیم میں امام شافعی رحمہ اللہ سے مناقشہ کیا ہے۔ یہ کتاب پانچویں صدی ہجری سے لے کر آٹھویں صدی ہجری تک مفقود رہی ہے، اس لئے اس کے حوالے ”أصول سرخی“ یا ”أصول بزدوى“ سے نقل کئے جاتے ہیں، برائے راست اس کتاب سے نقل نہیں کئے جاتے۔ اس لئے ان چار صدیوں میں اصل مراجع کی طرف مراجعت کرنا نسخوں کے مفقود ہونے کی وجہ سے بظاہر ممکن نہیں تھا، اس لئے ان کے حوالے ان چار صدیوں کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ ۱۴۰۳ ہجری میں اس کا نسخہ پہلی مرتبہ شائع ہوا۔ اس کا محقق نسخہ ۱۴۱۳ھ میں چار جلدیوں میں ”وزارة الأوقاف“ کویت سے شائع ہوا ہے۔


۳.....العمد

قاضی عبدالجبار معتزلی (متوفی ۲۱۵ھ) فقیہ، اصولی، متكلّم اور اپنے زمانے کے اصول میں مذهب معتزلہ کے امام تھے، فروع مذهب شافعی سے اخذ کرتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمر رضا کمالہ نے لکھا ہے:

كان مقلد الشافعى فى الفروع وعلى رأس المعتزلة فى الأصول. ①

صاحب ”الرسالة المستطرفة“ نے لکھا:

● معجم المؤلفين: ج ۵ ص ۷۸



ذی التصانیفی السائرة و ذکرہ شائع فی الأصول۔ ①

یہ کتاب اصول فقہ پر ہے، اس میں اصول فقہ کے تقریباً تمام اہم ابواب موجود ہیں (مصنف نے علم کلام پر ایک کتاب ”المغني“، لکھی تھی جو (۲۰) جلدوں میں (۱۳۰۰) اوراق پر مشتمل ہے، اسکی ۱۲ جلدیں چھپ کر منظر عام پر آجکلی ہیں) اس کے تین ابواب ”الجماع والقياس والاجتہاد“ پر محمد جمال الطیروانی نے تحقیق پیش کی، اور دراساتِ اسلامیہ میں اور دراساتِ علیا میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ ②

اسی طرح قاضی عبدالجبار کی کتاب ”العمد“ کے دوسرے نصف پر دکتور عبد الحمید زنید کی تحقیق جاری ہے۔ ③

امام ابوالحسین بصری معتزلی (متوفی ۸۳۶ھ) نے اس کتاب کی شرح ”المعتمد“ کے نام سے لکھی، اور اس کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

أَنِي سَلَكْتُ فِي ”الشَّرْحِ“ مَسْلِكَ الْكِتَابِ فِي تَرْتِيبِ أَبْوَابِهِ وَتَكْرَارِ كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِهِ وَشَرْحِ أَبْوَابِ لَا تَلِيقَ بِأَصُولِ الْفِقَہِ مِنْ دَقِيقِ الْكَلَامِ ④
ترجمہ: شرح ”العمد“ میں، میں نے کتاب کے ابواب کے طریقے کو اختیار کیا ہے، باوجود اس کہ کثیر مسائل میں تکرار تھا اور کئی ابواب کی شرح دقیق کلام کے باعث اصول فقہ کے لاکن نہیں تھی۔

باوجود تلاش کے اس کتاب کا مکمل مطبوعہ نسخہ مجھے دستیاب نہیں ہوا۔

① الرسالة المستطرفة: ص ۱۶۰

② معجم الأصوليين: مظہر بقا، ج ۲ ص ۱۵۵

③ معجم الأصوليين: مظہر بقا، ج ۲ ص ۱۵۵

④ المعتمد فی أصول الفقہ: ج ۱ ص ۳

٥..... تأسیس النظر ٦ تقویم الأدلة فی الأصول

..... الأنوار فی الأصول ٨ الأسرار فی الأصول والفروع
یہ کتابیں امام ابو زید دبوسی حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۴۳۰ھ) کی ہیں، علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۱ھ) فرماتے ہیں:

وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الموجود. ①
ترجمہ: انہوں نے سب سے پہلے علم الخلاف (اختلاف الفقهاء) کی بنیاد ڈالی اور اس کو باقاعدہ ایک منفرد علم کی حیثیت عطا کی۔

لیکن ابن خلکان رحمہ اللہ کی یہ بات درست نہیں ہے اس لئے کہ علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ (متوفی ۴۳۰ھ) کی ”اختلاف الفقهاء“، اور امام طحاوی رحمہ اللہ (متوفی ۴۳۲ھ) کی ”اختلاف الفقهاء“، ان سے پہلے کھنچی گئی ہیں، اس لئے ”اختلاف الفقهاء“ کا موجود علامہ دبوسی رحمہ اللہ کو قرار نہیں دیا جاسکتا، البتہ انہوں نے اس فن کو حسن ترتیب کے ساتھ مدد و مدد کیا ہے۔

”تأسیس النظر“، میں امام ابو الحسن کرنخی اور ابو بکر جصاص رحمہما اللہ کے بیان کردہ مضامین کو قدرتے تفصیل کے ساتھ لیا گیا ہے، اور حنفی فقهاء کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے اصول کے ضمن میں مسائلِ جزئیہ کو تفریعات اور فقہی نکات پر مشتمل قواعد اور مسائل کو بیان کیا گیا ہے، امام دبوسی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مندرجہ ذیل نواجزاء میں تقسیم کیا ہے:
ا..... امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے دونا مور شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے ما بین فقہی اختلاف آراء کی اساس کو بیان کیا ہے، اس حصہ میں وہ قواعد و اصول مذکور ہیں جن سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
.....

- ۲..... امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کی ان فقہی آراء کے اصول و قواعد جن میں امام محمد رحمہ اللہ نے ان سے اختلاف کیا ہے۔
- ۳..... امام ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کی ان فقہی آراء کے اصول و قواعد جن میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ان سے اختلاف کیا ہے۔
- ۴..... امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے مابین پائی جانے والی اختلافی آراء کے اصول و قواعد بیان کئے۔
- ۵..... تین حنفی ائمہ امام محمد، امام حسن بن زیاد (اصل کتاب سے ایک نام ساقط ہے) ان کی فقہی آراء کے اصول و قواعد جن میں ان سے ان کے ایک اور نامور ساتھی امام زفر رحمہ اللہ نے اختلاف کیا ہے۔
- ۶..... حنفی ائمہ فقہ (امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ وغیرہ) کی ان فقہی آراء کے اصول و قواعد جن میں امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے اختلاف کیا ہے۔
- ۷..... تین حنفی ائمہ فقہ (امام محمد، امام زفر اور امام حسن بن زیاد رحمہم اللہ) کی ان فقہی آراء کے اصول و قواعد جن میں انہوں نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نامور معاصر قاضی ابن ابی لیلی رحمہ اللہ کی آراء و اقوال سے اختلاف کیا ہے۔
- ۸..... مذکورہ بالاحنفی ائمہ فقہ کی ان فقہی آراء کے اصول و قواعد جن میں انہوں نے امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔
- ۹..... متفرق اختلافی اقوال و آراء کے اصول و قواعد۔
- ان نو اجزاء میں سے ہر ایک جز کو مختلف ابواب کے تحت تقسیم کیا گیا ہے، ہر باب میں اس موضوع سے متعلق یا اس سے ملتے جلتے امور سے متعلق اصول و کلیات بیان کئے گئے ہیں، ہر اصل اور کلیہ کی مثالیں اور تطبیقی نظائر بھی دی گئی ہیں تاکہ قانون کا منشاء و مراد واضح ہو سکے، یہ رسالہ ”سعید کمپنی“، کراچی سے ۱۹۰۶ھ میں شائع ہوا ہے۔

”الأسرار في الأصول والفروع“ اس کتاب کے بارے میں حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ایک ضخیم کتاب ہے، جس کا آغاز انہوں نے ”الحمد لله رب العالمین“ سے کیا ہے۔ ①

”الأنوار في الأصول“ حاجی خلیفہ نے کہا کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے جس کا آغاز ”الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين“ سے ہوتا ہے۔ ②

”تقويم الأدلة في الأصول“ حاجی خلیفہ نے کہا کہ یہ کتاب ایک جلد میں ہے اس کا آغاز ”الحمد لله رب العالمین“ سے ہوا ہے۔ امام فخر الاسلام علی بن بزد دوی رحمہ اللہ (متوفی ۴۸۲ھ) نے اس کی شرح بھی لکھی ہے اور یہ ایک عمدہ شرح ہے اور یہ علمائے حنفیہ میں بہت معترض بھی جاتی ہے، ابو بکر محمد بن حسین بن محمد الارسائبی حنفی (متوفی ۵۱۲ھ) نے اس کا اختصار کیا جس کا نام ”مختصر تقويم الأدلة للدبوسی“ ہے اور ابو جعفر محمد بن الحسین الحنفی نے اس کا اختصار کیا ہے۔ ③

٩ المعتمد

امام ابو الحسین بصری معتزلی (متوفی ۴۳۶ھ) کی یہ کتاب قاضی عبد الجبار معتزلی (متوفی ۴۱۵ھ) کی ”العمد“ کی شرح ہے، اور اصول فقہ پر لکھی گئی ارکانِ اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، کتبِ اربعہ مندرجہ ذیل ہیں:

”العمد، المعتمد، البرهان، المستصفى“

علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۸ھ) فرماتے ہیں:
.....

① کشف الظنون: ج ۱ ص ۱۹۶ ② کشف الظنون: ج ۱ ص ۸۱

③ کشف القناع عن مهمات الأسامي والكنى: ص ۷۷ / کشف الظنون: ج ۱ ص ۷۷ / هدية العارفين: ج ۵ ص ۶۲۸ / الفوائد البهية في تراجم الحنفية: ص ۱۰۹

وَكَتَانٌ مِنْ أَحْسَنِ مَا كَتَبَ فِيهِ الْمُتَكَلِّمُونَ كِتَابُ الْبَرَهَانِ لِإِلَامَ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُسْتَصْفَى لِلْغَزَالِيِّ وَهُمَا مِنْ الْأَشْعُرِيَّةِ وَكِتَابُ الْعَمَدِ لِعَبْدِ الْجَبَارِ وَشِرْحُهُ الْمُعْتَمَدُ لِأَبِي الْحَسِينِ الْبَصْرِيِّ وَهُمَا مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَكَانَ الْأَرْبَعَةُ قَوَاعِدُ هَذَا الْفَنِّ.

ترجمہ: متكلیمین کی کتابوں میں بہترین کتاب امام الحرمین کی ”البرهان“، اور امام غزالی کی ”المستصفی“ ہے، یہ دونوں حضرات اشاعرہ میں سے تھے، عبدالجبار کی کتاب ”العمد“ اور ابوالحسین بصری کی ”المعتمد“ جو ”العمد“ کی شرح ہے، یہ دونوں معتزلہ میں سے تھے، یہ چاروں کتابیں اس فن کی اصولی کتابوں میں سے ہیں۔

یہ کتاب معتزلہ کی آراء و استدلال کے مصادر میں سے ایک ہے، اس میں ماضی کے اصولیین کی ایک بڑی جماعت کی آراء کو منضبط کر لیا گیا ہے، ان کے ادلہ کو بیان کیا اور ان پر تنقید کی، اس کتاب میں اصول فقه کے موضوع کو ایک ترتیب نو سے مرتب کیا گیا ہے، ”العمد“ میں پائے جانے والے تکرار سے اجتناب برتا ہے۔

اس کتاب میں مندرجہ ذیل عناوین کے تحت مفید مباحث ذکر کی گئی ہیں:

”الکلام فی الأوامر، الکلام فی النواہی، الکلام فی المجمل
والمبین، الکلام فی الناسخ و المنسوخ، الکلام فی الإجماع، الکلام فی
القياس والاجتہاد، الکلام فی الحظر والإباحة، الکلام فی المفتی
والمستفتی“ وغیرہا.

یہ کتاب خلیل لمیس کی تحقیق کے ساتھ دو جلدوں میں ”دار الكتب العلمية“ سے شائع ہوئی ہے۔

٠١ الإحکام فی أصول الأحكام

علامہ ابن حزم ظاہری (متوفی ۴۵۶ھ) ابتداء میں شافعی المسلک تھے پھر ظاہری کی طرف آئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے استحسان کے بطلان پر جو دلائل دیئے تھے انہوں نے ان دلائل کو قیاس کے ابطال پر پرفت کیا، یہ قیاس اور استحسان کے منکر تھے، بعد میں فروع میں کسی کے مقلد بھی نہیں تھے۔ علامہ ابن حزم نے فقہی اصول وضع کئے اور امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح اپنے طرزِ استنباط اور طریقِ اجتہاد کو اپنے وضع کردہ اصول میں محدود و محصور کیا اور ان کے ذکر و بیان میں طوالت سے کاملیا، یہ اصول انہوں نے اپنی مشہور کتاب ”الإحکام فی أصول الأحكام“ میں بیان کئے، اس کتاب کے ساتھ ساتھ آپ نے ظاہری فقه کے قواعد میں ایک مختصر کتاب بھی تحریر کی۔ یہ قیاس اور استحسان کو تسلیم نہیں کرتے اور ان پر کڑی تنقید کرتے ہیں، تقلید کی مذمت کرتے ہوئے اپنی کتاب ”المحلی“ میں لکھتے ہیں:

لا يحل لأحد أن يقلد أحداً لا حيا ولا ميتاً وعلى كل أحد من الاجتهاد

حسب طاقتہ۔ ①

ترجمہ: کسی شخص کے لئے کسی زندہ یا فوت شدہ کی تقلید کرنا جائز نہیں، ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اجتہاد کر سکتا ہے۔

علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب ”النبذ فی أصول الفقه“ صفحہ (۳۷) پر تقلید کی بڑی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب قیاس اور استحسان اور تقلید کے بطلان پر بھی لکھی ہے، جس کا نام ”إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليق“ ہے، اس کتاب میں قیاس اور رائے کی پُر زور انداز میں مذمت کی ہے۔

علامہ ابن حزم کی کتاب ”الإحکام فی أصول الأحكام“ چالیس ابواب پر

①المحلی بالآثار: کتاب التوحید، مسائل من الأصول، ج ۱ ص ۸۵

مشتمل ہے، ان درج ذیل ”الباب الخامس والثلاثون فی الاستحسان والاستنباط فی الرأی وإبطال کل ذلک، الباب السادس والثلاثون فی إبطال التقليد، الباب الثامن والثلاثون فی إبطال القياس فی أحكام الدين، الباب التاسع والثلاثون فی إبطال القول بالعلل فی جميع أحكام الدين“ ابوبکر کے تحت انہوں نے انہمہ فقہاء اور مقلدین کے خلاف بڑی نازیبا زبان استعمال کی ہے، جو اہل علم کی شایان شان نہیں ہے۔ یہ کتاب شیخ احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ آٹھ جلدیوں میں ”دار الأوقاف الجديدة“ بیروت سے شائع ہوئی ہے۔

۱۱ کتاب الخلافیات

امام زیہقی رحمہ اللہ (متوفی ۲۵۸ھ) اپنے وقت کے ایک عظیم نقاد محدث تھے، آپ کی تصانیف میں معروف کتب درج ذیل ہیں:

السنن الکبری، شعب الإیمان، المدخل، دلائل النبوة، الزهد الكبير.


حصول علم کے لئے بغداد، خراسان اور حجاز مقدس کے سفر کئے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ (متوفی ۲۸۷ھ) ان کے متعلق نقل کرتے ہیں:

لو شاء البیهقی أن يعمل لنفسه مذهبًا يجتهد فيه لكان قادرًا على ذلك لسعة علومه و معرفته بالاختلاف.

ترجمہ: اگر امام زیہقی چاہتے تو اپنے لئے ایک نئے مذهب کی بنیاد ڈال دیتے، اس میں اجتہاد کرتے تو وہ وسعت علمی اور اختلافات کی معرفت رکھنے کی بناء پر ضرور قادر ہو جاتے۔

امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ نے فرمایا:

ما من شافعی إلا ولشافعی عليه منة إلا لبیهقی فإن له على الشافعی



منہ لتصانیفہ فی نصرۃ مذہبہ و أقاویلہ۔ ①

ترجمہ: شوافع میں سے امام بیہقی کا امام شافعی پر احسان ہے کہ انہوں نے کثرتِ تصانیف سے ان کے مذہب اور نظریات کی مدد کی۔

امام بیہقی رحمہ اللہ کی یہ کتاب باوجود تلاش کے مجھے اب تک نہیں مل سکی۔ ان کے تقریباً تمام سوانح نگاروں نے اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے خصوصاً امام ذہبی رحمہ اللہ جیسے بلند پایہ نقاد حدث نے بھی۔

۱۲ إِحْكَامُ الْفَصُولِ فِي أَحْكَامِ الْأَصْوَلِ

امام ابوالولید باجی مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۴۷۸ھ) اپنے وقت کے ایک عظیم محدث اور فقیہ تھے، حصول علم کے لئے بغداد، دمشق، موصل، مصر وغیرہ کا سفر کیا، وہاں کے جید علماء سے علم سیکھا، موصل میں فقه و اصول فقه کی تعلیم وہاں کے قاضی ابو جعفر اسمانی رحمہ اللہ سے حاصل کی، تیرہ سال تک حصول علم میں مگن رہنے کے بعد واپس لوٹ کر علمی اور عملی میدان میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے لگے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے ترجمہ کا آغاز ان القبابات کے ساتھ کیا ہے:

الإمام، العلامة، الحافظ، ذو الفنون، القاضي.

امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی تفصیلی حالات اور تصانیف کا ذکر کیا ہے، دیکھئے: ②
یہ کتاب عبدالمحیمد ترکی کی تحقیق سے ۱۳۰ھ میں طبع ہوئی ہے۔

۱۳ اللمع فی أصول الفقه

یہ امام ابواسحاق شیرازی رحمہ اللہ (متوفی ۴۷۶ھ) کی تصنیف ہے، ان کی تصانیف

① سیر أعلام النبلاء: ترجمة: أحمد بن الحسين بن على البیهقی، ج ۱۸ ص ۱۶۸،

۱۶۹ / تذكرة الحفاظ: ج ۳ ص ۲۲۰

② سیر أعلام النبلاء: ترجمة: أبوالولید الجاجی سلیمان بن خلف، ج ۱۸ ص ۳۶۱ تا ۵۲۱

میں مشہور ”طبقات الفقهاء“ ہے۔ ”اللمع“ مندرجہ ذیل مباحث پر مشتمل ہے:

الکلام فی الأمر والنہی، الکلام فی المجمل والمیین، الکلام فی النسخ، الکلام فی الإجماع، الکلام فی القياس، الکلام فی التقلید، الکلام فی الاجتہاد.

(۱۳۲) صفحات پر مشتمل یہ کتاب ۱۳۲۳ھ میں ”دار الكتب العلمية“ سے شائع ہوئی ہے۔

علامہ شیرازی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی خود شرح لکھی، جو ”شرح اللمع“ اور ”الوصول إلى مسائل الأصول“ کے نام سے شائع ہوئی ہے، یہ شرح دو جلدوں میں عبدالمجید ترکی کی تحقیق کے ساتھ ”دار الغرب الإسلامی“ بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ ان کی ایک تصنیف ”الملخص فی الجدل“ ہے، جس میں انہوں نے عموم، خصوص، امر، نہی، ناسخ و منسوخ، اصل، فرع، علت، استحسان، استصحاب اور استصلاح پر بحث کی ہے۔ محمد یوسف اخوند نے اس کتاب پر تحقیق و تعلیق کر کے ”جامعہ ام القری“ سے ۱۴۰۷ھ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے۔

مصطف نے اپنی کتاب کا اختصار ”المعونة فی الجدل“ کے نام سے کیا، یہ اختصار عبدالمجید ترکی کی تحقیق کے ساتھ ۱۴۰۸ھ میں شائع ہوا ہے۔

۱۳..... البرهان فی أصول الفقه

امام الحریمین جوینی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۷۸ھ) فقیہ، اصولی، متكلّم اور کئی علوم میں دسترس رکھتے تھے، اپنے والد شیخ ابو محمد الجوینی اور قاضی حسین رحمہما اللہ سے تفقہ حاصل کیا، استاذ ابو القاسم الاسکاف الاسفرائیینی رحمہ اللہ سے علم الاصول کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تقریباً چار سال تک درس دیا، اس وجہ سے ان کا لقب ”امام

الحرمین، پڑ گیا۔ یہ کتاب نئے طریقے اور نئے اسلوب پر تالیف کی گئی، آٹھویں صدی ہجری کے شافعی عالم علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۷ھ) جو ”البرهان“ سے قبل لکھی گئی کتب پر آگاہ تھے انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا اور کہا:

إن هذا الكتاب وضعه إمام الحرمين في أصول الفقه على أسلوب

غريب لم يقتد فيه بأحد. ①

ترجمہ: امام الحرمین نے اصول فقه میں ایک انوکھے طرز پر کتاب تصنیف کی، اس میں انہوں نے کسی کی اقتداء نہیں کی (یعنی اپنی اختراعی ترتیب کی تصنیف کی ہے)۔

یہ کتاب اصول فقه کی چار بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے، اس کتاب میں مندرجہ ذیل پانچ عنوانات پر تفصیلی مباحث ہیں:

۱.....البيان ۲.....الإجماع ۳.....القياس ۴.....الاستدلال ۵.....الترجيح
علامہ ابو الحسن علی بن اسماعیل بن علی بن عطیہ ابیاری تلکانی رحمہ اللہ (متوفی ۲۱۶ھ)
نے ”التحقيق والبيان فی شرح البرهان“ کے نام سے اس کتاب کی مفصل شرح لکھی۔ امام الحرمین رحمہ اللہ کی ایک تصنیف ”الورقات“ ہے، (۳۱) صفحات پر مشتمل اس رسالے میں امر، نہی، خاص، عام، محمل، ظاہر، موقول، شیخ، اجماع، قیاس اور اجتہاد کی تعریفات اور مختصر وضاحت ذکر کی ہے، اس کتاب کی کئی اہل علم نے ثروحات لکھی ہیں،
ویکھئے تفصیلًا: ②

۵ أصول البزدوى

علامہ فخر الاسلام بزدوى رحمہ اللہ (متوفی ۲۸۲ھ) فروع و اصول، فقه و حدیث،

① طبقات الشافعیۃ الکبری: ترجمہ: عبد الملک بن عبد اللہ بن یوسف، ج ۵ ص ۱۹۲

② کشف الظنون: ج ۲ ص ۲۰۰۵

مناظرہ و کلام، وغیرہ تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل کر کے مرجع خلائق بنے، علامہ عبدالجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) آپ کے متعلق لکھتے ہیں:

البزدوى الإمام الكبير، الجامع بين أشتات العلوم، إمام الدين فى الفروع والأصول، له تصانيف كثيرة معتبرة، وكتاب كبير فى أصول الفقه

مشهور بأصول البزدوى معتبر معتمد۔ ①

ترجمہ: امام بزدوى (اپنے دور کے) بڑے امام تھے، مختلف علوم کے جامع اور اصول و فروع میں امام تھے، ان کی بہت سی تصانیف ہیں جو معتبر ہیں۔ ان کی اصول فقہ میں مشہور کتاب ”أصول البزدوى“ ہے، جو معتبر اور قابل اعتماد ہے۔

امام فخر الاسلام بزدوى رحمہ اللہ نے جس طرح ایک مشکل عبارت کے اسلوب کو اپنایا تو ان کی عبارت کے فہم میں صعب و عسر کی بنا پر ان کا لقب ”ابوالعسر“ پڑ گیا، مگر دوسرا طرف ان کے ایک حقیقی بھائی جن کا نام محمد تھا، انہوں نے بھی اصول اور دیگر فنون میں کتب تالیف کیں مگر اپنے بھائی فخر الاسلام کے بر عکس انہوں نے نہایت سلیس، صاف اور واضح عبارتوں میں بات کرنے کے اسلوب کو اختیار کیا، ان کا یہ اسلوب اہل علم کو اتنا آسان لگا کہ ان کا لقب ”ابوالیسر“ رکھا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ فخر الاسلام نے تعلیم اور اس اسلوب کو متعارف کرانے کی غرض سے ایسا کیا ہوا اور پھر انہی کے مشورے سے ان کے بھائی نے نہایت سلیس، صاف اور واضح عبارات میں اصول فقہ کے مسائل کو پیش کیا تا کہ دونوں طریقوں پر اصول فقہ میں خدمات کا شرف ان کے خاندان کو حاصل ہو جائے۔ علامہ طاش کبری زادہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وللإمام فخر الإسلام البزدوى أخ مشهور بأبى اليسير ليسرت تصنيفاته

کما ان فخر الإسلام مشهور بأبی العسر لعسر تصنیفاتہ۔ ①
 امام بزدوى رحمه اللہ کی اصول بزدوى میں موجود روایات کی تخریج علامہ قاسم بن قطلو بغار رحمه اللہ (متوفی ۸۷۹ھ) نے ”تخریج الأحادیث من اصول البزدوى“ کے نام سے کی۔ اس کتاب پر لکھی گئی شروحات کی تعداد بیس سے زائد ہے، لیکن سب سے زیادہ معروف، مفصل و مدلل اور محقق شرح علامہ عبد العزیز بخاری رحمه اللہ (متوفی ۳۰۷ھ) کی ”کشف الأسرار شرح اصول البزدوى“ ہے۔

اس کتاب کی ایک شرح علامہ حسین بن علی المعروف حسام الدین سغناقی رحمه اللہ (متوفی ۱۱۷ھ) کی ”الكافی شرح البزدوى“ ہے۔ شیخ محمد فخر الدین سید محمد قانت نے اس پر نہایت مفید تحقیق و تعلیق کر کے دکتورہ کی ڈگری حاصل کی ہے، یہ کتاب ۵ جلدیں میں ”مکتبۃ الرشد“ سے ۱۳۲۲ھ میں طبع ہوئی ہے۔ علامہ قوام الدین امیر کاتب اتقانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۸۷ھ) نے ”الشامل“ کے نام سے مفصل شرح لکھی۔

علامہ اکمل الدین بابری رحمه اللہ (متوفی ۸۶۷ھ) نے ”التقریر“ کے نام سے اس کتاب کی شرح لکھی۔ ②

۱ اصول السرخسی

علامہ شمس الائمه سرخسی رحمه اللہ (متوفی ۲۸۳ھ) نے یہ کتاب قید و بند کی صعوبتوں کے زمانے میں کنویں سے زبانی املاء کروائی ہے، کتاب کے مقدمہ میں اس کی صراحت موجود ہے:

① مفتاح السعادة: ج ۲ ص ۱۳۱

② الفتح المبين: ج ۲ ص ۱۷۲، ۲۰۱ / هدیۃ العارفین: ج ۲ ص ۱۷۱ / معجم

الأصولین: ج ۱ ص ۲۸۵

قال الشیخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمّة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسی أملی فی یوم السبت سلخ شوال سنة تسع وسبعين وأربع مائة فی زاویة من حصار أو زجند.

اس کتاب میں مندرجہ ذیل موضوعات کا قدر تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے:
 امر، نہی، اسباب شرائع، عزیت، رخصت، خاص، عام، الفاظ عموم، حقیقت، مجاز،
 صریح، کنایہ، سبب، رکن، اہلیت، شرط، علت، حروف مستعملہ، متواتر، مشہور، خبر واحد،
 اجماع، بیان کی اقسام، شیخ، افعال النبی، شرائع من قبلنا، استحسان، معارضہ، اہلیت اداء
 وغیرہ اہم موضوعات کو حسن ترتیب سے ذکر کیا ہے۔

یہ کتاب دکتور فیض الجم کی تحقیق کے ساتھ "قدیمی کتب خانہ" سے دو جلدیں میں طبع ہے۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے ایک بلند پایہ فقیہ تھے، ان کی تصانیف فقہ اور اصول پر محیط ہیں، انہوں نے فقہ کی مشہور و مختینم کتاب "المبسوط" اپنے شاگردوں کو اس وقت املاء کرائی جب انہیں ایک کنویں میں قید کر دیا گیا تھا، اس زمانے میں ان کے تلامذہ کنویں کی منڈیر پر جمع ہو جاتے اور بغیر کسی کتاب و مراجع کے املاء کراتے جاتے اور شاگرد لکھتے رہتے۔ شمس الائمہ کو حاکم وقت خاقان نے کنوں نما گڑھے میں قید کیا تھا، ڈاکٹر صلاح الدین منجد نے "شرح السیر الكبير" کے مقدمہ میں ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ خاقان نے اپنی کنیز کو آزاد کر کے عدت سے پہلے ہی اس سے نکاح کر لیا تھا، امام سرخسی رحمہ اللہ نے ان کے اس فعل پر اعتراض کیا، جس کی پاداش میں اس ظالم و جابر شخص نے تکبر اور رعنونت کے عالم میں ایسی مقدس شخصیت کو نہایت برابریت کے ساتھ قید کر لیا، کئی سال تک آپ اس کنویں میں قید رہے، اسی قید و بند کی صعوبتوں اور تکلیفوں کے دوران آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "المبسوط" جو تیس (۳۰) جلدیں میں ہے زبانی محض اپنے حافظے سے املاء کروائی۔ کسی نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو تین سو گرا سے (یعنی کا پیاں) حفظ تھیں،

آپ نے فرمایا ”حفظ الشافعی زکوہ محفوظی“، یعنی مجھے جتنا یاد ہے امام شافعی کو اس کی زکوہ یاد تھی۔

علامہ طاش کبری زادہ فرماتے ہیں کہ انہیں بارہ ہزار کا پیاس حفظ تھیں۔ ①

۱ المنخول من تعليقات الأصول

جیۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ (متوفی ۵۰۵ھ) نے اصول فقہ پر مندرجہ ذیل کتب اور رسائل لکھے ہیں:

المنخول، المستصفى، شفاء الغليل، منتخل في علم الجدل، تحصين المأخذ، مأخذ في الخلافيات، مفصل الخلاف في أصول القياس.

”المنخول“ امام غزالی رحمہ اللہ کی ابتدائی کتابوں میں سے ہے، جوان کی جوانی کے زمانے کی کتاب ہے۔ ابتدائی زمانے میں ان میں مجادله، مذاخرہ، نکتہ چینی، خود پسندی تھی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اپنی علمی زندگی کے آغاز پر تصنیف کیا اور بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی تدریس کے زمانہ میں اپنے استاد امام الحرمین رحمہ اللہ کی زندگی میں ہی یہ کتاب لکھ دی تھی، ابتدائی زمانے میں آپ مکمل طور پر دراساتِ فلسفہ کی طرف مائل تھے اور ”مقاصد الفلسفہ“ اور ”تهافت الفلسفہ“ جیسی کتب کی تصنیف میں مشغول تھے۔

اس کتاب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں امام غزالی رحمہ اللہ ایک مستقل شخصیت کی روپ میں نظر نہیں آتے بلکہ ان کی حیثیت زیادہ تر اپنے استاد کی آراء کے ناقل و مدافع کی نظر آتی ہے، مگر امام الحرمین رحمہ اللہ سے اس عقیدے و پیروی نے انہیں اپنی رائے کے اظہار سے روک نہیں دیا تھا، وہ ”المنخول“ میں ان سے اعراض بھی کرتے ہیں اور ان کے مسلک کے خلاف کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے امام ابوحنیفہ رحمہ

اللہ پر سخت قلم چلایا ہے اور آپ کے خلاف بڑے نازیبا الفاظ استعمال کئے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ نے ”المنخول“ کے آخر میں ایک فصل کے تحت مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کی دیگر مذاہب پر تقدیم کی وجہ بیان کی اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کا بطلان کیا، جس کی تفصیلات ”المنخول“ میں ”المسلک الشالث فی الكلام علی مخالفات مالک و أبي حنیفة رحمہ اللہ“ کے تحت صفحہ (۳۹۹) میں دیکھی جاسکتی ہیں، ان کو غیر مجتهد کہا اور کہا کہ وہ لغت سے ناواقف ہیں، اور انہوں نے جو مسائل فقہیہ بیان کئے وہ غلط ہیں۔ شاید امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ سب اپنے استاد امام الحرمین رحمہ اللہ کے تسبیح کی پیروی میں کہا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی کتاب ”مغیث الخلق“ میں ایسا ہی کیا تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے زندگی کے اوآخر میں فقہ حنفی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متعلق ان اعتقادات سے رجوع کر لیا تھا جس کا اظہار ان کی کتب ”المستصفی“ اور ”احیاء علوم الدین“ سے ہوتا ہے۔ ”احیاء علوم الدین“ میں آپ نے فرمایا:

وَمَا أَبْوَ حَنِيفَةَ فَلَقَدْ كَانَ أَيْضًا عَابِدًا زَاهِدًا بِاللَّهِ تَعَالَى، خَائِفًا مِنْهُ،
مُرِيدًا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى بِعِلْمِهِ.

امام غزالی رحمہ اللہ نے آپ کی عبادت، زہد، خوفِ خدا، خشیت، امانت و دیانت اور شب بیداری کے متعلق اقوال و حکایات بھی نقل کی ہیں، دیکھئے: ①

”المنخول“ میں بعض مباحث نہایت مختصر ہیں جبکہ بعض بہت طویل ہیں، بعض جگہ تعبیرات نہایت سہل ہیں جبکہ بعض مقامات پر نہایت دقیق ہیں، کتاب میں ایک اسلوب نہیں اختیار کیا گیا ہے، ایک ثلث کتاب ان مباحث پر مشتمل ہے جن کا اصول فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بعض مقامات پر غیر مستند روایات ذکر کی ہیں، جبکہ بعض مقامات پر صحیح

① احیاء علوم الدین: کتاب العلم، الباب الثانی، ج ۱ ص ۲۸، ۲۹

احادیث کو بھی قطعی طور پر کذب قرار دیا ہے:

﴿إِسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (توبہ: ۸۰)

اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ”سازیدہ علی السبعین“ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جھوٹ لکھا ہے:

علیٰ أَنَّ مَا نَقَلَ فِي آيَةِ الْاسْتِغْفَارِ كَذَبٌ قَطْعًا، إِذَا الْغَرْضُ مِنْهُ التَّنَاهِي
فِي تَحْقِيقِ الْيَأسِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ فَكَيْفَ يُظْنَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذہولہ۔ ①

”سازیدہ علی السبعین“ کے حدیث نہ ہونے کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ کو وہم ہوا ہے حالانکہ یہ حدیث صحیح ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، دیکھئے۔ ②

۱۸ المستصفی

امام غزالی رحمہ اللہ (متوفی ۵۰۵ھ) کی یہ کتاب اصول فقہ پر لکھی گئی ارکانِ اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، جس پر اس فن کے لکھنے والوں نے بنیاد رکھی، علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اصول فقہ کی بنیادی کتب میں شمار کیا ہے۔ ③

امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی علمی زندگی کے آخری زمانہ میں اس کو تالیف کیا، جس کی وجہ

① المنخول: کتاب المفہوم، ص ۲۹۶

② صحیح البخاری: کتاب تفسیر القرآن، باب قوله: استغفر لهم او لا تستغفر

لهم إلخ، ج ۲ ص ۲۷۰، رقم الحديث: ۲۷۰

③ مقدمہ ابن خلدون: ص ۲۵۵

سے یہ آپ کے علمی تجربہ کا نچوڑ ہے، جب آپ نے نیشاپور بغداد میں دوبارہ تدریس کا آغاز کیا تو یہ کتاب تالیف کی، اس کتاب کے مقدمہ سے یہی ظاہر ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں:

ثُمَّ ساقَنِيْ قَدْرُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى مَعاوِدَةِ التَّدْرِيسِ وَالإِفَادَةِ، فَاقْتَرَحَ عَلَى

طائفة من طائفة من محصلی علم الفقه تصنیفاً فی أصول الفقه. ①

اس کتاب میں آپ مستقل شخصیت کے مالک نظر آتے ہیں اور اپنی آراء بھی ذکر کرتے ہیں اور اس میں آپ اپنے استاذ امام الحرمین رحمہ اللہ کے اقوال کے ساتھ چھٹے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ بالکل آزاد نظر آتے ہیں۔ یہ کتاب حد درجہ اختصار اور طبیعت پر گراں گزر نے والی طوالت سے پاک ہے، اس میں ان دونوں کے درمیانی راستہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اس میں ”المنخول“ کی طرح حد درجہ اختصار نہیں اور نہ ہی ”تهذیب الأصول“ کی طرح طوالت ہے، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اقْرَأْنَا عَلَى طائفةٍ مِّنْ مُحَصَّلِي عِلْمِ الْفَقَہِ تَصْنِيفًا فِی أَصْوَلِ الْفَقَہِ،
اَصْرَفَ الْعُنَایَةَ فِیهِ إِلَى التَّلْفِیقِ بَيْنَ التَّرْتِیبِ وَالْتَّحْقِیقِ وَإِلَى التَّوْسِطِ بَيْنَ
الْإِحْلَالِ وَالْإِمْلَالِ عَلَى وَجْهِ يَقْعُدُ فِی الْفَهْمِ دُونَ كِتَابٍ ”تَهْذِيبُ الْأَصْوَلِ“
لَمِيلَهِ إِلَى الْاسْتِقْصَاءِ وَالْاسْتِكْشَارِ، وَفَوْقَ كِتَابِ الْمَنْخُولِ لَمِيلَهِ إِلَى
الْإِيجَازِ وَالْإِختْصَارِ فَأَجْبَتْهُمْ إِلَى ذَلِكَ مُسْتَعِنِينَ بِاللَّهِ وَجَمِيعُهُ فِیهِ بَيْنَ
التَّرْتِیبِ وَالْتَّحْقِیقِ لِفَهْمِ الْمَعْنَیِ. ②

امام غزالی رحمہ اللہ نے ”المستصفی“ کو ایک مقدمہ اور چار اقطاب پر مرتب کیا، مقدمہ تمہید کی مانند ہے، چار اقطاب مقصود کے خلاصہ و ذکر پر مشتمل ہیں۔ اصول فقہ کی اس کتاب کا مقدمہ منطق کے متعلق ہے، آپ کی رائے یہ ہے ”من لا يحيط بها فلا ثقة“.....

① المستصفی: مقدمة، ص ۲

② المستصفی: مقدمة، ص ۲

بعلومہ اصلاً، جو اس منطقی مقدمہ کا احاطہ نہ کرے اس کے علم کا اہل علم کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اس کتاب کے مسائل بیان کرنے میں توازن نہیں رکھ پائے، بعض مسائل اور ان کے اعتراضات و جوابات اور شبہات کے ازالہ میں بھی طویل بحث کرتے ہیں، مثلاً قیاس کے مانعین کے شبہات کے ازالہ کے وقت ان کی یہی کیفیت نظر آتی ہے، جبکہ بعض مسائل کے بیان میں وہ انتہائی اختصار اور وقت سے کام لیتے ہیں، مثلاً مطلق و مقید کی مکمل بحث، اس کے مسائل و تشریح کو صرف نصف صفحہ میں بیان کر دیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ”المستصفی“ میں ان آراء سے بھی گریز کیا جو گوشہ نشینی کے زمانے میں اختیار کی تھیں جب آپ عبادت و ریاضت میں مگن تھے اور تصوف کا غالبہ تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ”المستصفی“ کو اپنی وفات سے ایک سال قبل یعنی ۵۰۲ھ/۱۱۲۳ھ میں تصنیف کیا۔ یہ کتاب محمد عبد السلام عبد الشافی کی تحقیق کے ساتھ ۱۳۱۳ھ میں ”دار الكتب العلمیة“ سے شائع ہوئی ہے۔

اس کتاب پر کچھی گئی شروحات، تعلیقات اور اختصارات کے لئے دیکھئے: ①

اس کتاب کا معروف اختصار علامہ ابن رشد رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۵ھ) نے ”مختصر المستصفی“ کے نام سے کیا، جس کا تعارف ان شاء اللہ آگے آرہا ہے۔

۹ الواضح فی أصول الفقه

امام ابوالوفاء بن عقیل حنبلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵ھ) نے ابویعلی بن الفراء سے تفقہ حاصل کیا اور ابوالولید معقری سے اصول کی تعلیم حاصل کی، شروع میں مذهب معزلہ کی جانب میلان رکھتے تھے بعد میں مذهب حنابلہ کو اختیار کر لیا، مگر اس کے باوجود بھی ان کے عقیدہ میں مذهب معزلہ کا اثر باقی رہا، اپنے زمانے کے ”قطب الاعلام“ تھے۔ یہ کتاب تین

قسموں پر مشتمل ہے:

القسم الأول: أصول الفقه، القسم الثاني: في الجدل، القسم الثالث: مسائل الخلاف.

أصول فقه کے مباحث نہایت تفصیل کے ساتھ فصول کی ترتیب پر قسم ثالث کے تحت ذکر کی ہیں، یہ کتاب دکتور عبد اللہ بن عبد الحسن ترکی کی نہایت گراں قد ر تحقیق و تعلیق کے ساتھ ۱۴۲۰ھ میں پانچ جلدیوں میں ”مؤسسة الرسالة“ سے شائع ہوئی ہے۔

اس کے علاوہ آپ کی ایک کتاب ”الفنون“ ہے جس میں فقه، اصول فقه، علم کلام اور بہت سے علوم سے کثیر و عظیم فوائد جمع کئے، یہ کتاب ۳۰۰ سے زائد جلدیوں پر مشتمل تھی، دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے:

لَا تصنِيفٌ فِي الدُّنْيَا أَكْبَرُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ①

۲۰ المنهاج فی الأصول

علامہ جاراللہ زمخشیری (متوفی ۵۳۸ھ) کی تصنیفات میں زیادہ معروف تفسیر کشاف ہے، باوجود تلاش کے مجھے ان کی کتاب ”المنهاج فی الأصول“ کہیں سے دستیاب نہیں ہوئی، البته حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے: ②

۲۱ مختصر المستصفی

امام ابوالولید محمد بن رشد مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۵ھ) اپنے وقت کے ایک بلند پایہ عالم تھے، فقہاء اور قضاۃ کے گھرانے میں نشوونما پائی، آباء و اجداد مالکی مذهب کے انہم میں

① إيضاح المكتوب: ج ۳ ص ۸۵ / هدية العارفين: ج ۵ ص ۲۹۵ / الفتح المبين: ج ۲

ص ۱۲، ۱۳ / سیر أعلام النبلاء: ج ۱۹ ص ۲۲۵

② كشف الظنون: ج ۲ ص ۱۸۷

سے تھے، علامہ ابن رشد رحمہ اللہ نے امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب کا اختصار کیا ہے، اور مزید اضافات بھی کئے ہیں، علامہ ابن رشد رحمہ اللہ نے ”مختصر المستصفی“ کے مقدمہ میں اس کتاب کے لکھنے کا سبب ان الفاظ میں بیان کیا:

فِإِنْ غَرْضِي فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنْ أُثْبِتَ لِنفْسِي عَلَى جِهَةِ التَّذْكُرَةِ مِنْ
كِتَابِ أَبِي حَامِدِ فِي أَصْوَلِ الْفَقْهِ الْمُقلَبِ بِالْمُسْتَصْفَى جَمْلَةً كَافِيَةً
بِحَسْبِ الْأَمْرِ الْمُضْرُورِ فِي هَذِهِ الصَّنَاعَةِ۔ ①

علامہ ابن رشد رحمہ اللہ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے منیج اصولیہ کے میدان میں امام غزالی رحمہ اللہ کی نص پر اضافہ کر کے اس کی تہذیب و تکمیل کی۔ علامہ ابن رشد رحمہ اللہ نے اپنی اس مختصر میں ”طریقة المتكلمين“ اور ”طریقة الفقهاء“ کے بجائے ایک تیرا طریقہ اپنایا جس کو ”طریقة الفلاسفہ“ کا نام دیا جاسکتا ہے۔

اس کتاب کے حوالے سے دونیادی امور ہیں جن میں دونوں کی مختلف آراء ہیں:
(۱) علامہ ابن رشد رحمہ اللہ نے منطق کو اصول فقہ میں داخل کرنے کی وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ پر اعتراض کیا۔ موصوف فرماتے ہیں:

وَنَحْنُ فَلَنْتَرَكُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، فِإِنْ مَنْ رَامَ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَشْيَاءً
أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَلَا وَاحِدًا مِنْهَا۔ ②

ترجمہ: ہم ہر شی کو اس کے مناسب و موزوں موقع کے لئے چھوڑ دیں اور جو چاہے کہ ایک وقت میں ایک سے زائد اشیاء سیکھے تو ان (سب) کا سیکھنا اس کے لئے ممکن نہیں ہوگا اور وہ ایک بھی نہیں سیکھ سکے گا۔
.....

① مختصر المستصفی: ص ۳۲

② مختصر المستصفی: مقدمة المصنف، ص ۳۸

(۲) فقہی نظریات و افکار کے اظہار میں دونوں ایک دوسرے سے جدا گانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ایک شافعی ہے اور دوسرا مالکی، یہ کتاب درحقیقت اختصار نہیں بلکہ جگہ جگہ امام غزالی رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرہ و مناقشہ معلوم ہوتا ہے، علامہ ابن رشد رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ۵۵۲ھجری میں تالیف کیا، یہ ان کی ابتدائی مؤلفات میں سے ہے، اس کتاب کا ذکر علامہ ابن رشد رحمہ اللہ نے اپنی ایک اور کتاب ”بداية المجتهد“ میں کیا اور کہا:

وقد تكلمنا في العمل (عمل أهل المدينة) وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدعى بأصول الفقه.

محمد بن علی بن عفیف رحمہ اللہ نے علامہ ابن رشد رحمہ اللہ کی ”مختصر المستصفی“ کی ۶۰۶ھ میں تخصیص کی ہے۔

۲۲..... منهاج الوصول إلى علم الأصول

علامہ ابن حوزی حنبلی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۹ھ) اپنے وقت کے ایک عظیم محدث، فقیہ، واعظ، مورخ اور بہت سے علوم میں پیدھولی رکھنے والے تھے، فقہ کی تعلیم ابن زاغونی وغیرہ سے حاصل کی، خلق کثیر نے آپ سے استفادہ کیا جن کا شمار ممکن نہیں، آپ کی مجلس وعظ میں تقریباً دس ہزار سامعین ہوتے تھے۔ آپ کی مؤلفات کی تعداد (۳۲۰) سے زائد بتائی جاتی ہے، اصول فقہ پر ”منهاج الوصول إلى علم الأصول“، تصنیف کی، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے:

لیکن مجھے یہ کتاب نہیں ملی۔

① بدايه المجتهد ونهائي المقصود: كتاب الصلاة، الباب الأول، ج ۱ ص ۱۰۹

② مختصر المستصفی لابن رشد: مقدمة، ص ۷۶

③ کشف الظنون: ج ۲ ص ۱۸۷۹

٢٣ المحسول من أصول الفقه

امام فخر الدین رازی شافعی رحمہ اللہ (متوفی ٦٠٦ھ) مفسر، فقیہ، اصولی، متكلّم، ادیب، شاعر، حکیم، فیلسوف اور فلکی تھے، آپ امراء و علماء میں ممتاز مقام رکھتے تھے، فقه و اصول کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، حصول علم کے لئے خوارزم، ماوراء النہر اور خراسان کے سفر کئے، آپ کی اصول فقه اور ان پر متعلقات پر درج ذیل کتب و رسائل کے نام ملتے ہیں:

إبطال القياس، إحكام الأحكام، الجدل، رد الجدل، الطريقة في الجدل، الطريقة العلائية في الخلاف، عشرة آلاف نكتة في الجدل، المحسول في أصول الفقه، المعالم في أصول الفقه، المنتخب (أو) منتخب المحسول، النهاية البهائية في المباحث القياسية، أسرار التنزيل وأنوار التأویل، كتاب أحكام الأحكام، المحسول من أصول الفقه.

”إبطال القياس“، اس کتاب کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیاس کے انکار پر ہے اسی وجہ سے مولانا عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”امام رازی“ میں لکھا کہ یہ کتاب قیاس کے بطلان میں ہے اور نامکمل ہے۔ ①

مگر درست بات یہ ہے کہ اس بارے میں امام رازی رحمہ اللہ کا موقف واضح ہے وہ قیاس کو جحت تسلیم کرتے ہیں۔ ”المحسول“ میں وہ قیاس کے بارے میں علماء کے مختلف مذاہب ان کے دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، آخر میں اپنا مسلک و موقف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

والذى نذهب إليه وهو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين

أن القياس حجة في الشرع. ②

① امام رازی: ص ٢٢

② المحسول من أصول الفقه: الكلام في القياس، المسألة الثالثة، ج ٥ ص ٢٢

اسی طرح ”تفسیر کبیر“ بھی میں امام رازی رحمہ اللہ سے قیاس کا شرعی جحت ہونا ہی ظاہر ہوتا ہے، مثلاً وہ آیت ”فَاعْتَبِرُوا يَا أَوْلَى الْأَبْصَارِ“ کے تحت فرماتے ہیں:

اعْلَمُ أَنَا قَدْ تَمَسَّكْنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي كِتَابِ الْمُحْصُولِ مِنْ أَصْوَلِ الْفَقَہِ

علیٰ أَنَّ الْقِيَاسَ حَجَةٌ فَلَا نَذْكُرُهُ هُنَّا۔ ①

امام رازی رحمہ اللہ کی اصول فقہ یا اُن کے متعلقات پر لکھی گئی کتابوں میں مجھے صرف اُن کی دو کتابیں ”المحصول“ اور ”المعالم“ ملی ہیں، بقیہ شاید کوئی کتاب مطبوع نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

امام رازی رحمہ اللہ کی ”المحصول“ اصول فقہ کی اہم کتب میں سے ہے، اور اس کو شہرت بھی حاصل رہی، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ امام رازی رحمہ اللہ نے اس فن میں سابقین سے جو کچھ منقول تھا سب کو اس میں جمع کر دیا، اور امام رازی رحمہ اللہ کے بعد جو اس فن میں لکھا گیا وہ اس سے منتخب اور محصول تھا، بالفاظ دیگر ”المحصول“ اصول فقہ کی ان اہم ترین کتب سے مانوذ ہے جو امام رازی رحمہ اللہ سے قبل تعبیر کے فضح اسالیب اور ترتیب و تہذیب کے اعلیٰ طرق پر لکھی گئی تھیں، امام رازی نے صرف نقل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی آراء کا اضافہ کیا اور پھر ان افکار و آراء سے بہترین نتائج نکالے۔ یہ کتاب طہ جابر فیاض علوانی، عادل احمد عبد الموجود اور علی محمد معوض کی تحقیق کے ساتھ طبع ہے۔

امام رازی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ۶۵ھ میں صرف ۳۲ سال کی عمر میں لکھا، امام رازی رحمہ اللہ کا مخذلہ چار کتابیں ہیں ”العمد، المعتمد، البرہان، المستصفی“ اس کتاب کی جامعیت اور افادیت نے کافی حد تک متقدیں سے بے نیاز کر دیا ہے، اس میں سابقہ کتب کی وہ تمام مباحث تہذیب و ترتیب کے ساتھ ہیں جن کی اصول فقہ پڑھنے

پڑھانے والوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کتاب میں مندرجہ ذیل موضوعات پر تفصیلی مباحث ہیں:

حکم شرعی کی وضاحت، احکام شرعیہ کی تقسیم، اشیاء میں حسن و فتح، قبل الشرع اشیاء کا حکم، لغت، امر، نہی، عام، خاص، عام میں تخصیص، مجمل، مبین، مطلق، مقید، عصمت انبیاء، افعال رسول، ناسخ منسوخ، اجماع کی جیت، مراتب، اجماع کا حکم، متواتر، مشہور اور خبر واحد پر تفصیلی گفتگو، مقدمات ترجیح، اجتہاد کی حقیقت، مجتہد کی ذمہ داریاں، مفتی و مستفتی سے متعلق تین اقسام پر مشتمل تفصیلی مباحث اور دیگر بھی کئی مفید مضامین عام فہم انداز میں جامعیت کے ساتھ یکجا ہیں۔ اس کتاب پر کثرت کے ساتھ شروحات، تعلیقات اور اختصارات لکھے گئے، تفصیل آدیکھنے: ①

اس کتاب کی معروف و متدوال شروحات دو ہیں:

ا..... ”نفائس الأصول فی شرح المحسول“ علامہ شہاب الدین احمد بن ادریس قرافی رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۳ھ) نے تیس کتابوں سے استفادہ کر کے (۳۱۲۱) صفحات پر مشتمل ایک علمی و محققانہ شرح لکھی، مصنف ایک جید مالکی عالم ہیں، آپ کی تین تصانیف اہل علم کے درمیان معروف ہیں:

(۱) *أنوار البروق في أنواع الفروق* (۲) *الذخيرة* (۳) *الإحکام في تمییز الفتاوی عن الأحكام وتصرف القاضی والإمام*، علامہ قرافی رحمہ اللہ کی ”نفائس الأصول“ شیخ عادل احمد عبد الموجود اور علی محمد معوض کی تحقیق کے ساتھ نوجلدوں میں ”مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز“ سے ۱۴۲۶ھ میں شائع ہوئی ہے، نیز موصوف نے ”تنقیح الفصول“ کے نام سے ”المحسول“ کا اختصار بھی کیا ہے۔

(۲) ”نهاية الوصول إلى علم الأصول“ علامہ محمد بن عبد الرحیم بن محمد ارمومی رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۷ھ) یہ شرح صالح بن یوسف اور سعد بن کی تحقیق کے ساتھ آٹھ جلدیں میں ”مکتبۃ التجاریۃ“ مکہ مکرمہ سے شائع ہوئی ہے۔

علامہ تاج الدین ارمومی رحمہ اللہ (متوفی ۶۵۶ھ) نے ”المحصول“ کا اختصار ”الحاصل من المحصول“ کے نام سے کیا، یہی ”الحاصل“ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۵ھ) کی ”منهاج الوصول“ کا مخذلہ ہے، ”الحاصل“ عبدالسلام محمود ابو ناجی کی تحقیق کے ساتھ ”جامعہ یونس“ سے ۱۹۹۲ھ میں شائع ہوئی ہے۔

۲۳ المعالم فی أصول الفقه

علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۱ھ) نے امام رازی رحمہ اللہ کی اصول فقه پر تصانیف میں صرف دو کتابوں کا ذکر کیا ہے:

”وفي أصول الفقه المحصول والمعالم“ ①

علامہ طاش کبری زادہ اور حاجی خلیفہ رحمہما اللہ نے بھی اس کتاب کا ذکر کیا۔ ②

علامہ الدین علی بن اسماعیل بن یوسف القونوی شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۹ھ) نے اس کتاب کا اختصار ”اختصار المعالم فی الأصول“ کے نام سے کیا۔

”المعالم“ کے رد پر کتاب ابوالمطرف احمد بن عبد اللہ بن محمد بن حسن بن عمیرہ (متوفی ۶۵۸ھ) نے ”رد على كتاب المعالم للإمام فخر الدين الرازي“ تالیف کی۔ امام ابواسحاق ابراہیم بن محمد خزر جی النصاری (متوفی ۷۰۹ھ) نے ”رفع المظالم من كتاب المعالم“ کے نام سے کتاب لکھی، دراصل یہ کتاب ابوالمطرف بن عمیرہ رحمہ

① وفيات الأعيان: ترجمة: فخر الدين الرازي، ج ۲ ص ۲۲۹

② مفتاح السعادة: ۵۹۹ / ۲ / كشف الظنون: ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۶ / ۲

اللہ کی کتاب ”رد علی کتاب المعلم“ کا جواب ہے، امام ابوالمطر رحمہ اللہ نے امام رازی رحمہ اللہ کی ”المعالم“ پر اعتراضات کئے، امام ابواسحاق انصاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھ کر امام رازی رحمہ اللہ کا دفاع کیا، اور ان اعتراضات کے مفصل جوابات دیئے، کتاب کے نام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ①

امام رازی رحمہ اللہ ”المعالم“ میں حد درجہ اختصار سے کام لیتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس عبارت میں مطلوب بھی مکمل ادا ہو جائے اور اس کا کوئی پہلو چھوٹے بھی نہ پائے، یہ کتاب دس ابواب پر اور ہر باب مسائل پر مشتمل ہے:
پہلا باب لغات کی بحث میں ہے، اس کے تحت نو مسائل لائے ہیں، پہلا مسئلہ تقسیمات الفاظ میں ہے۔

دوسرا باب اوصاف و نواہی کے بیان میں ہے، اس کے ضمن میں بیس مسائل پیش کئے ہیں۔
تیسرا باب عام خاص کے بیان میں ہے، جس کے تحت دس مسائل ذکر کئے، پہلا مسئلہ مطلق و عام کے مابین فرق میں ہے۔
چوتھا باب محمل و مبین کی بحث میں ہے۔

پانچواں باب افعال میں ہے جو دو فصلوں پر مشتمل ہے۔
چھٹا باب نسخ سے متعلق ہے، اس کے تحت چار مسائل ذکر کئے، پہلا مسئلہ اس میں ہے کہ نسخ کے جواز پر مسلمانوں کا اتفاق ہے جبکہ یہود نے اس کی مخالفت کی ہے۔

ساتواں باب اجماع سے متعلق ہے اس کے ضمن میں چار مسائل بیان کئے، پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ امت کا اجماع جحت ہے نظام و خوارج کا اس میں اختلاف ہے۔

آٹھواں باب اخبار کے بیان میں ہے جو دس مسائل پر مشتمل ہے، پہلے مسئلے میں یہ

ہے کہ جمہور کے مطابق خبر صدق و کذب کا احتمال رکھتی ہے، مگر امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ باطل ہے۔

نوال باب قیاس کی بحث میں ہے جو آٹھ مسائل پر محیط ہے۔

دوال باب کتاب کا آخری باب اس علم کے بقیہ مباحث پر کلام کے لئے مختص ہے جس میں صرف تین مسائل ہیں۔

یہ کتاب شیخ عادل احمد عبد الموجود اور شیخ علی محمد معوض کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ ۱۴۱۲ھ میں ”دار المعرفة“ قاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔

٢٥ روضة الناظر و جنة المناظر

علامہ ابن قدامہ المقدسی حنبلی رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۰ھ) اپنے زمانے کے مشہور فقیہ و محدث تھے اور کئی فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ حنبلی فقہ کی مشہور کتاب ”المغنی فی شرح مختصر الخرقی“ دس جلدوں میں تالیف کی، نیز چار جلدوں میں ”الكافی فی فقه الإمام أحمد“ تالیف کی، آپ کی تصنیفات میں ”التوابین“ اور ”الرقۃ والبكاء“ بھی اہل علم کے درمیان معروف ہے۔ کثیر الصیام والقیام تھے، اسی برس کی عمر میں عید الفطر کے دن انتقال ہوا۔


شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں:

ما دخل الشام بعد الأوزاعی أفقه من ابن قدامة.

امام ابوکبر محمد بن معانی بن غنیمہ بغدادی رحمہ اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں:

ما أعرَفُ أحداً فِي زَمَانِنَا أَدْرَكَ دَرْجَةَ الاجْتِهَادِ إِلَّا المُوفَّقُ.

یہ کتاب حنبلی مذہب کے اصول فقہ پر مشتمل ہے، اس کتاب کا آغاز مقدمات منطقیہ سے ہوتا ہے، یہ کتاب چار ابواب پر مشتمل ہے:



الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه

الباب الثاني: في أدلة الأحكام

الباب الثالث: النسخ

الباب الرابع: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم

پھر اس کے بعد اجماع، قیاس اور اجتہاد سے متعلق تفصیلی مباحث ذکر کئے ہیں۔

نہایت علمی و تحقیقی معلومات پر مشتمل یہ کتاب دو جلدوں میں ”مؤسسة الرسالة“

سے شائع ہوئی ہے۔ رقم کی رائے کے مطابق فقہ کے طالب علم کے لئے مصنف کی ان دو

کتابوں کا مطالعہ نہایت ضروری ہے:

١ المغني ٢ روضة الناظر

اس کتاب کی مفید شرح شیخ عبدالقدیر بن احمد بن مصطفی بدران دمشقی کی ”نُزَّهَةُ الْخَاطِرِ
الْعَامِرِ“ ہے، جو اصل کتاب کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ نیز علامہ نجم الدین طوفی صرصی

رحمہ اللہ (متوفی ۱۶۷ھ) نے ”روضۃ الناظر“ کا اختصار ”مختصر روضۃ الموفق
فی الأصول علی طریقہ ابن الحاجب“ کے نام سے کیا، پھر اس اختصار کی شرح
علامہ احمد ابراہیم بن نصر اللہ عسقلانی رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۷ھ) نے ”شرح مختصر

الطوی“ کے نام سے کی۔ ①

٣٦ الإحکام فی أصول الأحكام

علامہ سیف الدین الامدی شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۶۳۱ھ) فقیر اور اصولی تھے، شروع

میں خنبی تھے پھر بغداد جا کر شافعی مسلک اپنایا، آپ کی تصنیف میں زیادہ معروف

”الإحکام فی أصول الأحكام“ ہے۔

① الفتح المبين: ج ۲ ص ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۱ / معجم الأصوليين: ج ۱ ص ۷۸، ۷۹

علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۸ھ) نے لکھا ہے کہ یہ کتاب ان چار کتابوں کا اختصار ہے، جو اس فن کی امہات کتابیں ہیں یعنی عبدالجبار کی "العمد"، ابوالحسین البصري کی "المعتمد"، امام الحرمین کی "البرهان" اور امام غزالی کی "المستصفی" کا۔ ① "الإحکام" میں انہوں نے اولاً کلامی و لغوی مبادیات بیان کئے، لفظ کی انواع اور اس کی حقیقت پر کلام کیا، پھر مبادیات فقه اور احکام شرعیہ اور حکم کی اقسام اور ادله احکام پر گفتگو کی، پھر عام، خاص، دلالت، مفہوم و تخصیص اور ان کی انواع پر بحث کی، مطلق، مقید، مجمل، ناسخ و منسوخ، قیاس کی اقسام و انواع اور پھر شافعیہ وغیرہ کے نزدیک حدود و کفارات کے قیاس سے اثبات پر بحث کی، پھر استصحاب، قول صحابی، استحسان، مصالح مرسلہ اور اجتہاد و تقید پر گفتگو کی۔

یہ کتاب بنیادی طور پر چار قواعد پر مشتمل ہے:

القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده.

القاعدة الثانية في بيان الدليل وأقسامه وما يتعلّق به من أحكامه.

القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين.

القاعدة الرابعة في الترجيحات.


علامہ آمدی رحمہ اللہ ۲۲۵ھ میں اس کتاب کی تالیف سے فارغ ہوئے۔

علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ امام رازی رحمہ اللہ (متوفی ۶۰۶ھ) کی "المحصل" اور علامہ آمدی رحمہ اللہ کی "الإحکام" پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج والآمدى

.....

① مقدمة ابن خلدون: ص ۲۵۵



مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل۔ ①

ترجمہ: ابن الخطیب (امام رازی) نے اولہ کثرت سے بیان کئے اور ان پر استدلال و احتجاج کا رنگ غالب رہا، علامہ آمدی کو تحقیق مذاہب سے بڑی وابستگی رہی اور وہ تخریج مسائل کی طرف زیادہ مائل رہے۔

یہ کتاب عبدالرزاق عسفی کی تحقیق سے ”المكتب الإسلامي“، دمشق سے چار جلدیں میں طبع ہوئی ہے۔

۲..... المنتخب الحسامی

علامہ حسام الدین حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۲ھ) فقیہ اور اصول و فروع کے امام تھے، آپ کی تصانیف میں ”المنتخب الحسامی“ اصول فقہ کی اہم ترین کتاب ہے، جس کا شمار جامع اور مشکل متنوں میں ہوتا ہے، بہت سے مسائل کو مختصر عبارت میں بیان کرنا مصنف کی امتیازی خصوصیت ہے، اسی لئے اس پر کثرت سے شروح اور حواشی لکھے گئے ہیں۔

علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۴ھ) لکھتے ہیں:

له المختصر فى أصول الفقه المعروف بالمنتخب الحسامي..... وقد طالعت مختصره المعروف بالمنتخب الحسامي نسبة إلى لقبه حسام الدين وهو مختصر متداول معتبر عند الأصوليين، قد شرحه جمع غفير من الفقهاء والكامليين۔ ②

ترجمہ: اصول فقہ میں ان کی ایک مختصر (کتاب ہے) جو ”المنتخب الحسامی“ کے نام سے معروف ہے، میں نے ان کے مختصر کا جوان کے لقب حسام الدین کی نسبت سے

① مقدمة ابن خلدون: ص ۲۵۵

② الفوائد البهية: ترجمة: محمد بن محمد بن عمر حسام الدين، ص ۳۱۰

”الم منتخب الحسامي“ کے نام سے معروف ہے مطالعہ کیا، ان کی کتاب اصولیین کے ہاں متداول اور معتبر ہے، فقہائے کاملین میں سے ایک بڑی جماعت نے اس کی شرحیں لکھیں۔

اس کتاب پر لکھی گئی شروحات میں دو شرحیں زیادہ معروف ہیں:

۱..... علامہ عبد العزیز بن احمد بخاری رحمہ اللہ (متوفی ۳۰۷ھ) کی ”التحقيق“ یا

”غاية التحقيق“

۲..... علامہ امیر کاتب الاقانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۷ھ) کی ”التبیین شرح مختصر الحسامی“

علامہ عبدالحکیم لکھنؤی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان دونوں شروحات کا مطالعہ کیا ہے:

وقد طالعت من شروحه شرح أمیر کاتب الاقانی المسمى

”التبیین“ و شرح عبد العزیزی البخاری المسمی ”التحقيق“ ①

اس کتاب پر لکھے گئے حواشی میں دو حاشیے زیادہ معروف ہیں، ایک حاشیہ علامہ عبد الحکم بن شمس الدین سیاکلوی حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۷ھ) کا ہے۔ ②

ایک حاشیہ مولانا عبد الحق بن محمد میر دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۳۲ھ) کا ”النامی شرح الحسامی“ کے نام سے ہے، جو اصل کتاب کے ساتھ بطورِ حاشیہ کے طبع ہے۔

۲۸ منتهی السول والأمل في علم الأصول والجدل

علامہ ابن حاچب مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۶۳۶ھ) فقیہ، اصولی، متكلّم، محقق، شاعر وادیب تھے، شام و دمشق کے کئی سفر کئے۔ ۷۱ھجری میں آخری بار دمشق آئے اور تدریسی خدمات انجام دینے لگے۔ علامہ ابن حاچب رحمہ اللہ نے اصول فقہ کی تعلیم شارح ”البرهان“

① الفوائد البهیة: ترجمۃ: محمد بن محمد بن عمر حسام الدین، ص ۳۱۰

② معجم الأصولیین: ج ۲ ص ۲۷۶

للجوینی، "امام ابو الحسن الابیاری مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۶۱۸ھ) سے حاصل کی۔ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے پہلے "منتہی السول والأمل" تالیف کی، پھر اس کا اختصار "مختصر المنتہی" کے نام سے کیا، دونوں کتابیں ہر زمانے میں شارحین وغیرہ کے لئے توجہ کا مرکز رہیں اور ان پر کثرت سے شروح، جواشی و تعلیقات وغیرہ لکھے جاتے رہے۔

علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے پہلے "منتہی السول" تالیف کی اور پھر تقریباً ایک چوتھائی حذف کر کے اسے علامہ آمدی رحمہ اللہ کی "الإحکام" کی ترتیب پر مختصر کیا۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۰ھ) نے قطب الدین محمود شیرازی رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۰ھ) کے حوالے سے ذکر کیا ہے، "مختصر المنتہی" تالیف کرنے کی وجہ وہ خود ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار، وميلها إلى الإيجاز والاختصار،
صنفت مختصرا في أصول الفقه. ثم اختصرته على وجه بديع وينحصر في

المبادى والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح. ①

ترجمہ: جب میں نے دیکھا کہ طوالت سے ہمتیں پست ہو گئی ہیں، اور طبیعتیں اختصار و ایجاد کی طرف مائل ہو گئی ہیں، تو میں نے اصول فقه پر ایک مختصر کتاب تصنیف کی، میں نے اس کا اختصار انوکھے انداز پر کیا، یہ کتاب مبادیات، ادله سمعیہ (قرآن و سنت) اجتہاد اور ترجیح پر مشتمل ہے۔

حاجی خلیفہ رحمہ اللہ اس مختصر کی تعریف میں لکھتے ہیں:

وهو مختصر غريب في صنعته، بديع في فنه، لغاية إيجازه يضاهي

الإلغاز، ولحسن إيراده يحاكي الإعجاز واعتنى بشأنه الفضلاء. ②

ترجمہ: یہ مختصر ایک بے مثال کتاب ہے اور اس فن میں انتہائی اختصار کے باوجود معنے کے مشابہ ہونے اور اکتا ہٹ پیدا کرنے والے بیان سے پاک ہے اور اس کا پرکشش انداز فضلاً کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔

ان دونوں کتابوں پر لکھے گئے حواشی، شروحات، اختصارات و تعلیقات کا تفصیلًا تذکرہ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے ”کشف الظنون“ کے چار صفحات میں کیا ہے، دیکھئے: ①

۲۹ المسودة فی أصول الفقه

علامہ عبدالسلام بن تیمیہ حنبلی رحمہ اللہ (متوفی ۶۵۲ھ) مفسر، محدث، فقیہ، اصولی، مقری اور نحوی تھے، آپ فقه و اصول سمیت متعدد علوم میں یہ طولی رکھتے تھے، اصول فقہ میں ”المسودة“ کے نام سے آپ کی کتاب موجود ہے، بعد میں ان کے صاحبزادہ علامہ عبد الحلیم رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۲ھ) اور پوتے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۸ھ) نے اس میں اضافے کئے، مذکورہ تینوں حضرات کی تحریر کردہ ”المسودة“ کی جمع، ترتیب و تبیض کا کام شیخ الاسلام کے ایک شاگرد شہاب الدین ابوالعباس احمد بن احمد الحرانی المشقی رحمہ اللہ (متوفی ۷۳۵ھ) نے انجام دیا۔ ”المسودة“، شیخ شہاب الدین کی تبیض کے ساتھ ”دار الكتاب العربي“ بیروت سے ایک جلد میں طبع ہے، اس کتاب پر محمدی الدین عبدالحمید کی تحقیق ہے۔

”المسودة“، امتیازی خصوصیات کی حامل ایک ہترین کتاب ہے، اس کی دو امتیازی خصوصیات نمایاں ہیں:

(۱) مختلف فیہ مسائل میں اقوال تحقیق کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جس سے ایک طرف تو اس فن میں ان کی وسعت علمی کا اندازہ ہوتا ہے تو دوسری طرف ایک ہی لحظے میں ان

کی قوت و ضعف کا اندازہ کرنے میں مدد حاصل ہو جاتی ہے۔

(۲) علمائے اصول نے جو "حریر محل النزاع" کی اصطلاح استعمال کی یہ کتاب اسی موضوع پر دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ ائمہ فلاشہ کے مسئلہ کو ذکر کرتے ہیں، اس میں علماء کے مذاہب کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پھر نفس موضوع پر لگاتار ایک مسئلہ کے بعد دوسرا مسئلہ لاتے ہیں اور ہر مسئلہ میں مختلف علماء کے اقوال فرق کے ساتھ پیش کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس موضوع پر مسائل پورے ہونے کے ساتھ ہی اقوال کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے، اور مراد معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی روشنی میں ان دیقیق مقامات کی تعین آسانی سے ہو جاتی ہیں جہاں اصحاب اقوال کا اتفاق و اختلاف واقع ہوا ہو۔

اس کتاب میں ہر بحث کو "مسئلہ" کے عنوان کے ساتھ ذکر کیا ہے، عنوانات کی کثرت کی وجہ سے مطلوبہ بات بآسانی مل جاتی ہے، ہر بحث کے ذیل میں متقد میں اصولیں کے اقوال ذکر کرتے ہیں، ائمہ اربعہ کے تبعین کے اقوال، مختلف فیہ مسائل دلائل سے ذکر کرتے ہیں، بسا اوقات اپنی آراء بھی ذکر کرتے ہیں، کتاب کا انداز نہایت عام فہم ہے، اہل علم حضرات کے لئے اس کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

٣٠ الحاصل من المحصل في أصول الفقه

قاضی تاج الدین الارموی رحمہ اللہ (متوفی ۶۵۳ یا ۶۵۶ھ) فقیہ، اصولی، منطقی اور فلسفی تھے۔ کئی علوم میں دسترس رکھتے تھے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ آپ کے استاذ ہیں، آپ کی تصانیف میں "الحاصل من المحصل في أصول الفقه" زیادہ معروف ہے، مصنف نے اپنی اس کتاب میں امام رازی رحمہ اللہ کی کتاب "المحصل" کا اختصار کیا ہے۔

اس کتاب میں ان مسائل اصولیہ کو جمع کیا گیا ہے جس کی ہر عالم و متعلم کو احتیاج ہوتی ہے۔ یہ کتاب مختصر و موجز ہونے کے باوجود علمی فوائد سے پُر ہے، امام ارمومی رحمہ اللہ نے ذی الحجہ ۶۱۲ھ میں اس کتاب کی تالیف کو مکمل کیا۔ امام رازی رحمہ اللہ کی "المحصول" اصول فقہ کی چار اساسی کتب "البرهان للجوینی"، المستصفی للفزانی، العمد لعبد الجبار، المعتمد لأبی الحسین البصري" کا نچوڑ ہے تو "الحاصل" دراصل "المحصول" کا خلاصہ ہے، اس طرح "الحاصل" نے ان چاروں کتب بالا سے بالواسطہ اثرات قبول کئے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۵ھ) کی کتاب "منهاج الوصول إلى علم الأصول" کا مأخذ "الحاصل" ہے۔ بعد میں آنے والے اہل علم حضرات نے زیادہ تر توجہ کا مرکز قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی "منهاج الوصول" کو بنایا اور اس کے مأخذ "الحاصل" کے ساتھ اس قدر اعتناء نہیں کیا گیا، اس لئے یہ اہل علم حضرات کے درمیان زیادہ معروف نہ ہو سکی۔

۱۳..... التحصیل من المحصل

علامہ سراج الدین الارموی شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۲ھ) فقیہ، اصولی، جدلی، شاعر اور متکلم تھے۔ آپ کی اصول پر تصنیف میں "التحصیل من المحصل" رسالتہ فی أمثلة التعارض فی أصول الفقه، أسئلة أوردها القاضی محمود بن أبي بکر الارموی علی المحصل للإمام الرازی" قابل ذکر ہیں۔ یہ کتاب امام رازی رحمہ اللہ کی کتاب کا اختصار ہے، ساتویں صدی ہجری کا دور جس میں اصول فقہ کی ایک عظیم کتاب "المحصول"، لکھی گئی، اس دور میں متکلمین طرز پر اصول فقہ میں کتب تالیف کی جا رہی تھیں اور ان کی اکثریت کتب سابقہ کا اختصار، شرح یا تعلیق پر مشتمل ہوتیں۔ علامہ ارمومی رحمہ اللہ نے اسی مناسبت سے امام رازی رحمہ اللہ کی "المحصول" کے اختصار کی

طرف توجہ کی، اور اس کی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام ارمومی رحمہ اللہ فن منطق، حکمت اور علم الکلام میں کامل دسترس رکھتے تھے اور ”المحصول“ کے اختصار کے لئے ان فتوں میں کمال بھی ضروری تھا، اس لئے آپ اس کے اختصار کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی بناء پر ”التحصیل“ دوسری مختصرات کے مقابلہ میں ایک منفرد مقام کی حامل کتاب ہے۔ کتاب کے شروع میں قوانین و ضوابط کی بندش کے جس اسلوب کو اپنایا ہے وہ تصنیف، ترتیب، تقسیم ابواب اور فصول میں اہتمام آپ کی وسعت علمی، مہارت و ذکاؤت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کی یہ مختصر ترتیب و تنظیم مشکلات پر آگاہی اور ان کا حل اور ادله و حدود پر وارد ہونے والے وہم دور کرنے اور سوالات کے جوابات دینے میں دیگر تمام مختصرات پر فوقیت رکھتی ہے، کتاب ”التحصیل“ کے مطالعہ کے دوران امام ارمومی رحمہ اللہ نہ صرف اصولی بلکہ متكلّم بھی نظر آتے ہیں، جس میں وہ کلامی مسائل علی سبیل التبع پیش کر کے ان کے اور بعض مسائل اصول فقہ کے درمیان ارتباط پیدا کرتے ہیں اور یہ بات ”التحصیل“ میں بہت سی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں: تحسین، تقبیح کا عقلی ہونا، عصمت انبیاء، منعم کا شکر عقلًا یا شرعاً، صفت موصوف کا عین ہے یا غیر اور تکلیف مالا یطاً، اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل کو امام ارمومی رحمہ اللہ نے مکمل تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مذاہب کے ادله پر خاص کر معزّلہ کے ادله پر مذاہب کیا اور ان معزّلہ کی تحسین و تقبیح کے عقلی ہونے کے بارے میں مشہور قاعدہ سے مکمل اجتناب ظاہر کیا۔ اختصار کے باوجود یہ کتاب تمام مباحث کو جامع ہے، کئی جگہ امام رازی رحمہ اللہ پر بھی نقد کیا ہے۔ یہ کتاب عبد الحمید علی ابوزنید کی تحقیق کے ساتھ ”مؤسسة الرسالة“، بیروت سے ۱۹۰۸ھ میں طبع ہوئی ہے۔

(۱) رسالتہ فی أمثلة التعارض فی أصول الفقه

امام ارمومی رحمہ اللہ کی یہ کتاب اب تک مخطوطہ کی صورت میں ”تیموریہ لاہوری“،

میں موجود ہے، جو ”دارالكتب مصریہ“ سے ملحت ہے، اس کا نمبر ۱۰۲ ہے، یہ رسالہ (۱۳) صفحات پر مشتمل ہے، ہر صفحے پر ۷ اسٹریں ہیں، اور ہر سطر میں تقریباً ۱۰ کلمات ہیں۔ ①
 (۲) **أسئلة أوردها القاضى محمود بن أبي بكر الأرموى على المحسول للإمام الرازى**

اس کتاب میں امام ارموی رحمہ اللہ نے امام رازی رحمہ اللہ کی کتاب ”المحسول“ پرسوالات کئے ہیں، یہ مخطوطہ کی صورت میں ”دارالكتب مصریہ“ میں موجود ہے، اس کا نمبر ۳۰ ہے، تقریباً چالیس بڑے صفحات پر محیط ہے، جس کا ہر صفحہ ۲۷ سطور پر اور ہر سطر تقریباً ۲۲ کلمات پر مشتمل ہے، اور ابتداء میں یہ عبارت تحریر ہے:

كرايس من كلام الشيخ سراج الدين الأرموي على المحسول
لfxr الدين الخطيب. ②

٣٣..... تنقیح الفضول فی اختصار المحسول

علامہ شہاب الدین قرائی مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۲ھ) مفسر، فقیہ اور اصولی ہیں، آپ نے اصول فقہ پر مندرجہ ذیل کتب و رسائل لکھے:

تنقیح الفضول فی اختصار المحسول، شرح تنقیح الفضول، شرح
المحسول للرازی، العقد المنظوم فی الخصوص والعموم، العموم ورفعه،
التعليقات علی المنتخب، أنوار البروق فی أنواع الفروق.

”التنقیح الفضول“ ان کی کتاب ”الذخیرة فی الفقه“ کا مقدمہ ہے، جس میں انہوں نے امام رازی رحمہ اللہ کی ”المحسول“ کا اختصار کیا ہے، اور قاضی عبد الوہاب

① هدية العارفين: ج ۲ ص ۲۰۶

② التحصیل من المحسول: مقدمة المحقق، ص ۴۲

مالکی رحمہ اللہ کی کتاب ”الإفادة“ کے مسائل سے اضافہ بھی شامل کیا ہے اور اس کو فصلوں اور بیس ابواب میں مرتب کیا۔

علامہ قرآنی رحمہ اللہ نے ”تنقیح الفصول“ کی شرح ”شرح تنقیح الفصول“ کے نام سے لکھی، اس شرح میں نہایت تفصیل کے ساتھ مندرجہ ذیل بیس ابواب پر بحث کی گئی ہے:

الباب الأول: فی اصطلاحات

الباب الثاني: فی معانی حروف يحتاج إليها الفقيه

الباب الثالث: فی تعارض مقتضيات الألفاظ

الباب الرابع: فی الأوامر

الباب الخامس: فی النواهی

الباب السادس: فی العمومات

الباب السابع: فی أقل الجمع

الباب الثامن: فی الاستثناء

الباب التاسع: فی الشروط

الباب العاشر: فی المطلق والمقييد


الباب الحادی عشر: فی دلیل الخطاب

الباب الثاني عشر: فی المجمل والمبین

الباب الثالث عشر: فی فعله عليه الصلاة والسلام

الباب الرابع عشر: فی النسخ

الباب الخامس عشر: فی الإجماع



الباب السادس عشر: في الخبر

الباب السابع عشر: في القياس

الباب الثامن عشر: في التعارض والترجح

الباب التاسع عشر: في الاجتهاد

الباب العشرون: في جمع أدلة المجتهدین وتصرفات المکلفین
 یہ محققانہ شرح ط عبد الرؤوف سعد کی تحقیق کے ساتھ ایک جلد میں ”شرکة الطباعة
 القنية المتحدة“ سے شائع ہوئی ہے۔

علامہ قرآنی رحمہ اللہ نے امام رازی رحمہ اللہ کی ”المحصول“ کی شرح لکھی جس کا
 نام ”نفائس الأصول فی شرح المحصول“ رکھا۔ امام قرآنی رحمہ اللہ نے اس شرح
 کی امتیازی خصوصیات کو اس کتاب کے مقدمہ میں بیان کیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے
 اس تصنیف میں متقد مین و متاخرین میں سے اہل سنت، معتزلہ اور ارباب مذاہب اربعہ کی
 تقریباً تیس مصنفات اصولیہ سے استفادہ کیا، اسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو
 ”المحصول“ کے مشکل کو بیان کرنے اور اس کے مہمل کی تقيید کرنے اور اس کی فہرست
 مسائل میں کمی کو ضبط تحریر میں لانے اور اس کے متن پر ارسالات کے جوابات دینے میں
 ملتزم رکھا۔

یہ مفصل شرح نو جلدیوں میں عادل احمد عبد الموجود اور علی محمد معوض کی تحقیق کے ساتھ
 ”مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز“ سے شائع ہوئی ہے۔

علامہ قرآنی رحمہ اللہ نے (۵۳۸) قواعد پر مشتمل ایک علمی کتاب ”أنوار البروق فی
 أنواء الفروق“ کے نام سے لکھی، آپ اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:
 وسمیتہ لذلک أنوار البروق فی أنواء الفروق، وجمعت فيه من

القواعد خمسينية وثمانية وأربعين قاعدة أوضحت كل قاعدة بما يناسبها

فی الفروع . ①

ترجمہ: اور میں نے اس کا نام "أنوار البروق في أنواء الفروق" رکھا، اور میں نے اس میں قواعد میں سے (۵۲۸) قاعدے جمع کئے ہیں، میں نے فروع کے ہر قاعدے کی اس کی شایان شان وضاحت کی۔

یہ علمی، تحقیقی اور فنی کتاب چار جلدیں میں "عالم الكتب" بیروت سے شائع ہوئی ہے۔

٣٣..... منهاج الوصول إلى علم الأصول


قاضی بیضاوی شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۵ھ) مفسر، محدث، فقیہ، اصولی، متکلم، ادیب، نحوی، مفتی اور قاضی تھے۔ شیراز کے قاضی رہے مگر شدتِ حق کی وجہ سے عہدہ چھوڑ کر واپس تبریز چلے گئے اور اپنے علم و معارف سے تشذیب علم کو سیراب کرنے لگے۔ آپ کی تصانیف اصول میں "الم منتخب في أصول الفقه، شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول، منهاج الوصول إلى علم الأصول، شرح منهاج الوصول" قابل ذکر ہیں۔

قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کا مأخذ "الحاصل" ہے جو علامہ تاج الدین ارمومی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اور "الحاصل" اختصار ہے "المحصول" کا اور "المحصلون" کا مأخذ "العمد، المعتمد، البرهان، المستصفى" ہے، یہ کتاب ایک مقدمہ اور سات مندرجہ ذیل کتب پر مشتمل ہے:

الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة

الكتاب الثاني: في السنة

الفروع: ج ۱ ص ۲



الكتاب الثالث: في الإجماع

الكتاب الرابع: في القياس

الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح

الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء

کتاب کی جامعیت اور احادیث کے پیش نظر کئی اکابر اہل علم نے اس کتاب کی شروحات لکھیں، لیکن ان میں معروف شروحات تین ہیں:

۱.....”شرح منهاج الوصول“ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۵ھ)

۲.....”معراج الوصول فی شرح منهاج الوصول“ علامہ محمد الدین محمد بن ابی بکر شیرازی رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۹ھ)

۳.....”نهاية السؤل فی شرح منهاج الوصول“ علامہ جمال الدین اسنوی شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۷ھ)

مؤخر الذکر شرح کامعیار تحقیق و تدقیق کے اعتبار سے نہایت بلند ہے، یہ شرح ایک جلد میں ۱۴۲۰ھ میں ”دار الكتب العلمیة“ سے طبع ہے۔ علامہ زکریٰ رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۳ھ) نے اس کتاب کی احادیث کی تحریق کی ہے، موصوف کی کتاب کا نام ”المعتبر فی تحریج أحادیث المنهاج والمختصر“ ہے۔ علامہ علاء الدین قونوی رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۹ھ) نے اس کتاب کا اختصار ”مختصر المنهاج“ کے نام سے کیا ہے۔

علامہ عبدالرجیم بن حسین عراقی رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۶ھ) نے ”النکت علی المنهاج“، لکھی، نیز آپ نے ”النجم الوهاج“ کے نام سے ”منهاج الوصول“ کو (۳۶۷) ابیات میں منظوم کیا اور آپ کے صاحبزادے احمد نے ان ابیات کی توضیح کی۔

اس کتاب پر لکھے گئے حواشی، شروحات، اختصارات، تعلیقات، منظومات، اعتراضات اور تخریج حدیث کے لئے تفصیلًا ”کشف الظنون“ کا مطالعہ کریں، دیکھئے: ①


۳۴..... بدیع النظم

علامہ ابن الساعاتی حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۶۹۲ھ) آپ فقیہ، اصولی، حافظ اور اپنے زمانے میں علوم شرعیہ میں ثقہ مانے جاتے تھے، ادیب و کاتب بھی تھے، آپ اصلًا بعلیکی تھے، فقہ و اصول میں ان کی تالیفات اس فن میں یہ طولی اور وسعت علمی پر دلالت کرتی ہیں، جو حنفی و شافعی اصول کا احاطہ کئے ہوئے ہوتی ہیں۔ علامہ ابن الساعاتی رحمہ اللہ نے اپنی اس تالیف ”بدیع النظم“ میں علامہ آمدی شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۶۳۱ھ) کی کتاب ”الإحکام“ کے طریقے سے قواعد کلییہ کے بیان میں اور امام بزدوى حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۷۸۲ھ) کی ”أصول البزدوى“ سے جزوی فرعی شواہد میں مدد لی جیسا کہ کتاب کے خطبے میں انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ اس کتاب کی اچھی شرح مصلح الدین ابو الفتح موسی بن محمد التبریزی رحمہ اللہ (متوفی ۳۶۷ھ) نے ”الرفیع فی شرح البدیع“ کے نام سے لکھی، اور مولا نازادہ محب الدین رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۹ھ) نے اس پر حاشیہ لکھا ہے۔

۳۵..... عنوان الوصول فی الأصول

علامہ ابن دقيق العید شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۴۰۲ھ) محدث، فقیہ اور اصولی تھے، مسلکاً مالکی تھے مگر پھر شافعی بن گئے، آپ کے والد مالکی مسلک کے بڑے علماء و فضلاء میں سے تھے، آپ کئی کتابوں کے مصنف تھے، اصول فقہ پر آپ کی تصانیف میں ”مقدمة المطرازی فی الأصول“، ”شرح مقدمة المطرازی فی الأصول“، ”شرح منتهی

① کشف الظنون: باب المیم، ج ۲ ص ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۳



السول والأمل لابن الحاجب، عنوان الوصول في الأصول، شرح عنوان الوصل في الأصول“ قابل ذكر ہیں۔ ①

علامہ قطب الدین رحمہ اللہ نے آپ کے علمی تفویق کا اعتراف ان الفاظ میں کیا:
کان ابن دقيق العید ممن عرف بالعلم والزهد، عارفاً بالمذهبین،
إماماً في الأصولين.

ترجمہ: علامہ ابن دقيق العید علم و زہد میں معروف لوگوں میں سے تھے، دونوں مذہب
(شافعی اور مالکی) کے عارف اور اصلیین (اصول دین اور اصول فقہ) میں امام تھے۔

علامہ ابن دقيق العید رحمہ اللہ اپنے وقت کے ”شیخ الاسلام“ کہلاتے تھے، اللہ تعالیٰ
نے انہیں اصول حدیث، حدیث اور فقہ میں خوب دسترس دی تھی، آپ کی تصانیف میں
معروف کتب درج ذیل ہیں:

۱..... إحکام الأحكام شرح عمدة الأحكام ۲..... الإلمام بأحاديث
الأحكام ۳..... الاقتراح في بيان الاصطلاح ۴..... تحفة الليب في شرح
التقریب ۵..... شرح الأربعين للنووية

ان کی یہ سب کتابیں مطبوعہ ہیں، مجھے ان کی اصول فقہ پر لکھی گئی کتابوں میں کوئی
کتاب نہیں ملی، ان کے سوانح نگاروں نے ان کتابوں کے نام تو لکھے ہیں لیکن ان میں شاید
مطبوعہ کتاب کوئی نہیں ہے۔ البته حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے ان کی کتاب ”عنوان الوصول“
کا تذکرہ مصنف کے الفاظ میں کیا ہے:

فهذه فصول مشتملة على تعريفات وسائل لا غنية عنها للفقيه في
معرفة الأحكام، أوردتها على سبيل الإيجاز مقتضرا على رؤوس المسائل،
.....
①الفتح المبين: ج ۲ ص ۱۰۲، ۱۰۳ / هدية العارفین: ج ۲ ص ۱۲۰

مکتیبا بالأنموذج من نکت الدلائل، جردتها للمبتدعین فی الفن و هو عشر ورقات.

ترجمہ: یہ کتاب تعریفات اور احکام کی معرفت کے مسائل پر مشتمل ہے، جن سے فقیہ کسی صورت چشم پوشی نہیں کر سکتا، میں نے ان کو مختصر تحریر کیا اور بنیادی مسائل پر اکتفاء کیا، اور دلائل سے نکات بیان کرنے میں صرف ضروری مسئلہ پر اکتفاء کیا۔ میں نے اس کتاب کو فن کے مبتدعین کے لئے لکھا ہے اور یہ کتاب دس اوراق پر مشتمل ہے۔

٣٦..... منار الأنوار فی أصول الفقه

امام ابوالبرکات حافظ الدین نسغی حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷ھ) مفسر، محدث، فقیہ، اصولی، مفسر، محدث اور متکلم تھے، شمس الائمه محمد بن عبد الشتا الکروی سے تفقہ حاصل کیا، علامہ عبدالجعیل کھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۳ھ) آپ کے متعلق فرماتے ہیں:

كان إماماً كاماً لا عديم النظير في زمانه رأساً في الفقه والأصول.

آپ کی اصول پر تصنیف میں ”منار الأنوار فی أصول الفقه، کشف الأسرار، شرح المنتخب للحسامی“ ہے۔ ”منار الأنوار“، متن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا کی، کئی اہل علم نے اس متن کی شروح، حواشی اور تعلیقات لکھیں، جن میں چند ایک درج ذیل ہیں:

۱..... ”کشف الأسرار شرح منار الأنوار“ یہ مصنف نے خود اپنی کتاب کی شرح لکھی۔

۲..... ”تبصرة الأسرار“، شیخ شجاع الدین ترکستانی رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۳ھ)

۳..... ”جامع الأسرار“، علامہ قوام الدین کاکی رحمہ اللہ (متوفی ۷۳۹ھ)

- ۳..... ”اقتباس الأنوار“ علامہ جمال الدین خراطی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۲ھ)
- ۴..... ”منهاج الشريعة“ علامہ جلال الدین تبانی رحمہ اللہ (متوفی ۹۳۷ھ)
- ۵..... ”نور الأنوار“ ملاجیون رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۳۰ھ) کی اس شرح کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقبولیت عطا کی، یہ درس نظامی میں نصاب میں شامل ہے، اس شرح پر علامہ محمد بن عبدالحکیم لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۸۵ھ) نے ”قمر الأقمار“ کے نام سے حاشیہ لکھا۔

۷۔۔۔ أصول الفقه

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ حنبلی رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۸ھ) اپنے وقت کے ایک بلند پایہ مفسر، محدث، اصولی، متكلّم اور خطیب تھے۔ اپنے والد سے فقه اور اصول کی تعلیم حاصل کی، بیس برس سے کم عمر میں تدریس و فتویٰ کی اہلیت حاصل کر لی تھی، اور جمع و تالیف کا کام شروع کر دیا تھا، آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ”مجموعۃ الفتاویٰ“ جو (۳۷) جلدوں میں طبع ہے، اس کی انیسویں اور بیسویں جلد اصول فقه پر ہے۔


اس کے علاوہ آپ نے جو اصول فقه کی مباحث سے متعلق چھوٹے بڑے رسائل لکھے ہیں ان کی تعداد تقریباً (۲۳) ہے، جو مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) قاعدة كبيرة في أصول الفقه غالباً نقل أقوال الفقهاء.
- (۲) قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الأسماء التي علق الشارع بها من الأحكام.
- (۳) قاعدة فيما شرعه الله تعالى بقطعى العموم والإطلاق وهل يكون شرعاً بالفظ الخصوص والتقييد.
- (۴) قاعدة في تقليد مذهب معين هل يجب على العامي أو لا؟
- (۵) جواب في ترك التقليد فيمن يقول مذهبى مذهب النبي



ولست أنا التقليد مذاهبه الأربعة.

- (١) قاعدة في المخطى في الاجتهاد هل يأثم وهل المصيب.
- (٢) قاعدة فيما يظن من تعارض النص والإجماع.
- (٣) قاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة أقسام.
- (٤) وجواب في الإجماع والخبر المتواتر.
- (٥) نقد مراتب الإجماع التي ألفها ابن حزم.
- (٦) قاعدة في كيفية الاستدلال على الأحكام بالنص والإجماع في الرد على من قال إن الدلالة اللغوية لا تفيده اليقين.
- (٧) قاعدة في تقرير القياس في مسائل عدة الرد على من يقول هل خلاف القياس في الشرع.
- (٨) جواب تقليد الحنفي الشافعى في المطر والوتر.
- (٩) قاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز والبحث مع الآمدى.
- (١٠) رفع الملام من أئمة الأعلام.
- (١١) قاعدة في أن جنس الفعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهى عنه.
- (١٢) قواعد في النهي هل يقنى فساد المنهى عنه.
- (١٣) قاعدة أخرى كل حمد وذم من الأقوال والأفعال لا يكون إلا بالكتاب والسنة.
- (١٤) قاعدة في شمول النصوص للأحكام.
- (١٥) رسالة في جواب هل كل مجتهد مصيب.



- (۲۱) رسالة في حقيقة الحكم الشرعي وأنواعه.
- (۲۲) رسالة في التقليد الذي حرمه الله ورسوله وشرح أول المحسول للرازى.
- (۲۳) معارج الوصول في أن الأصول والفروع قد بينها الرسول.
- مندرجہ بالاسائل میں سے اکثر وہ ہیں جو ”مجموعۃ الفتاوی“ میں شامل ہیں، بعض رسائل الگ سے بھی طبع ہیں۔ ”مجموعۃ الفتاوی“ اور ان کی دیگر تصنیف میں موجود رسائل اور اختلافی مباحث پر مشتمل تحریرات پانچ جلدوں میں محمد رشید رضا کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ ”مجموعۃ الرسائل والمسائل“ کے نام سے ”جنة التراث العربی“ سے شائع ہوئی ہیں۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”أسماء مؤلفات شیخ الإسلام ابن تیمیہ“ میں ”الكتب الفقهية“ کے عنوان کے تحت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے (۵۵) رسائل کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے: (ص ۲۹ تا ۲۷) تیس صفحات پر مشتمل اس رسائل میں ان کے علوم و افکار کے ترجمان علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے شیخ کی (۳۲۸) کتب و رسائل کے نام ذکر کئے ہیں۔ کئی ایک رسائل ایسے ہیں جو چند صفحات پر مشتمل ہیں، یا کسی سوال کا جواب ہیں جسے رسائل کی صورت دے دی گئی ہے۔ ان میں دو ثلث سے زیادہ رسائل و کتب وہ ہیں جو فتاوی میں موجود ہیں۔

۳۸..... کشف الأسرار شرح أصول البزدوى

علامہ عبدالعزیز بخاری حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۳۰۷ھ) اپنے وقت کے نامور عالم تھے، فن اصول فقه میں آپ کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ اہل علم کے درمیان ان کی دو کتابیں زیادہ معروف ہیں، علامہ بزدوى رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۸ھ) کی ”أصول البزدوى“ کی

شرح ”کشف الأسرار“ اور ”الحسامی“ کی شرح ”غاية التحقيق“ اصول بزدی کی سب سے جامع، مدلل اور محقق شرح یہی ہے، اس میں کثرت سے فقہی احکام اور مذہب حنفی کے دلائل کا تذکرہ ہے۔ اصول فقہ کی کوئی اہم بحث ایسی نہیں ہے جو مصنف سے چھوٹی ہو، یہ کتاب جامعیت اور حسن ترتیب میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ بہت اعلیٰ، انفع اور مدلل ہے، جو ایسی تحقیقات و تفریعات پر منی ہے جو دیگر کتب اصولیہ میں نہیں ملتیں۔ شوافع میں علامہ زرشی رحمہ اللہ (متوفی ۹۲۷ھ) کی ”البحر المحيط فی أصول الفقه“، حنابلہ میں علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۰ھ) کی ”روضۃ الناظر و جنة المناظر“، حنفیہ میں علامہ عبدالعزیز بخاری رحمہ اللہ (متوفی ۳۰۷ھ) کی ”کشف الأسرار شرح أصول البزدوى“ اور مالکیہ میں علامہ شاطبی رحمہ اللہ (متوفی ۹۰۷ھ) کی ”الموافقات“، اگر کوئی عالم ان چاروں مکتب فکر کے علماء کی مندرجہ بالا چاروں کتابوں کا مطالعہ کرے تو اس فن کے نشیب و فراز سے خوب واقفیت ہو جائے گی اور اس فن میں خوب تفوق اور عمق حاصل ہو گا۔

”کشف الأسرار“ چار جلدیں میں ”دار الكتاب الإسلامي“ اور پاکستان میں ”قدیمی کتب خانہ“ سے شائع ہوئی ہے۔

۳۹..... التنقیح والتوضیح

صدر الشریعہ عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۷ھ) مفسر، محدث، فقیہ، اصولی، جدلی، لغوی، ادیب، مناظر، متكلم اور منطقی تھے، علمی گھرانے میں آنکھ کھولی، تاج الشریعہ محمود سے تعلیم حاصل کی، اپنے دادا کی کتاب ”الوقایة“ کی ایک عمدہ شرح ”شرح الوقایة“ کے نام سے لکھی اور پھر اس کا ”النقاۃ“ کے نام سے اختصار لکھا۔ اصول فقہ پر آپ کی تصنیفات میں ”التنقیح“ اور ”التوضیح فی حل غوامض التنقیح“ ہے۔

”التنقیح“، متن ہے اور ”التوضیح“، اس متن کی شرح ہے، مصنف نے یہ شرح خود لکھی ہے۔ یہ کتاب لغت عربیہ، علم المعانی، بیان اور منطق کی ابجات پر بھی مشتمل ہے، مقدمہ قواعد اصولیہ کے بیان میں ہے، اس میں خاص، عام، مطلق، مقید، حقیقت و مجاز، حروف المعانی، مشکل، محمل اور متشابہ شامل ہیں، اور لفظ کی دلالت، صریح، کنایہ اور معزز لہ کے نزدیک حسن و فتح پر بحث، کتاب و سنت، اجماع اور قیاس اور ان کے متعلق اور ادله اصولیہ سے متعلق ابجات بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور دو قسموں پر مشتمل ہے، قسم اول مندرجہ ذیل چار اركان پر مشتمل ہے:

الرکن الأول: في الكتاب

الرکن الثاني: في السنة

الرکن الثالث: في الإجماع

الرکن الرابع: في القياس

قسم ثانی تین ابواب پر مشتمل ہے:

الباب الأول: في الحكم

الباب الثاني: المحكوم به

الباب الثالث: في المحكوم عليه

اس متن اور شرح کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے متعدد اہل علم نے اس پر حوالی، شروحات اور تعلیقات لکھیں، لیکن ان میں زیادہ مقبولیت علامہ تفتازانی رحمہ اللہ (متوفی ۹۳۷ھ) کی ”التلویح“ کو ہوتی۔ اس متن اور شرح کا کچھ حصہ درس نظامی میں نصاب میں شامل ہے۔ یہ حاشیہ حل غواض، تنقیح، مغلقات کی توضیح میں بے نظیر ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے سے استعداد میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور ایک تحقیقی ذہن بنتا ہے، البتہ قیل و قال اور

غیر متعلقہ مباحث کی وجہ سے فن سمجھنے میں کافی دشواری پیش آتی ہے۔
 ”التوضیح“ اور ”التلویح“ پر لکھے گئے حواشی اور تعلیقات کے لئے
 تفصیلًادیکھیں: ①

۳..... إعلام الموعين عن رب العالمين

علامہ ابن قیم حنبلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۷ھ) اپنے وقت کے ایک عظیم مفسر، محدث، فقیہ، اصولی اور متكلم عالم تھے، اصول فقہ میں آپ کی یہ کتاب بہت مشہور ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں دوران بحث کثرت سے دلائل دیتے ہیں، وہ فقہاء کی آراء کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، اور ان کی صحت اور عدم صحت کا تجزیہ کرنے کے بعد جسے حق سمجھتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں بصورت دیگر چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات وہ اپنے مختار مذہب پر دلائل دینے کے بعد مخالف کی آراء پیش کر کے اس کا بطلان ثابت کرتے ہیں، مخالف آراء کی تغاییر و تردید کے بعد اپنے موقف کے لئے دلائل نقل کرتے ہیں، نصوص ان کی بحث کا مرکز و محور ہوتا ہے۔ یہ کتاب نصوص شرع، فقہ، اصول فقہ، مقاصد شریعت، سیاست شرعیہ سب کو جامع ہے، اس میں زیادہ زور اتباع شریعت اور احادیث پر دیا گیا ہے، مصادر شریعت کا بھی تفصیلی بیان ہے۔ اس کتاب میں قرآن و سنت، اجماع، فتاویٰ صحابہ کرام، قیاس، استصحاب، مصالحة مرسلاہ اور سد الذرائع سے متعلق اہم معلومات یکجا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا اس کی بھی خوب وضاحت کی ہے۔ کتاب کے آغاز میں فتویٰ دینے والے صحابہ اور تابعین کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے، اور ان کے اسماء بھی ذکر کئے ہیں، فقہاء مکہ، مدینہ، کوفہ اور بصرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاویٰ بھی

ذکر کئے ہیں، کتاب میں جابجا اپنے شیخ کے نظریات و افکار کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں، خصوصاً تقلید، حیله، رائے، طلاق غیرہ کی مباحثت میں جمہور اہل علم کی رائے سے متجاوز نظر آتے ہیں۔ یہ کتاب چار جلدیں میں محمد عبدالسلام ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ ”دار الكتب العلمية“ سے طبع ہے۔

۱۳..... الإبهاج فی شرح المنهاج

علامہ تقی الدین سکلی شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۵۶۷ھ) مفسر، فقیہ، اصولی، نحوی، مقری اور جدلی تھے، اصول فقہ کی تعلیم امام علاء الباجی رحمہ اللہ سے حاصل کی، آپ نے کئی گرال قدر کتابیں تصنیف کیں، ان کی تصنیف میں ”فتاویٰ السبکی“، السیف المسلول علی من سب الرسول، شفاء السقام فی زیارة خیر الأنام“ اور ”الإبهاج فی شرح المنهاج“ زیادہ معروف ہیں۔ اس شرح کو مصنف نے لکھنا شروع کیا اور جب آپ امام بیضاوی رحمہ اللہ کے قول ”المسئلة الرابعة وجوب الشیء ما لا يتم إلا به“ و کان مقدوراً الواجب أن یتناول کل واحد فهو فرض عین“ تک کی شرح لکھ کے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، تو پھر آپ کے بیٹے علامہ تاج الدین سکلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۷ھ) نے اسے مکمل کیا، یہ شرح مصر سے طبع ہے۔

۱۴..... رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

علامہ تاج الدین سکلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۷ھ) فقیہ، اصولی اور مورخ تھے، اپنے والد علامہ تقی الدین سکلی رحمہ اللہ (متوفی ۵۶۷ھ) امام مزی رحمہ اللہ (متوفی ۷۳۲ھ) امام ذہبی رحمہ اللہ (متوفی ۷۳۸ھ) سے تعلیم حاصل کی، صرف اٹھارہ برس کی عمر میں مسند افتاء پر بیٹھے، کم عمری سے ہی مختلف علوم و فنون میں تصنیف و تالیف کا آغاز کر دیا تھا۔ آپ کی مشہور

تصانیف میں ”طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، جمع الجوامع، الأشباء والنظائر“ اور ”رفع الحاجب“ ہیں۔ اصول فقہ پر مصنف کی جس تصنیف کو زیادہ شہرت ملی وہ ”جمع الجوامع فی أصول الفقه“ ہے۔

یہ کتاب اصول فقہ کے جمیع مسائل پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں مصنف کا مندرجہ ذیل ہے:

- (۱) مباحث، فصول اور مسائل کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔
- (۲) جمیع مسائل اصول فقہ بیان کرتے ہوئے بعض ایسی اشیاء کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں جنہیں ان سے پہلے کے اصولیین نے بیان نہیں کیا ہوتا۔
- (۳) مصطلحات اصولیہ کی تعریف اور ان کی تبیین بغیر طوالت کے کرتے ہیں۔
- (۴) ان مسائل اصولیہ کو ذکر کرتے ہیں جن میں اصولیین کا اختلاف واقع ہوا ہے۔
- (۵) بعض مسائل میں اقوال کے ساتھ ساتھ قائل کا بھی ذکر کر دیتے ہیں مگر وہ ایسا کم ہی کرتے ہیں۔
- (۶) صرف اقوال کے ذکر پر اکتفاء کرتے ہیں اور بہت کم ہی ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔
- (۷) اگر کہیں اختلاف لفظی ہو تو اس کو ذکر کرتے ہیں۔

(۸) صرف کتب اصولیہ کے اصل مراجع سے ہی نقل کرنے کی پابندی کرتے ہیں اور کسی قول کو کسی شخص کی طرف اس وقت تک منسوب نہیں کرتے جب تک کہ قائل نے خود اپنی کتاب میں اسے نقل نہیں کیا ہوتا، یا اس کے کسی شاگرد نے ان کا قول نقل نہیں کیا ہوتا۔

یہ کتاب اصول فقہ کے جمیع مسائل پر مشتمل ہے، مختصر ہونے کی وجہ سے اس کا حفظ بھی آسان ہے، البتہ قواعد استدلال و استنباط کے اسلوب سے خالی ہیں۔ اس کتاب پر کچھی گئی

شروحات وحواشی کی تعداد ۳ ہے، ان میں سے چند معروف شروحات درج ذیل ہیں:
 ۱.....علامہ بدر الدین زرشی رحمہ اللہ (متوفی ۹۲۷ھ) نے ”تشنیف المسامع“
 کے نام سے شرح لکھی۔

۲.....امام ابو زرعة احمد بن عبد الرحیم عراقی رحمہ اللہ (متوفی ۸۲۶ھ) نے ”الغیث
 الهاامع“ کے نام سے شرح لکھی۔

۳.....علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۲ھ) نے ”البدر الطالع بشرح
 جمع الجوامع“ کے نام سے شرح لکھی۔

۴.....جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (متوفی ۹۱۱ھ) نے ”همع الھوامع“ کے نام
 سے شرح لکھی۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ (متوفی ۹۱۱ھ) نے ”الکوکب الساطع“ کے نام سے پہلے
 اس کتاب کو منظوم کیا پھر خود اس منظوم کی شرح لکھی۔ امام عبد اللہ بن احمد رحمہ اللہ (متوفی
 ۹۲۵ھ) نے ”الدرر اللوامع“ کے نام سے اس کتاب کو منظوم کیا۔

اس کتاب کو اہل علم کے درمیان خاصی مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کے حواشی،
 شروحات، تعلیقیات، منظومات اور اختصارات بھی بہت ہوئے ہیں، دیکھئے تفصیلًا: ①

۳۳.....مفتاح الأصول فی بناء الفروع علی الأصول

علامہ محمد الشریف الٹمسانی مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۷ھ) فقہ، اصول، قراءات،
 ادب، لغت اور تاریخ کے عالم تھے۔ اپنے زمانے کے مشہور اور فن کے ماہر اساتذہ سے
 زانوئے تلمذ طے کیا۔ ”الوصول“ پر فروع کی تخریج کا مقصد اس سوال کا جواب دینا ہے
 کہ فرعی مسائل پر اصول کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ کتاب فقهاء کے طرز پر لکھی جانے والی ان

اولین کتب میں سے ایک ہے جن میں فروع پر اصول کے اثرات کے موضوع کو چھپا گیا ہے۔ تخریج الفروع علی الاصول کے موضوع پر تاریخی اعتبار سے یہ کتاب اس فن میں تیسرے نمبر پر لکھی جانے والی کتاب ہے۔ اس فن کی پہلی کتاب علامہ دبوی رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۰ھ) کی ”تاسیس النظر“ ہے اور دوسری کتاب علامہ زنجانی رحمہ اللہ (متوفی ۶۵۶ھ) کی ”تحریج الفروع عن الأصول“ ہے، اور یہ تاریخی ترتیب کے اعتبار سے اس فن پر تیسری کتاب ہے۔

اس کتاب میں علامہ تلمذانی رحمہ اللہ نے ان اصولی مسائل کا تذکرہ کیا ہے جن کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، اس کے بعد فقہ حنفی، فقہ مالکی اور فقہ شافعی پر ان اصولوں کے اثرات کی وضاحت کی ہے، یہ کتاب اگرچہ خمامت کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن فن کے اعتبار سے ایک عمدہ اور کثیر الفائدہ کتاب ہے، اس کتاب کا یہ خاص امتیاز ہے کہ اس میں تینوں ائمہ کی فقہ پر اصولی قواعد کے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں مذکور ہے کہ امام تلمذانی رحمہ اللہ اس کتاب کی تالیف سے ۵۲۷ھ بھری میں فارغ ہوئے تھے۔ یہ کتاب احمد عز الدین عبد اللہ خلف اللہ کی تحقیق تخریج احادیث اور وضع فہارس وغیرہ کے ساتھ ”مطبعة السعادة“ سے پہلی مرتبہ ۱۳۰۰ھ میں شائع ہوئی۔

۳۴..... نہایۃ السول فی شرح منهاج الأصول

علامہ عبدالرحیم الاسنوی شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۲۷۷ھ) مفسر، فقیہ، مؤرخ، اصولی، لغت اور عرض کے عالم تھے۔ فقہ میں خاص شہرت حاصل کی، آپ نے اصول فقہ پر تین مشہور کتابیں تصنیف کیں، ”نہایۃ السول فی شرح منهاج الأصول“، التمهید فی تنزیل الفروع علی الأصول، زوائد الأصول“ یا ”زیادات علی شرح منهاج البیضاوی“

یہ کتاب قاضی بیضاوی رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۵ھ) کی ”منہاج الوصول إلى علم الأصول“ کی مفصل شرح ہے۔ اس شرح کی تالیف کا آغاز ان کے بھائی محمد نے کیا اور اس کو امام جمال الدین اسنودی رحمہ اللہ نے مکمل کیا، امام اسنودی رحمہ اللہ نے ۲۰ھ بھری میں اس کی تالیف کا آغاز کیا اور ۲۱ھ بھری یعنی صرف ایک سال کی مدت میں اس کو مکمل کر لیا۔ کتاب متوسط الحجم ہونے کے ساتھ سہل العبارت بھی ہے، اس میں ان اعتراضات و سوالات کے جوابات بھی دیئے ہیں جن کے دیگر شارحین نے سرے سے یا تو جواب ہی نہیں دیئے تھے یا وہ جوابات ضعیف تھے۔ جن مقامات میں صاحب کتاب سے نقل کی غلطی ہوتی تھی ان مقامات سے آگاہ کر دیا۔ مذهب شافعی کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا اور وجہ یہ بتائی کہ اصول فقہ کے مدون اور ان کے امام کا مسلک متعارف ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں مسئلہ سے متعلق کتب شافعیہ مثلاً ”الأم، الأموال، الإملاء، مختصر المزنی“ اور ”مختصر البویطی“ میں تلاش کرنے سے کچھ مل جاتا تو وہ شافعیہ کا مسلک اکثر ان ہی کے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں جو ان کی کتب میں ان سے منقول ہوتا ہے۔

امام اسنودی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں اس مسئلہ کی بابت بلا واسطہ ان کی کتاب سے کچھ میسر نہیں آتا تو وہ اس کلام کی نسبت اس کے ناقل کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی کتاب ”منہاج الوصول“ کے ایک مقدمہ اور سات کتب کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہے، سات کتب کا تذکرہ ماقبل میں اصل متن کے تعارف میں گزر چکا ہے۔ یہ شرح تحقیق و تدقیق اور تفصیل کے اعتبار سے منہاج کی تمام شروع میں نمایاں ہے۔ (۲۰۸) صفحات پر مشتمل یہ شرح ۱۴۲۰ھ میں ایک جلد میں ”دار الكتب العلمیة“ سے طبع ہوئی ہے۔

مصنف کی دوسری بلند پائیہ تصنیف ”التمهید فی تحریج الفروع علی الأصول“ ہے۔

اصول کی فروع پر تجزیہ، اس کتاب کا مقصد اس سوال کا جواب دینا ہوتا ہے کہ فرعی مسائل پر اصول کا کیا اثر پڑتا ہے، بالفاظِ دیگر اس میں اصول و فروع کے درمیان تطبیق لاکر یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اصول کے فروع پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تاریخی ترتیب کے اعتبار سے یہ کتاب اس موضوع پر لکھی جانے والی چوتھی اہم ترین کتاب شمار کی جاتی ہے، اس سے قبل ”تأسیس النظر“ علامہ دبوی رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۰ھ) ”تحریج الفروع علی الأصول“ امام زنجانی رحمہ اللہ (متوفی ۶۵۶ھ) ”مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول“ امام تمسانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۷ھ)، تالیف ہو چکی تھیں۔

علامہ السنوی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں کوئی اصولی قاعدہ خالی نہیں چھوڑا، بلکہ تقریباً ہر قاعدہ کو ذکر کر کے اس کی کوئی فقہی فرع درج کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس میں صرف انہی اصولی قواعد کا احاطہ کیا جو شوافع کے بیہاں مختلف فیہ تھے، دوسرے فقہی مذاہب سے تعریض نہیں کیا۔ ”التمہید“ کے مطالعے کے دوران یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اصولی قواعد کے اثرات کی وضاحت کے لئے انہوں نے جن فقہی جزئیات کا ذکر کیا ان میں سے بیشتر طلاق اور الفاظ طلاق سے متعلق ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ ایک عالم کے لئے نہایت ضروری ہے، اس سے جہاں ”تحریج الفروع علی الأصول“ پر ملکہ حاصل ہو گاؤں ہیں فقہ سے گہری مناسبت اور فقہائے کرام سے عقیدت بھی پیدا ہو گی۔ کاش کوئی صاحب علم طلبہ کی استعداد اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کر دے تو یہ ایک مفید کاوش ہو گی۔
یہ کتاب دکتور محمد حسن بیتو کی تحقیق کے ساتھ ایک جلد میں ”مؤسسة الرسالة“ بیروت سے شائع ہوئی ہے۔

٣٥..... التقریر فی شرح أصول البزدوى

علامہ اکمل الدین البارتی حنفی رحمہ اللہ (متوفی ٧٨٦ھ) مفسر، فقیہ، اصولی، ادیب، نحوي اور متكلم تھے، امام قوام الدین محمد بن محمد الکا کی رحمہ اللہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اصول فقہ پر آپ نے ”شرح مختصر ابن الحاجب فی الأصول“، التقریر فی شرح علی اصول البزدوى، الأنوار فی شرح المنار للنسفی“، تصنیف کی ہے۔ ①

٣٦..... الموافقات

امام ابو اسحاق شاطبی مالکی رحمہ اللہ (متوفی ٩٠٧ھ) مفسر، محدث، فقیہ، اصولی، لغوی، محقق اور نظار تھے، ”الموافقات“، امام شاطبی رحمہ اللہ کی معروف اور اہم تصنیف ہے جو چار اجزاء پر مشتمل ہے۔ مصنف نے پہلے اس کا نام ”عنوان التعريف بأسرار التكليف“، رکھا، پھر اس کا نام بدل کر ”الموافقات“، رکھا، اس سے بعض نے یہ سمجھا کہ یہ دوالگ الگ کتابوں کے نام ہیں جیسا کہ عمر بن رضا کحالہ نے یہی گمان کیا۔ ②

تقریباً سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ امام شاطبی رحمہ اللہ ”علم المقاصد“ کے مبتدع ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کہ امام سیبویہ رحمہ اللہ کو علم نحو اور خلیل بن احمد فراہیدی رحمہ اللہ کو علم عروض میں مبتدع کی حیثیت حاصل ہے۔

شیخ علی حسب اللہ لکھتے ہیں:

وقد جاء أبو إسحاق الشاطبى فى كتابه ”الموافقات“ بما لم يسبق به، فعنى بيان قواعد الأصول وتوضيح مقاصد الشارع مع سهولة فى

العبارة ووضوح فى الغرض۔ ③

① هدية العارفين: ج ۲ ص ۱۷۱ / الفتح المبين: ج ۲ ص ۱۲۰

② معجم المؤلفين: ج ۱ ص ۱۱۸ ③ أصول التشريع الإسلامي: ص ۷

ترجمہ: امام ابواسحاق شاطبی کی کتاب ”الموافقات“ سے پہلے کسی نے (اس علم کی طرف) سبقت نہیں کی، انہوں نے اصولی قواعد بیان کئے اور سہل عبارت کے ساتھ مقاصد شرع اور غرض کی وضاحت کی ہے۔

امام شاطبی رحمہ اللہ ”علم المقاصد“ کے موجود ہیں، اگرچہ مقاصد کا ظہور پہلے ہو چکا تھا مگر وہ سرسری تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ”المستصفی“، میں علم المقاصد پر مختصرًا گفتگو کی، پھر ان کے بعد علامہ عز الدین شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۶۶۰ھ) نے ”قواعد الأحكام في صالح الأنام“ تالیف کی، پھر نجم الدین طوفی حنبلی رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۶ھ) نے ”المصالح المرسلة“ تالیف کی، لیکن اس کام میں وسعت تفصیلی مباحث، عمدہ مضامین، عقلی دلائل سے احکام شرعیہ کا ثبوت کرنے میں علامہ شاطبی رحمہ اللہ سب سے آگے ہیں۔ اہل علم حضرات کے لئے اس کتاب کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

ابو عبدیہ مشہور بن حسن آل سلمان کی تحقیق کے ساتھ سات جلدیوں میں یہ کتاب ”دار ابن عفان“ سے ۱۴۲۷ھ میں شائع ہوئی ہے۔

۷..... التلویح فی کشف حقائق التنقیح

علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ (متوفی ۹۳۷ھ) اصولی، فقیہ، متكلّم، بلاغی اور ادیب تھے۔ آپ نے اصول فقہ میں ”التلویح فی کشف حقائق التنقیح“ اور ”حاشیۃ علی شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب فی الأصول“ تصنیف کی۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے دیباچہ ”فتح الغفار شرح منار الأنوار“ میں ان کو حنفی لکھا ہے، لیکن صاحب ”کشف الظنون“ اور ملا حسن چلپی رحمہ اللہ نے ”حاشیۃ مطول“ کی بحث متعلقات فعل میں ان کو شافعی لکھا ہے۔ اس کتاب پر لکھے

گئے حواشی کی تعداد سات ہے، دیکھئے تفصیلًا: ①

٣٨..... البحرمحيط أصول الفقه

علامہ بدر الدین زرکشی شافعی رحمہ اللہ (متوفی ٩٣٧ھ) فقیہ، اصولی اور متكلم تھے، آپ تمیں سے زائد کتب کے مصنف تھے، اصول فقہ میں آپ نے ”البحر المحيط فی الأصول، تشنیف المسامع شرح جمع الجوامع، لقطة العجلان وبلة الظمآن فی أصول الفقه والحكمة والمنطق“ لکھی۔

یہ کتاب اصول فقہ کی اہم اور بکیر اجھم کتابوں میں سے ایک ہے، یہ آٹھ جلدیوں میں ”دارالکتب“ مصر سے شائع ہوئی ہے، اس پر تحقیق و تخریج احادیث ”لجنۃ علماء ازہر“ نے کی ہے۔ اس میں مصنف نے بہت سی ایسی مباحث جمع کی ہیں جسے اس سے قبل جمع نہیں کیا گیا تھا۔ امام زرکشی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو (۱۰۰) سے زائد امہات الکتب سے استفادہ کر کے تالیف کیا ہے۔ یہ کتاب اصول فقہ میں ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں ہر مسئلہ کے بارے میں مذاہب متفرقہ کو جمع کیا گیا ہے۔

کسی مسئلے سے متعلق جتنے مذاہب کا علم ہو سکا امام زرکشی رحمہ اللہ نے انہیں اس مسئلے کے تحت یکجا کر کے بیان کر دیا اور ان نقول غریبہ سے جن فوائد کو جان سکے ان کو اور ان فوائد سے نایاب موتیوں اور ان کی ایک خاص صورت سے اظہار کو ایک مسئلے کے تحت بیان کر دیتے ہیں۔ اکثر مسائل میں تصور کشی، توضیح، تدلیل اور تعلیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ علمائے شافعیہ کے حوالہ سے اقوال ذکر کرتے ہیں تو اس کے لئے ”عندا“ یا ”کبھی“ ” عند اصحابنا“ استعمال کرتے ہیں، عمومی طور پر وہ ہر قول کی نسبت قائل کی طرف کرتے ہیں، مگر بعض مسائل میں وہ قول کی نسبت قائل کی طرف کرنے بغیر چھوڑ دیتے ہیں۔

امام زرکشی رحمہ اللہ نے بہت سی دقیق مباحث کو سابقین کی کتب سے انہی کے الفاظ

کے ساتھ اپنی کتاب میں نقل کیا مگر کئی موقع پر کتب سابقین سے نقل باللفظ نظر نہیں آتا، شاید اس کی وجہ نسخہ کا اختلاف ہو۔ امام زرشی رحمہ اللہ کی عبارت اور صیاغت میں کچھ صعوبت بھی پائی جاتی ہے لیکن قدرے تأمل سے وہ دشواری دور ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی عبارت میں شدید قسم کی پیچیدگی نہیں پائی جاتی جس طرح اس علم میں بعض لکھنے والوں کی شان رہی۔

امام زرشی رحمہ اللہ نے ان کتابوں سے بھی استفادہ کیا جواب مفقود ہو چکی ہیں، ان میں سے چند کے اسماء یہ ہیں:

(۱) امام ابن العارض معتزلی کی کتاب ”النکت“

(۲) امام ابو یوسف عبدالسلام رحمہ اللہ کی کتاب ”الواضح“

”البحر المحيط“ کے مقدمہ میں امام زرشی رحمہ اللہ نے مراجع کی جس فہرست کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں سے صرف بیس فیصد کتب دستیاب ہیں باقی کتب یا تو مفقود ہیں یا مفقود کے حکم میں ہیں۔ ①

امام زرشی رحمہ اللہ نے اس میں اصول فقہ کی تقریباً تمام مباحث یکجا کر دی ہیں، ہر مسئلے میں اہل علم کے اقوال ذکر کئے ہیں، علماء کے مذاہب اور ان کے اقوال میں موازنہ کر کے درست اقوال کی نشاندہی بھی کی ہے، مسائل اور دلائل دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اسباب اختلاف کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ انہم کے اقوال تحقیق سے ذکر کرتے ہیں، اور ان مراجع کی بھی صراحة تکمیل کرتے ہیں جہاں سے وہ قول لیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتب سے لے کر اپنے دور تک تمام اہم کتب سے استفادہ کر کے ایک جامع کتاب مرتب کی، موصوف نے صرف فقہی کتب سے ہی نہیں بلکہ عقائد، تفسیر، حدیث اور لغت کی کتابوں سے

① البحر المحيط: مقدمة المؤلف، ج ۱ ص ۷ تا ۱۸

بھی استفادہ کیا ہے۔ کتاب کی جامعیت، افادیت اور اہمیت کے پیش نظر جامعہ از ہر قاہرہ کلیہ شریعہ والقانون سے نو طلبہ نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کے مقالات اس کتاب کے مختلف موضوعات پر لکھے ہیں، ان مقالات کی تفصیلات جاننے کے لئے ”البحر المحيط“ پر محقق کے تحقیقی مقدمے کا مطالعہ کریں۔ رقم کی ناقص رائے کے مطابق اصول فقہ میں اس کتاب کی کوئی نظری نہیں۔

یہ کتاب بحثہ علماء از ہر کی تحقیق کے ساتھ آٹھ جلدیوں میں مکتبہ ”دار الكتب“ مصر سے ۱۲۱۲ھ میں شائع ہوئی ہے۔

۳۹..... القواعد الكبرى

علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ (متوفی ۷۹۵ھ) نے اس کتاب میں فقہ حنبلی کے قواعد کو جمع کیا ہے، جس طرح مالکی قواعد کو ”الفرق“، میں اور احناف کے قواعد کو ”الأشباء والنظائر“، میں اور شوافع کے قواعد کو ”قواعد الأحكام“ میں جمع کئے گئے ہیں۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۶۰ھ) نے ان کی مذکورہ کتاب کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

وهو كتاب نافع من عجائب الدهر حتى أنه استكثر عليه و زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبدوءة الشیخ الإسلام ابن تیمیہ فجمعها وليس الأمر كذلك بل كان رحمة الله فوق ذلك كذا قيل. ①

ترجمہ: یہ بڑی مفید کتاب ہے، یہ دنیا کے عجائب میں سے ایک ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علامہ ابن رجب نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے متفرق قاعدوں کو صرف جمع کر دیا خود کوئی اضافہ نہیں کیا، لیکن بات اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے وہ ان باتوں سے بہت بلند ہیں۔

علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے یہ قواعد مجتہدانہ شان سے اور اس انداز سے لکھے ہیں کہ مسائل کی طرف مراجعت اصول کے ماتحت کی جاسکے اور تاکہ وہ سب ایک لڑی میں پروئے جاسکیں، چنانچہ وہ کتاب کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

أَمَا بَعْدُ فَهَذِهِ قَوَاعِدُ مَهْمَةٍ، وَقَوَاعِدُ جَمَّةٍ، تَضْبِطُ لِلْفَقِيْهِ أَصْوَالَ
الْمَذْهَبِ، وَتَطْلُعُهُ مِنْ مَأْخُذِ الْفَقِيْهِ عَلَى مَا كَانَ قَدْ تَغْيَبَ، وَتَنْظَمُ لَهُ مَنْشُورَ
الْمَسَائِلَ فِي سَلْكٍ وَاحِدٍ، وَتَقْيِيدَ الشُّوَارِدَ وَتَقْرِبَ عَلَيْهِ كُلَّ مُتَبَاعِدٍ۔ ①

ترجمہ: اما بعد! یہ قاعدہ مہمہ اور فوائد جمہ ایک فقیہ کے لئے مذہب کے اصول فراہم کرتے ہیں اور فقہ کے جو مأخذ اس کی نظر وہ سے پوشیدہ ہیں انہیں واضح اور نمایاں کرتے ہیں اور بہت سے بکھرے ہوئے مسائل کو ایک لڑی میں پروردیتے ہیں۔

علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں (۱۶۰) قواعد کو جمع کیا ہے، اور ہر قاعدے کے تحت متعدد تفريعات نقل کی ہیں، ان قواعد و تفريعات کے مطالعے سے علم فقہ اور اصول سے عمیق مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ (۲۲۲) صفحات پر مشتمل یہ کتاب ایک جلد میں ”دار الكتب العلمية“ سے شائع ہوئی ہے۔

٥..... النجم الوهاج

علامہ عبد الرحیم العراقي شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۶ھ) اپنے زمانے کے ایک بلند پایہ عظیم محدث تھے، آپ اصول فقہ میں عمدہ کلام و بحث پر بھی قدرت رکھتے تھے، آپ کی تصنیفات میں ”الفیہ العراقي“ ایک ہزار (۱۰۰۰) اشعار میں فن اصول حدیث کو بیان کیا ہے) ”التبصرة والتذكرة“ (اس کتاب میں ان اشعار کی تشریح کی ہے) امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ”إحياء علوم الدين“ کی احادیث کی تجزیۃ ”المغني عن حمل الأسفار في الأسفار“

فی تحریج ما فی الإحیاء من الأخبار“ کے نام سے کی۔ مصنف نے ”النجم الوهاج“ میں قاضی بیضاوی رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۵ھ) کی کتاب ”منهاج الوصول“ کو ظلم کی صورت میں لکھا ہے جو (۷۳) ابیات پر مشتمل ہے، آپ کے بیٹے احمد نے ان اشعار کی شرح کی ہے۔

یاد رہے ”النجم الوهاج“ نام کی ایک اور کتاب بھی ہے جو علامہ دمیری رحمہ اللہ (متوفی ۸۰۸ھ) صاحب ”حیاة الحیوان“ کی ہے، جو امام نووی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۶ھ) کی فقہ شافعی پرکھی گئی ”دقائق المنهاج“ کی شرح ہے۔

۱۵..... التحریر فی أصول الفقه

محقق علی الاطلاق علامہ ابن الہمام حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۱ھ) اپنے زمانے کے ایک بلند پایہ محدث، فقیہ، اصولی اور متكلم تھے۔ حافظ ابن حجر (متوفی ۸۵۲ھ) اور علامہ عینی (متوفی ۸۵۵ھ) رحمہما اللہ کے ہم عصر ہیں اور علامہ قاسم بن قطلو بغا رحمہ اللہ (متوفی ۸۷۹ھ) کے استاذ ہیں۔ آپ کی تصانیف میں معروف کتب درج ذیل ہیں:

”فتح القدیر، التحریر فی أصول الفقه، المسايرة فی العقائد المنجية

فی الآخرة، زاد الفقیر“

”التحریر“ احناف اور شوافع دو نووی کی اصول فقه کی اصطلاحات پر ایک جامع، معروف اور مفید کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں حد درجہ اختصار کی وجہ سے اس کا سمجھنا اور اس سے استفادہ کرنا بہت مشکل ہے، اسی طرح بغیر شرح کے مصنف کی مراد کو سمجھنا بھی دشوار ہے، اس کتاب کا اسلوب نہایت صعب ہے، اور جگہ جگہ مفہوم میں پیچیدگی نظر آتی ہے۔ شیخ محمد خضری نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَهَذِهِ الْكُتُبُ الَّتِي عَنِيتُ بِأَنْ تَجْمَعَ كُلَّ شَيْءٍ اسْتَعْمَلَتِ الْإِيْجَازُ فِي

عبارات‌ها حتی خرجت إلى حد الإلغاز والإعجاز وتكاد لا تكون عربية المبني، وأدخلها في ذلك كتاب التحرير لابن الهمام لأنك إذا جرته من شروحه وحاولت أن تفهم مراد قائله فكأنما تحاول فتح المعجميات، ومن الغريب أنك إذا قرأت قبل أن تنظر فيه شروح ابن الحاجب ثم عدت إليه وجدته قد أخذ عبارتهم فأدمجها إدماجا بوزنها حتى اضطربت العبارة واستغلقت. ①

ترجمہ: اور وہ کتابیں جن میں ہر چیز جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کی عبارتوں میں اس حد تک ایجاد و اختصار سے کام لیا گیا ہے کہ یہ کتابیں چیستان بن کر رہ گئی ہیں، ایجاد نویسی میں غلوکی وجہ سے قریب تھا کہ یہ کتابیں عربی زبان کے دائرے سے خارج ہو جائیں، اس میں سب سے بڑھی ہوئی ابن ہمام کی کتاب ”التحریر“ ہے، اگر آپ اس کتاب کو اس کی شرحوں سے الگ کر دیں اور مصنف کی مراد سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ایسا محسوس ہو گا کہ آپ معنے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ ”التحریر“ کا مطالعہ کرنے سے پہلے ابن حاجب کی کتاب کی شرحوں کا مطالعہ کریں پھر آپ ”التحریر“ کو پڑھیں تو آپ کو محسوس ہو گا کہ مصنف نے ابن حاجب کے شارحین کی عبارتیں لے کر انہیں ضم کر دیا ہے اور عبارتوں کا توازن اس طرح بگاڑ دیا ہے کہ عبارت مضطرب اور پیچیدہ ہو گئی ہے۔

علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ (متوفی ٧٩٥ھ) نے ”التحریر“ کا اختصار ”لب الأصول“ کے نام سے کیا، موصوف نے اس کا اظہار اپنی دوسری کتاب ”فتح الغفار بشرح المنار“ کے صفحہ ۶ پر کیا ہے۔ اس کتاب کی سب سے مفصل، مدلل اور محقق شرح علامہ ابن

امیرالحاج رحمہ اللہ (متوفی ۹۸۷ھ) کی "التقریر والتحبیر" ہے، یہ شرح تین جلدیں میں "دار الكتب العلمية" سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کی دوسری شرح علامہ محمد امین المعروف امیر بادشاہ رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۲ھ) کی "تيسیر التحریر" ہے، جو چار جلدیں میں طبع ہے۔

٥..... الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه

امام ابوالعباس الیزطینی مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۸۹۵ھ) مفسر، فقیہ، اصولی، متکلم اور نحوی ہیں۔ یہ کتاب علامہ تاج الدین سکنی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۷ھ) کی "جمع الجوامع" کی تفصیلی شرح ہے۔ مصنف نے یہ کتاب "البدر الطالع" کے بعد تصنیف کی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دونوں مذاہب (شوافع اور مالکیہ) کی اس فن سے متعلق تفصیلات قاری کو بیک وقت حاصل ہو جاتی ہیں اس لئے کہ ماتن شافعی تھے اور شارح مالکی ہیں۔ نیز شارح نے اپنی اس شرح میں کثرت سے متفقہ میں کے اقوال ان کتب سے جمع کئے ہیں جن میں سے کئی ایک اب دستیاب نہیں ہیں۔ مذہب مالکی کے ذکر میں خصوصی اہتمام کیا ہے اور اپنے مذہب کے علماء کی نقول کثرت سے پیش کرتے ہیں، مثلاً امام مالک، امام ابن القاسم، امام اشہب، امام اصنف، امام ابن عرفہ، امام قرآنی، امام ابیاری، امام ابن الحاچب، امام خلیل، امام ابن العربي، امام ابن رشد اور علامہ شاطبی رحمہم اللہ وغیرہ، اس طرح یہ کتاب مالکی مذہب کے اصول و فقہی آراء کا اور اقوال کی حفاظت کا ایک اہم مرجع بن گئی۔ مصطلحات اور تعریفات کے ما بین فرق بیان کرتے ہیں، مثلاً جس طرح انہوں نے "الشکر" اور "الحمد" کے ما بین شروع میں شرح کرتے ہوئے فرق کیا۔ مسائل اصولیہ کا بعض امثلہ فقہیہ سے ربط بیان کرتے ہوئے خاص طور پر فقہ مالکی ان کے پیش نظر رہتی ہے، اور اس طرح باحثین اور قارئین کے لئے مسئلہ اصولیہ کی منظر کشی ہو جاتی ہے۔ ان

اصطلاحاتِ اصولیہ کی تعریفات بیان کیں جنہیں مصنف نے نہیں بیان کیا تھا۔
کتاب سہل العبارت اور اس کے الفاظ واضح ہیں، ایسی پیچیدگی سے خالی ہے جو
مبتدی کے فہم اور منتهی کے استفادہ میں رکاوٹ کا باعث ہو۔

مصنف نے ”جمع الجوامع“ کے بعض شارحین مثلاً علامہ زکشی، علامہ محلی،
علامہ ولی الدین ابن العرّاقی رحمہم اللہ سے استفادہ کیا، اس لئے یہ کتاب ان سب کی
معلومات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔

یہ کتاب عبدالکریم بن علی بن محمد النملہ کی تحقیق کے ساتھ ۱۴۱۲ھ میں ”جامعہ امام محمد
بن سعود اسلامیہ“، ریاض سے شائع ہوئی ہے۔

۵۳..... غایة الوصول فی شرح لب الأصول

شیخ الاسلام زکریا انصاری شافعی رحمہم اللہ (متوفی ۹۲۶ھ) تفسیر، تجوید، حدیث، فقہ،
اصول، تصوف، منطق، جدل، فرائض اور دیگر علوم و فنون کے عالم تھے، کئی فنون پر بہت سی
کتب تصنیف کیں، ان کی تصنیف میں مطبوعہ کتب درج ذیل ہیں:

۱..... الغرر البهیہ فی شرح البهیۃ الوردیۃ ۲..... أسنی المطالب فی
شرح روض الطالب ۳..... منهج الطالب ۴..... شرح ألفیۃ العرّاقی
۵..... غایة الوصول فی شرح لب الأصول

مصنف نے علامہ سکلی رحمہم اللہ (متوفی ۱۷۷ھ) کی ”جمع الجوامع“ کا اختصار
”لب الأصول“ کے نام سے کیا، پھر خود اس اختصار کی شرح ”غایة الوصول“ کے نام
سے لکھی۔ یہ شرح مندرجہ ذیل سات موضوعات کی تفصیلات پر مشتمل ہے:

۱..... کتاب اللہ ۲..... سنت رسول ۳..... اجماع ۴..... قیاس ۵..... استدلال
۶..... تعادل اور ترجیح ۷..... اجتہاد۔ اور خاتمه میں تصوف کے مبادیات کا ذکر ہے۔

(۱۷۶) صفحات پر مشتمل یہ کتاب ”دار الكتب المصرية“ سے شائع ہوئی ہے، نیز مصنف نے علامہ بدر الدین رکشی رحمہ اللہ (متوفی ۹۲۷ھ) کے مختصر متن ”لقطة العجلان“ کی شرح ”فتح الرحمن“ کے نام سے لکھی ہے۔ یہ کتاب شیخ یاسین کے حاشیہ کے ساتھ ۱۳۲۸ھ میں ”مطبعة النيل“ قاهرہ سے شائع ہوئی ہے۔

۵۳..... مشکاة الأنوار فی أصول المنار

علامہ ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۹۷۰ھ) اپنے زمانے کے ایک بلند پایہ فقیہ اور اصولی گزرے ہیں، آپ نے کئی کتابیں تصنیف کیں، مطبوعہ معروف کتب درج ذیل ہیں:

- ۱..... البحر الرائق شرح کنز الدقائق.
- ۲..... الأشباه والنظائر.
- ۳..... الرسائل الزينة المعروفة رسائل ابن نجیم (اس میں ۲۱ رسائل ہیں)
- ۴..... مشکاة الأنوار.
- ۵..... لب الأصول، یہ تمام تصانیف فقہ اور اصول فقہ سے متعلق ہیں۔

علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے اصول فقہ میں علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۱ھ) کی کتاب ”التحریر فی أصول الفقه“ کا اختصار ”لب الأصول“ کے نام سے کیا، یہ کتاب انہوں نے ”مشکاة الأنوار“ سے قبل تالیف کی تھی، اس بات کی تصریح مصنف نے خود ”مشکاة الأنوار“ کے مقدمہ صفحہ ۶ پر کی ہے، اس کتاب کا نسخہ ”دار الكتب المصرية“ میں موجود ہے۔

علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے علامہ نسفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷۰ھ) کی کتاب ”منار الأنوار“ کی شرح ”مشکاة الأنوار“ کے نام سے لکھی۔ ”هدیۃ العارفین: (ج ۱ ص ۷۸)“ میں علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی تصانیف میں اس کتاب کا نام ”فتح الغفار فی شرح المنار“ ذکر کیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں اس لئے کہ مصنف نے خود اپنی اسی

کتاب کے مقدمہ صفحہ ۶ پر اس کا نام ”مشکاة الأنوار“ بتلایا ہے۔ اس کتاب کی تالیف سے مصنف چار شوال ۹۲۵ھ کو فارغ ہوئے۔

اس شرح کا مأخذ چار اہل علم کی کتب ہیں، علامہ صدر الشریعہ، علامہ اکمل الدین، علامہ تقی الدین، علامہ ابن الہبام رحمہم اللہ (مقدمہ: ص ۶) یہ کتاب ”جامعہ از ہر کلیہ شریعہ اسلامیہ“ کے دوسرے سال کے کورس میں شامل ہے۔ یہ کتاب ۱۳۵۵ھ میں ”مصطفی البابی حلبی“، مصر سے شائع ہوئی ہے۔

مصنف کی ایک تصنیف ”الأشباء والنظائر“ ہے، جو سات فنون پر مشتمل ہے:

الفن الأول: القواعد الكلية

الفن الثاني: فن القواعد

الفن الثالث: الجمع والفرق

الفن الرابع: الألغاز

الفن الخامس: الحيل

الفن السادس: الفروع

الفن السابع: الحکایات والمراسلات

یہ کتاب شیخ زکریا عمیرات کی تحقیق و تعلق اور تحریج کے ساتھ ۱۳۱۹ھ میں ”دار الكتب العلمية“ سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کی شروحتات میں سب سے مفید شرح علامہ حموی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۹۸ھ) کی ”غمز عيون البصائر فی شرح الأشباء والنظائر“ ہے، چار جلدیں پر مشتمل یہ مفصل شرح ”دار الكتب العلمية“ سے طبع ہے۔

یاد رہے کہ ”الأشباء والنظائر“ کے نام سے دو مطبوعہ کتابیں اور بھی ہیں:

ا..... ”الأشباء والنظائر“ علامہ تاج الدین سکنی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۷ھ)

۲..... ”الأشباء والنظائر“، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (متوفی ۹۱۱ھ)

۵۵..... حاشیة علی التلویح علی المقدمات الأربع فقط

علامہ عبدالحکیم سیوطی حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۰ھ) ہند کے بادشاہ شاہ جہاں کے یہاں رئیس العلماء تھے، بادشاہ وقت آپ کے بڑے قدر دان تھے، دو مرتبہ آپ کا وزن کیا اور ہر مرتبہ آپ کو (۶۰۰۰) ہزار روپے اُس دور کے مطابق انعام میں دیئے۔ ①

آپ نے جن موضوعات پر قلم اٹھایا ان پر تحقیق و تدقیق کا حق ادا کیا، آپ کی زیادہ تر تصانیف حواشی و تعلیقات کی صورت میں ہیں۔ علامہ اسماعیل بن محمد بغدادی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۹ھ) نے آپ کے سات حواشی کا تذکرہ کیا ہے:

۱..... حاشیة علی أنوار التنزيل للبيضاوى

۲..... حاشیة علی حاشیة عبد الغفور للفوائد الضيائية فی النحو

۳..... حاشیة علی شرح العقائد لفترازانی

۴..... حاشیة علی شرح العقائد للخيالي

۵..... حاشیة علی شرح العقائد العضدية المدوانی

۶..... حاشیة علی المطول

۷..... حاشیة علی مقدمات التلویح ②

نیز حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے ”المواقف“ پر بھی ان کے حاشیہ کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے: ③

علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ (متوفی ۷۱۳ھ) نے ان کے علاوہ مزید

① أبجد العلوم: القسم الثالث، علماء الهند، ج ۱ ص ۱۰۷

② هدية العارفين: ترجمة: عبد الحکیم بن شمس الدین السیالکوتی، ج ۱ ص ۵۰۳

③ کشف الظنون: باب المیم، ج ۲ ص ۱۸۹۳

حوالی اور تصنیفات کا بھی ذکر کیا ہے:

۱ حاشیہ علی شرح الشمسیہ ۲ حاشیہ علی شرح المطالع

۳ الدرة الشميّة في إثبات الواجب

نیز مندرجہ ذیل تین کتابوں کے شروح و حوالی پر بھی حاشیے لکھے:

۱ شرح حکمة العین ۲ شرح هدایۃ الحکمة للمیبڑی

۳ حاشیہ علی هوامش مراح الأرواح ①

رقم نے ان کے حوالی اور تصنیف کا اس لئے ذکر کیا کہ اکثر اہل علم ان سے اور ان کے حوالی اور تصنیف سے ناواقف ہیں۔ ان کی اصول فقه پر تصنیف ”حاشیہ علی التلویح علی المقدمات الأربع فقط“ ہند سے ۱۲۲۹ھ میں شائع ہوئی ہے۔

۴ إفاضة الأنوار علی أصول المنار

علامہ علاء الدین حصلفی حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۸۸ھ) مفسر، فقیہ، اصولی اور نحوی تھے، تفسیر، فقه، اصول، نحو وغیرہ میں عمدہ کتابیں تالیف کیں، آپ کی تصنیفات میں ” الدر المختار، الدر المستنقی، إفاضة الأنوار، شرح قطر الدری“ معروف ہیں۔ مصنف نے علامہ نسفی رحمہ اللہ کے معروف متن ”منار الأنوار“ کی شرح ”إفاضة الأنوار“ کے نام سے لکھی۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے اس شرح پر حاشیہ ”نسمات الأسحار“ کے نام سے لکھا، یہ شرح اور حاشیہ دونوں ۱۳۹۹ھ میں مکتبہ ”مصطفی البابی حلبي“ مصر سے طبع ہو چکے ہیں۔

۵ مسلم الشبوت فی أصول الفقه

علامہ محب اللہ بہاری حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۱۹ھ) کو اصول فقه اور منطق میں نمایاں

مقام حاصل تھا، آپ کی معروف تصانیف تین ہیں:

۱ مسلم العلوم ۲ مسلم الشبوت ۳ الجوهر الفرد فی مسألة الجزء الذي لا يتجزأ.

علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ ان تینوں کتابوں کے متعلق فرماتے ہیں:

وهذه الثلاثة مقبولة متداولة في مدارس العلماء. ①

اس کتاب کی سب سے مفید شرح علامہ عبدالعلیٰ محمد بن نظام انصاری رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۲۵ھ) کی ”فواتح الرحموت شرح مسلم الشبوت“ ہے، جو دو جلدیں میں طبع ہے۔ عبداللہ محمود محمد عمر کی تحقیق کے ساتھ ”قدیمی کتب خانہ“ کراچی سے بھی طبع ہے۔ علمی استعداد میں ترقی کے لئے اس کتاب کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ اس کتاب کی ایک شرح علامہ محمد بشیر الدین قنوجی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۶۳ھ) نے ”کشف المبهم مما فی السلم“ کے نام سے تالیف کی۔ ②

۵۸ نور الأنوار فی شرح المنار

یہ ملا جیون حنفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۳۰ھ) کی تصنیف ہے، شہنشاہ اور نگریب عالمگیر رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۱۸ھ) نے ان سے زانوئے تلمذ طے کئے، ان کی تصانیف میں مطبوعہ دو کتابیں ملتی ہیں:

۱ التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية ۲ نور الأنوار
 ”نور الأنوار“ علامہ نسفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۷۰ھ) کی ”منار الأنوار“ کی شرح

① أبجد العلوم: القسم الثالث، علماء الهند، ج ۱ ص ۳۰۷ / هدية العارفين: ترجمة:

محب الله البهاری، ج ۲ ص ۵

② هدية العارفين: ج ۲ ص ۳۷۲ / نزهة الخواطر: ج ۷ ص ۹۳۶ / الفتح المبين: ج ۳ ص ۱۵۱

ہے۔ مصنف نے چالیس ایام میں یہ کتاب تصنیف کی، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی، ہندوستان، پاکستان میں یہ کتاب درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ اس پر مفید حاشیہ علامہ عبدالحکیم لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۸۵ھ) نے ”قمر الأقمار“ کے نام سے لکھا، جو اصل کتاب کے ساتھ طبع ہے۔

٩ عقد الجید فی أحكام الاجتهاد والتقلید

محمد شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۱ھ) اپنے وقت کے ایک عظیم مفسر، فقیہ اور اصولی تھے۔ آپ نے علوم ظاہرہ تفسیر، حدیث، فقہ، نحو اور صرف کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ۱۱۲۳ھ میں حرمین کا سفر کیا اور وہاں کے شیوخ سے مستفید ہوئے، پھر واپس دہلی لوٹ آئے۔ آپ کی تصانیف میں معروف کتب درج ذیل ہیں:

- ١ فتح الرحمن ٢ الفوز الكبير ٣ حجة الله البالغة
- ٤ تراجم أبواب البخاري ٥ المصنفى شرح الموطا ٦ المسوى شرح الموطا ٧ التفهيمات الإلهية ٨ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ٩ الدر المثین فی مبشرات النبی الأمین ١٠ الإنصاف فی أسباب الاختلاف.

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اصول فقہ کے جمیع ابواب پر مشتمل کوئی مکمل کتاب نہیں لکھی سوانی ”عقد الجید“ کے۔ اس میں ابواب اصول فقہ میں سے ایک باب ”الاجتهاد والتقلید“ کو زیر بحث لائے ہیں، اس کتاب میں اجتہاد کا حکم، اس کی شرائط اور اقسام، مجتهد کی صفات، مذاہب اربعہ کی تقلید اور دیگر اجتہاد و تقلید سے متعلق مفید مباحث ذکر کی ہیں۔ مسائل اصول فقہ میں آپ کی آراء منتشر صورت میں موجود ہیں، ڈاکٹر مظہر صاحب نے اپنے پی اتیج ڈی کے مقالہ بعنوان ”أصول فقہ اور شاہ ولی اللہ“ میں ان آراء کو

یکجا کیا ہے، اور اس پر کراچی یونیورسٹی پاکستان سے پی انجی ڈی کی ڈگری آپ نے حاصل کی، یہ مقالہ کتابی صورت میں چھپ کر منظر عام پر آچکا ہے۔

آپ نے فقہائے کرام کے درمیان فقہی مسائل میں اختلاف کے اسباب "الإنصاف فی أسباب الاختلاف" میں بیان کئے۔ شیخ عبدالفتاح ابو عدہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب "دار النفایس" بیروت سے طبع ہو چکی ہے۔ شیخ صدر الدین اصلاحی نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔

٦٠ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

علامہ محمد بن علی شوکانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۰ھ) فقیہ، اصولی، مقری اور ناظر تھے، تفسیر، حدیث اور تاریخ میں بھی یہ طویل رکھتے تھے، مختلف فنون پر آپ کی کتب کی تعداد سو سے زائد بیان کی جاتی ہے، جس میں بیالیس کتب و رسائل مطبوعہ ہیں باقی سب مخطوطات کی شکل میں ہیں۔ مصنف کی معروف تصانیف میں "فتح القدیر"، نیل الأوطار، السیل الجرار، إرشاد الفحول، البدر الطالع" اور "القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد" ہیں۔ مصنف نے "إرشاد الفحول" کو ایک مقدمہ، سات مقاصد اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا۔


(مقدمہ) میں اصول فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، استمداد، احکام اور اس کی اقسام، مبادی لغویہ اور الفاظ کی تقسیمات پر کلام کیا۔ کتاب کے سات مقاصد درج ذیل ہیں:

پہلا مقصد کتاب عزیز میں ہے۔

دوسرा مقصد سنت اور اس کے متعلقات کے مباحث میں ہے۔

تیسرا مقصد اجماع اور اس کے متعلقات میں ہے۔

چوتھا مقصد اداؤ امر و نواہی، عموم و خصوص اور دلالت کے بارے میں ہے۔



پانچواں مقصد قیاس اور اس کے متنقفات میں ہے۔
 چھٹا مقصد اجتہاد، تقليید اور افتاء میں ہے۔
 ساتواں مقصد تعادل و ترجیح میں ہے۔
 خاتمۃ الکتاب مندرجہ ذیل دو مسائل پر مشتمل ہے:
 پہلا مسئلہ وہ اصل جس میں اختلاف واقع ہوا، کیا وہ اباحت ہے یا منع؟
 دوسرا مسئلہ اس میں منعم کے شکر کا عقلائی وجوب ہونے پر بحث کی ہے۔

امام شوکانی رحمہ اللہ ہر مسئلے میں صاحب رائے کی رائے کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، آراء ذکر کرنے کے بعد اس پر مناقشہ کرتے ہیں اور پھر راجح قول کی نشاندہی کرتے ہیں، کبھی کبھار ان کی رائے تمام علماء کی آراء سے منفرد ہوتی ہے۔ محقق دکتور شعبان محمد اسماعیل ان کے منبع پر ان کلمات کے ساتھ اظہارِ خیال فرماتے ہیں:

وبالجملة فإن كتاب "إرشاد الفحول" قد فتح آفاقاً واسعة للبحث والمناقشة، وأضاف إلى علم الأصول إضافات جديدة، وفتح أمام العلماء أبواباً من البحث والاجتہاد من خلال عرضه لآراء العلماء ومستنداتهم في كل مسألة، بعد تحریر محل الخلاف ومنشئه ثم بمناقشة كل دليل وبيان

الراجع من المرجوح. ①

ترجمہ: مجموعی طور پر کتاب "إرشاد الفحول" نے نئے نئے باب کھولے اور بحث و مناقشہ کے میدان کو وسعت دی اور علم الاصول میں نئے نئے اضافے کئے اور علماء کے سامنے بحث و اجتہاد کے دروازے کھولے۔ اپنے بیان کی توضیح میں علماء کی آراء پیش کیں اور ہر مسئلہ میں محل اور مظہر خلاف تحریر کرنے کے بعد دلیل لائے اور دلیل پر مناقشہ کیا اور ان

میں سے راجح قول بیان کیا۔

امام شوکانی رحمہ اللہ کا ”إرشاد الفحول“ میں منہج یہ ہے کہ انہوں نے تقلید کے بجائے اجتہاد کا راستہ اپنایا اور اپنے لئے ایک جدا گانہ فقہی مذہب اختیار کیا۔

مصنف ابتداء میں امام زید بن علی بن حسین رحمہ اللہ کے مذہب پر کاربند ہونے کی وجہ سے زید یہ کہلاتے تھے۔ بعد میں انہوں نے تقلید ترک کر کے اجتہاد کا دعویٰ کیا، اور ایک قدم آگے بڑھ کے تقلید کی ندامت و حرمت اور اپنے لئے اجتہاد کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے ایک رسالہ لکھا ”القول المفيد في أدلة الاجتہاد والتقلید“ اس رسالے کے چند عنوانات ملاحظہ کریں:

أقوال العلماء في النهي عن التقليد.


أقوال الأئمة الأربع في النهي عن التقليد.

القول بانسداد بباب الاجتہاد بدعة شیعۃ.

إبطال التقليد.

عنوانین میں جب اس قدر شدت ہے تو کتاب کے مشمولات کا کیا کہنا؟ مصنف اپنی کتاب ”نیل الأوطار“ اور ”السیل الجرار“ میں بھی اسی روش پر چلے ہیں۔ صحابہ و تابعین، فقہاء و علماء کے اقوال و دلائل بیان کرنے کے بعد اپنی ایک خاص رائے کے بیان پر کلام ختم کرتے ہیں۔ نیز علامہ شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ متقدیں کے مقابلے میں متاخرین کے لئے اجتہاد آسان ہے:

فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم أن الاجتہاد قد يسر الله للمتاخرين
تيسيرًا لم يكن المتسابقين لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دونت، وصارت
في الكثرة إلى حد يمکن حصره وكذلك السنة المطهرة وتکلم الأئمة



فی التفسیر والترجم و التصحیح و التجریح بما هو زیادۃ علی ما یحتاج

إليه المجتهد . ①

ترجمہ: بلاشبہ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متاخرین کے لئے اجتہاد آسان فرمادیا ہے، اور یہ آسانی سابقین کو میسر نہیں تھی۔ کیونکہ کتاب اللہ کی تفاسیر اتنی کثرت سے مددون ہو چکی ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ اسی طرح سنت مطہرہ بھی مددون ہو چکی ہے، ائمہ کرام نے بھی تفسیر، ترجیح، صحیح، تحریح سے متعلق بہت کچھ لکھ دیا ہے، جس سے اجتہاد کرنے میں سہولت پیدا ہو گئی ہے۔

یہ کتاب دکتور شعبان محمد اسماعیل کی تحقیق کے ساتھ دو جلدوں میں ”دارالكتب“ مصر سے طبع ہے، نسخہ محققانہ ہے۔

٦١ حصول المأمول من علم الأصول

علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۷ھ) کی یہ کتاب علامہ شوکانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۰ھ) کی کتاب ”إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول“ کا اختصار ہے، ”**حصول المأمول**“ پہلی مرتبہ ۱۳۰۶ھ میں ”دار الصحوة“، قاهرہ سے مقتدى حسن الازھری کی تعلیق کے ساتھ شائع ہوئی۔


٦٢ علم أصول الفقه

شیخ عبدالوہاب خلاف رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۷۵ھ) کی یہ کتاب چار قسموں پر مشتمل ہے:

..... ”القسم الأول: فی الأدلة الشرعية“ اس قسم کے تحت انہوں نے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، عرف، ائمہ صحاب، شرائع من قبلنا،

.....

① إرشاد الفحول: المقصد السادس، الفصل الأول، ج ۲ ص ۲۱۲



قول صحابی کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔

۲..... ”القسم الثاني: في الأحكام الشرعية“ اس قسم کے تحت انہوں نے حاکم، حکم، محکوم فیہ، محکوم علیہ کا تذکرہ کیا ہے۔

۳..... ”القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية“ اس کے تحت انہوں نے خاص، عام، مشترک، موقول، عبارت النص، اشارۃ النص، دلالۃ النص، اقتضاء النص، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، مفہوم مخالف، مفہوم موافق وغیرہ اصطلاحات بمعنی امثالہ کے بیان کی ہے۔

۴..... ”القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية“ اس قسم کے تحت انہوں نے پانچ اہم قواعد قدرے تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ اس کتاب میں نہایت عام فہم اور مربوط انداز میں اصطلاحات، توضیح اور امثالہ بیان کی ہیں۔ (۲۳۲) صفحات پر مشتمل یہ کتاب ”مکتبۃ الدعوۃ“ سے شائع ہوئی ہے۔

۶۳..... أصول الفقه الإسلامي

دکتور وہبۃ الزہیلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۳۶ھ) جامعہ دمشق میں فقہ اور اصول فقہ کے کبار اساتذہ میں سے تھے، آپ کی مندرجہ ذیل تصنیف اہل علم کے درمیان معروف ہیں:

۱..... الفقه الإسلامي وأدلته


۲..... أصول الفقه الإسلامي

۳..... آثار الحرب في الفقه الإسلامي

۴..... الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد

۵..... العلاقات الدولية في الإسلام

۶..... العقوبات الشرعية وأسبابها



مصنف کی ”أصول الفقه الإسلامی“، ایک تمہید اور آٹھ ابواب پر مشتمل ہے۔

تمہید میں مبادیات فقہ سے متعلق مباحث ہیں:

الباب الأول: الأحكام الشرعية

الباب الثاني: طرق استنباط الأحكام من النصوص

الباب الثالث: مصادر الأحكام الشرعية

الباب الرابع: النسخ

الباب الخامس: تعلييل النصوص

الباب السادس: مقاصد الشرعية العامة

الباب السابع: الاجتهاد والتقليد

الباب الثامن: التعارض والترجيح

جامعیت، تحقیق و تدقیق اور استینیاد کے لحاظ سے یہ کتاب بے نظیر ہے۔ یہ کتاب متقد میں، متاخرین کی کتب اصول فقہ کا نچوڑ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کتاب کا مطالعہ صحیح معنوں میں کرے تو اُسے اس فن پر فی الجملہ کسی اور کتاب کے مطالعے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس فن کو پڑھانے والے اہل علم حضرات سے خصوصی درخواست ہے کہ اس کتاب کو اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ (۱۲۳۰) صفحات پر مشتمل یہ جامع اور محقق کتاب ”مکتبہ رشیدیہ“ کوئی نہ سے بھی دو جلدؤں میں طبع ہے۔

اردو فتاوی کا تعارف

ا.....فتاوی عزیزی

یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۹ھ) کی طرف منسوب فتاوی ہے۔

آپ کا اصلی نام ”عبدالعزیز“ اور تاریخی نام ”غلام حلیم“ ہے، سلسلہ نسب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت ۲۵ رمضان المبارک ۱۱۵۹ھ بمقابلہ ۳ ستمبر ۱۸۷۶ء بروز جمعرات کو ہوئی۔ حافظہ اور ذہانت خداداد تھی، قرآن مجید کے ساتھ فارسی بھی پڑھ لی اور گیارہ برس کی عمر میں عربی کا انظام ہوا، پندرہ برس کی عمر میں جملہ علومِ رسمیہ سے فراغت حاصل کی، علومِ عقلیہ کی تکمیل اپنے والد محترم کے بعض شاگردوں سے کی اور علومِ اصلیہ یعنی حدیث و فقہ کا حصول اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۶۷ھ) سے کیا۔ ابھی آپ سترہ برس کے تھے کہ والد ماجد اس دارِ فانی سے کوچ کر گئے اس بنا پر جو علوم باقی رہ گئے تھے ان کی تکمیل آپ نے اپنے والد ماجد کے شاگردِ رشید شاہ محمد عاشق پھلتی سے کی۔ آپ چونکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بڑے فرزند تھے، لہذا مندرجہ درس و خلافت آپ ہی کے سپرد ہوئی اور آپ درس و تدریس، ہدایت و ارشاد اور تصنیف و تالیف میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو تمام علومِ عقلیہ و نقلیہ میں کامل مہارت تھی، حافظہ بلا کا تھا، تقریر انتہائی مرتب و دلنشیں کرتے تھے، آنداز سحر انگیز اور نصیحت معنی خیز ہوتی تھی، اس چیز نے آپ کو مرجع عوام و خواص بنادیا تھا۔ علوی سند کی وجہ سے دُور دُور سے طلبہ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کے حلقة درس میں شرکت کرتے اور سند فراغت حاصل کرتے۔ حضرت کی ذات

سے ہندوستان میں علومِ اسلامیہ خصوصاً حدیث و تفسیر کا خوب چرچا ہوا، مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور فتنوں کا سد باب ہوا، آپ ہی کی اخلاص و تقویٰ، للہیت اور علوم و مصارف نے شاگردوں اور مریدوں میں وہ روح پھونگی جس نے مسلمانوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ حکیم الامم حضرت مولانا آشرف علی تھانوی نے شیخ محمد تھانوی شاگردِ رشید حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے نقل کیا ہے کہ (انہوں نے) حضرت شاہ صاحب کی نسبت فرمایا ان کو چھ ہزار احادیث کے متن یاد تھے۔ ①

علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب قنوجی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۷ھ) لکھتے ہیں:

حضرت شاہ صاحب اپنے وقت میں علماء اور مشائخ کے مرجع تھے، تمام علومِ متداولہ وغیر متداولہ میں اُن کو جو مقام حاصل تھا وہ بیان سے باہر ہے، باطنی کمال کے ساتھ صوری جاہ و عزت اور ظاہری تعظیم و احترام بھی حاصل تھا، امیر الحجاء دین سید احمد شہید کو ان ہی سے بیعت طریقت حاصل تھی، بلادِ ہند میں علم و عمل کی سیادت ان پر اور ان کے بھائیوں پر ختم تھی، ان کی کتابیں فضلاء کی معتمد علیہ ہیں، ان کا خاندان علوم حدیث اور فقہ حنفی کا خاندان ہے، اس علم شریف کی خدمت جیسی اس خاندان سے اقلیم ہند میں بن آئی کسی دوسرے خاندان کی بابت مشہور و معلوم نہیں، درحقیقت اس سرز میں میں عمل بالحدیث کی تحریر ریزی ان کے والد ماجد نے کی اور انہوں نے اس کو برگ و بار بخشے اور پروان چڑھایا۔ ②

حضرت مولانا سید عبدالحی حسني رحمہ اللہ نے حضرت شاہ صاحب کا تذکرہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے:

الشيخ الإمام، العالم الكبير، العلامة، المحدث عبد العزيز بن ولی الله

① الاضافات اليومية من الافتادات القومية ص ۲۷۰، ادارہ اشرفیہ ملتان

② ماخوذ از اتحاف النبلاء المتقدین باحیاء مآثر الفقهاء المحدثین: ص ۲۹۶ مطبع نظامی کانپور

بن عبد الرحیم العمری الدھلوی سید علمائنا فی زمانہ ابن سیدھم لقبہ بعضهم سراج الھند وبعضاً بحجۃ اللہ.

اور آگے تحریر فرماتے ہیں :

وكان رحمة الله أحد أفراد الدنيا بفضلة، وآدابه، وعلمه، وذكائه وفهمه، وسرعة حفظه اشتغل بالدرس والافادة وله خمس عشرة سنة، فدرس وافاد حتى صار في الھند العلم المفرد وتخرج عليه الفضلاء وقد صدته الطلبة من اغلب الارجاه وتها فتو عليه تهاوت الظماں على الماء..... ولعلك تتعجب انه كان مع هذه الامراض المولمة والأقسام المفجعة، لطيف الطبع حسن المحاضرة جميل المذاكرة فصيح المنطق مليح الكلام ذاته وبيانه كثير البحث عن الحقائق، قوى التصور وتدو لا يمكن الاھاطة بوصفه ومجالسته هي ترھة الأذهان والعقول بما لديه من الأخبار التي تنسف الأسماع والأشعار المھذبة للطبع.

❶

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی معروف تصانیف

(۱) ”تحفہ اشناعشریہ“ ۱۲۸۰ھ کی تصنیف ہے، فارسی زبان میں رڈ روافض پر انتہائی بہترین کتاب ہے، جس کے بارے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۹۷ھ) فرمایا کرتے تھے کہ تحفہ تو تحفہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے ”ہدیۃ الشیعہ“ نامی جو کتاب قلمبند فرمائی تو مدار ”تحفہ اشناعشریہ“ ہی کو بنایا، غالباً یہی وہ کتاب تھی جس کی پاداش میں روافض کی طرف سے حضرت شاہ صاحب کو درج مرتبہ زہر دیا گیا، ایک دفعہ تو چھپکلی کا اُبٹن دیا گیا جس سے حضرت پر بیماریوں کا ہجوم ہوا، علامہ سید عبدالحی رحمہ اللہ حسنی نے

”نזהۃ الخواطر“ میں آپ کے ترجمہ میں کئی بیماریوں کا ذکر کیا ہے، جن میں برص اور جذام جیسی جان لیوا بیماریاں بھی تھیں، صرف اسی پروفائل کے لکھجے ٹھنڈے نہ ہوئے بلکہ اُس وقت دہلی پر سلطنت شمن اولیاء اللہ نجف علی خاں کا تھا، جس نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کے پہنچ نکلوا کہ ہاتھوں کو بیکار کروادیا تاکہ آئندہ وہ کوئی تحریر نہ لکھ سکیں اور حضرت مرزا منظہر جان جاناں رحمہ اللہ کو شہید کروادیا تھا، اسی نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کو مع اہل و عیال و حضرت شاہ رفع الدین صاحب کے اپنے قلمرو سے نکلوادیا تھا اور سوار ہونے کی اجازت بھی نہ دی تھی، حضرت پیدل شاہدرہ اور پھر جو پور تشریف لے گئے تھے، اس سفر میں حضرت کو لوگی جس سے حضرت کی طبیعت میں حدّت پیدا ہو گئی۔

(آواحِ ثلاشہ)

(۲) ”تفسیر عزیزی“ ہے، جس کا نام ”فتح العزیز“ ہے، شدید بیماری کی حالت میں آپ نے اس کا املاء کروایا تھا، یہ کئی صفحیں جلدیں میں تھیں لیکن انقلاب ہند کے زمانے میں اس کی پہلی اور آخری جلد کے علاوہ بقیہ تمام تفسیر ضائع ہو گئی:

وَمَا مَصْنَفَاتُهُ فَأَشْهَرُهَا: تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْمُسْمَى بِفَتْحِ الْعَزِيزِ صَنْفُهُ فِي شَدَّةِ الْمَرْضِ وَلِحُوقِ الْضُّعْفِ إِمْلَاءٌ وَهُوَ فِي مَجَلَّدَاتٍ كَبَارٍ ضَاعَ مَعْظُمُهَا فِي ثُورَةِ الْهَنْدِ وَمَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا مَجَلَّدَانِ مِنْ أُولَى وَآخِرَ.

اگر یہ مکمل تفسیر موجود ہوتی تو کتب تفاسیر میں اس کی ایک نمایاں شان ہوتی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) اس تفسیر کے متعلق فرماتے ہیں:

يَا لَيْتَ! لَوْ كَمْلَ هَذَا التَّفْسِيرَ عَلَى هَذَا النَّمَطِ الْبَدِيعِ لَقَضَى عَنَا حَقَّ

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ حَسْبَ الْمَقْدُورِ الْبَشَرِيِّ.

ترجمہ: اے کاش! کہ یہ تفسیر اگر اسی انداز میں مکمل ہو جاتی تو بشری وسعت و طاقت کے مطابق قرآن عظیم کی تفسیر کا ہماری طرف سے حق ادا ہو جاتا۔

(۳) ”بستان الحمد ثین“، اس کتاب میں اختصار کے ساتھ محدثین کرام اور اہم کتب حدیث کا تعارف ہے۔

(۴) ”عجالہ نافعہ“، اس کتاب کی نہایت عالمانہ اور محققانہ شرح محقق العصر حضرت مولانا عبدالحليم چشتی صاحب مدظلہ نے ”فوانید جامعہ بر عجالہ نافعہ“ کے نام سے لکھی ہے۔

(۵، ۶) علم بلاغت میں ان کا رسالہ ”میزان البلاغة“ ہے اور علم کلام میں ”میزان الكلام“ ہے۔ ان کی ایک تصنیف ”فتاوی عزیزی“ ہے۔

(۷) ”فتاوی عزیزی“ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف منسوب مختلف مضامین اور فتاوی کا بیش بہا علمی مجموعہ ہے، اس فتاوی میں فقہ، عقائد، تصوف اور کلام کے مضامین شامل ہیں، اس فتاوی میں حضرت شاہ صاحب کے مختلف رسائل بھی شامل ہیں، اس فتاوی میں درج ذیل پانچ بڑے ابواب کے تحت مسائل ہیں:

۱..... ”باب التفسیر والتشريح“، اس کے تحت قرآنی کریم کی مختلف آیات کی تفسیر ہے۔

۲..... ”باب التصوف“، اس کے تحت تصوف، وحدت الوجود، توحید و جودی، کشف، الہام، استعانت بالارواح، استمداد از اہل قبور اور دیگر بدعاویں و رسومات سے متعلق مسائل کے جوابات ہیں۔

۳..... ”باب الخلافة“، اس کے تحت تفضیل شیخین، بارہ خلفاء، ائمہ اثناعشریہ، خلافت علی منہاج النبوۃ اور دیگر امامت و خلافت سے متعلق مباحثت ہیں۔

۴..... ”باب العقائد“، اس کے تحت عقیدہ بداء، روایت باری تعالیٰ، شفاعتِ انبیاء


و شہد او علماء کی وضاحت، عدالت صحابہ، واقعہ مسراج، عصمت انبیاء، تکفیر اہل قبلہ، فرقہ امامیہ اور دیگر گمراہ فرقوں کا ذکر ہے۔

۵..... ”بَابُ الْفِقْهِ“ اس کے تحت طہارت، نماز، روزہ، حج، جنازہ، نکاح، طلاق، بیع و شراء، رہن، ہبہ اور سودے متعلق اہم فقہی مسائل کا ذکر ہے۔

یہ فتاوی فارسی زبان میں ہے، ان کا اردو ترجمہ مولانا عبدالواحد صاحب غازی پور رحمہ اللہ نے ۱۳۲۲ھ میں کیا، اب یہ ترجمہ مختلف و متنوع عناؤں کے تحت ”اتیج ایم سعید“ کراچی سے (۶۳۱) صفحات پر طبع ہے۔ اس فتاوی پر اب تک کوئی علمی و تحقیقی کام نہیں ہوا، اگر اس ترجمہ کو تعلیق و تحقیق اور تخریج کے ساتھ عمده طباعت میں شائع کیا جائے تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔

”فتاوی عزیزی“ میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات کے بعد بہت سے اضافے کئے گئے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعض سوانح نگاروں نے اس فتاوی کو آپ کی تصانیف میں شمار کیا ہے، جیسے صاحب ”نزہۃ الخواطر“ نے (ج ۷ ص ۱۰۱) میں، لیکن بعض محققین اہل علم کی رائے یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے اسے مستقل تصنیف نہیں کیا، بلکہ متعدد اوقات میں آپ سے مسائل پوچھے گئے، آپ نے کسی کو تحریری اور کسی کو زبانی جواب دیا، بعد میں کسی نے ان مسائل کو جمع کر کے طبع کیا، اب وہ جامع کون ہے، بالتحقیق اس کے بارے میں علم نہیں، اس فتاوی میں خصوصاً عقائد اور بدعتات و رسومات سے متعلق بعض جوابات ایسے ہیں جو جمہور اہل علم کے نقطہ نظر سے ہٹ کر ہیں، اس میں بہت سے اضافے اور الحاقات ہیں، چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ لکھتے ہیں:

”الفتاوی العزیزیة“ المنسوبة إلى الشیخ عبد العزیز المحدث



الدھلوا رحمہ اللہ، فی ان هذہ الکتاب لیس من تألیفہ، و إنما جمع رجل فتاواہ بعده، والجامع لا یعرف، وقد سمعتُ من والدی الشیخ المفتی شفیع قدس سره أنه يوجد في هذا الكتاب الحالات لا تصح نسبتها إلى الشیخ الدھلوا رحمہ اللہ، فلا ینبغی الاعتماد علیها ما لم یتأید مضمونه

بدلیل آخر. ①

ترجمہ: حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دھلوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ”الفتاوی العزیزی“ ان کی تالیف نہیں ہے، ان کے بعد کسی شخص نے ان کے فتاوی کو جمع کیا اور یہ شخص معلوم نہیں ہے، میں نے اپنے والد حضرت مفتی محمد شفیع قدس سرہ سے یہ سنا ہے کہ اس کتاب میں بعد میں کئے گئے بہت سے ایسے اضافے موجود ہیں جن کی نسبت حضرت شاہ عبدالعزیز کی طرف کرنا درست نہیں ہے، لہذا جب تک اس کے مضمون کی تائید کسی اور دلیل سے نہ ہو جائے صرف اس پر اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے۔

۲.....مجموعۃ الفتاوی

یہ محقق اعصر علامہ عبدالحجی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) کے فتاوی ہیں، آپ نہایت وسیع النظر اور وسیع المطالعہ عالم تھے، آپ کو علم حدیث، فن رجال، اصول حدیث اور فقہ میں یہ طولی حاصل تھا، آپ نے اپنی چالیس سالہ عمر میں مختلف علوم و فنون پر چھوٹے بڑے ایک سو دس (۱۱۰) کتب و رسائل تصنیف کئے۔ آپ نے اکیلے وہ علمی و تحقیقی کام کئے جو اکیلہ میاں صدیوں میں نہیں کر سکتیں ”فکل میسر لاما خلق له“ آپ کی فقہی خدمات میں نمایاں ”السعایة، عمدة الرعاية“ اور ”ہدایہ“ کی چاروں جلدوں پر حواشی اور ”مجموعۃ الفتاوی“ ہیں، یہ فتاوی تین اجزاء پر مشتمل ہیں، اس میں درج ذیل

موضوعات پر سوالات کے جوابات ہیں:

کفر و ایمان، عقائد، سنت و بدعت، قرآن و حدیث، جنت و جہنم، علم و علماء، طہارت و نجاست، صلوٰۃ وزکوٰۃ، جمعہ و عیدین، تجمیع و تکفین، نکاح و طلاق، بیع و شراء، قرض و رشوت، اکل و شرب، لباس و زینت، وصایا و دعویٰ، قضاء و شہادت، بیعت و خلافت، صلح و غصب، رہن و اجارہ، حدود و تعزیرات، صید واضحیہ اور جہاد و غنیمت سے متعلق عنوانات کے تحت سوالات کے جوابات ہیں۔

اس فتاویٰ میں اکثر سوالات کے جوابات عربی اور فارسی میں تھے، تو حضرت مولانا مفتی محمد برکت اللہ فرنگی مغلی رحمہ اللہ نے اس فتاویٰ کا اردو ترجمہ کیا، اور اس فتاویٰ کے منتشر مسائل کو فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا۔ پھر حضرت مولانا مفتی محمد صیٰعی ملیح آبادی رحمہ اللہ نے ان تمام مسائل کی از سرِ نو مفصل و مکمل فہرست مرتب کی، جس سے اس بحر بے کنار سے استفادہ آسان ہو گیا، یہ فتاویٰ تحقیق و تدقیق، گہرائی و گیرائی کا اور بیش بہا علمی و تدقیقی معلومات کا ایک نادر خزانہ ہے، لیکن افسوس کہ اس فتاویٰ کی اب تک علمی و تحقیقی اعتبار سے کوئی خدمت نہیں کی گئی۔ اگر اس فتاویٰ کو تعلیق و تحقیق اور تخریج کے ساتھ کمپوز کر کے جدید اسلوب میں شائع کیا جائے تو فقهہ اور فتویٰ سے نسلک حضرات کے لئے ایک گراں قدر علمی سرمایہ ہو گا۔ موجودہ فتاویٰ کا یہ ترجمہ تین حصوں میں ہے، جو تقریباً (۱۰۰۰) صفحات پر مشتمل ہے، یہ فتاویٰ ”اتیح ایم سعید“، کراچی سے طبع ہے۔

فائدہ: علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ کی خود نوشت سوانح اور تصانیف کے اسماء کے لئے ”النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير“ کے صفحہ ۲۷ تا ۶۲ کا مطالعہ کریں۔

۳.....فتاویٰ رشیدیہ

یہ فقیہ النفس علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۳ھ) کے فتاویٰ کا مختصر سا




مجموعہ ہے، جو ایک ہزار آٹھ تیس (۱۰۳۱) فتاوی پر مشتمل ہے۔

حدیث اور فقہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے دو خاص موضوع تھے، چنانچہ قیام گنگوہ کے زمانہ میں درس حدیث کے ساتھ فقہ و فتاوی کا سلسلہ بھی جاری تھا اور ہندوستان کے علاوہ بیرون ملک سے بھی کثرت سے استفتاء آپ کی خدمت میں آتے تھے، فقہ و فتاوی میں آپ کے مقام کا یہ حال تھا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۹ھ) کے پاس جو استفتاء آتے تھے حضرت نانوتوی عموماً وہ استفتاءات حضرت گنگوہی کے سپرد کر دیتے تھے اور آپ ان کے جوابات لکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت نانوتوی کی وفات کے بعد بھی دارالعلوم دیوبند میں آنے والے اہم استفتاء آپ ہی کی خدمت میں بھیج جاتے تھے، اور آپ ان کے جواب عنایت فرماتے تھے اور کبھی خود دارالعلوم تشریف لا کر استفتاء کے جواب تحریر فرمایا کرتے تھے، نیز حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۶۲ھ) بھی اپنے قیام تھانہ بھون کے زمانہ میں اہم مسائل میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ کی فقہی بصیرت کا اعتراف کرتے ہوئے محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۳ھ) آپ کو ”فقیہ النفس“ کہا کرتے تھے، اور آپ کو علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۵۲ھ) پر بھی ترجیح دیا کرتے تھے، علامہ کشمیری رحمہ اللہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اب سے ایک صدی پہلے تک اس شان کا فقیہ النفس جماعت علماء میں نظر نہیں آتا ہے۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ چونکہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ہم عصر تھے، اس لئے آپ کے پاس بدعت و رسومات سے متعلق زیادہ استفتاء آتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے بیشتر فتاوی انہیں موضوعات پر مشتمل ہیں۔

یہ فتاوی آپ نے زندگی کے مختلف اوقات میں اور خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے آنے والے استفتاء کے جواب میں لکھے ہیں، اس میں وقت کے لحاظ



سے بدعات و رسومات اور عقائد سے متعلق بھی بہت سے فتاوی ہیں، ابتداء میں آپ کے فتاوی کے نقول محفوظ رکھنے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اس لئے آپ کے بہت سے فتاوی اب تک پرده خفا میں ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظلہ لکھتے ہیں کہ مولانا نور الحسن کاندھلوی صاحب نے مولانا گنگوہی کے غیر مطبوعہ فتاوی کی ایک مناسب تعداد حاصل کی ہے، جسے وہ مستقل مجموعے کی شکل میں شائع کرنے والے ہیں، رقم الحروف کو بھی اسے دیکھنے کا موقع ملا ہے، امید ہے کہ یہ مجموعہ کم و کیف دونوں اعتبار سے پہلے مجموعہ سے بڑھ کر ہو گا۔ ①

اس فتاوی میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، تقلید و اجتہاد، نکاح و طلاق، صید و ذبائح اور حظر واباحت وغیرہ تمام شعبہ ہائے زندگی سے متعلق اہم مسائل کے جوابات ہیں۔ آپ کے سینکڑوں فتاوی ”تذکرة الرشید“ اور ”مکاتیب رشیدیہ“ میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزئے خیر دے حضرت مولانا مفتی محمد طیب یوسف صاحب کو جنہوں نے مختلف کتب سے حضرت کے فتاوی کو تبویب و تخریج کے ساتھ فتاوی رشیدیہ میں جمع کیا۔ مرجوح اور متعارض فتاوی کی نشاندہی کر کے جمہور علمائے احناف اور دیگر اکابر علمائے دیوبند کامفتی بقول ذکر کیا ہے، فتاوی کے شروع میں حضرت گنگوہی کی مختصر سوانح بھی ذکر کی ہے، اب یہ فتاوی تبویب، ترتیب جدید اور تخریج و تحقیق کے ساتھ ”اشاعت اکڈمی“ پشاور سے شائع ہوئے ہیں۔

۳.....فتاوی منظاہر علوم المعرفہ بہ فتاوی خلیلیہ

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۶ھ) متعدد علوم و فنون کے مبتھر عالم تھے، تاہم حدیث و فقہ سے آپ کو خاص مناسبت تھی، اور یہ مناسبت حضرت مولانا

رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ جیسی فقیہ النفس شخصیت کی سر پرستی اور شفقت و عنایت کی وجہ سے آپ میں پیدا ہوئی تھی۔ آپ کی شانِ تفقہہ اور فقہی بصیرت کا سب سے پہلا نمونہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے فقہی اشکالات و جوابات ہیں، جن میں فقہ کی بعض اہم ترین کتابوں خصوصاً ہدایہ کی بعض عبارتوں اور دقائق کو حل کرنے کی درخواست کی گئی تھی، چنانچہ آپ کے خطوط کے جواب میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

شبہات ہدایہ آپ نے کیا لکھے، اجتہادیات کی لم (حقیقت) کا استفسار ہے، یہ وہ مقام ہے کہ بندہ اس مقام پر طلبہ سے بیان کرتا ہے اور طلبہ آج تک قبول کرتے رہتے ہیں، مگر تم ماشاء اللہ ذکری آدمی ہو، اگر کوئی شبہ، خدشہ کرو گے تو پھر شروع کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ①
اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ آپ کی باریک بینی اور ہدایہ کی عبارت پر شبہات کی قوت کا اعتراض اس طرح کرتے ہیں:

تم جیسے ذکر کی کا جواب مجھے مسلطے (کندڑہن) سے کیسے ہوگا؟

استفسارات آپ کے سب کے سب قوی ہیں، ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا۔ ②
ماضی قریب کے مشہور عالم و مفکر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ آپ کی شانِ تفقہہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

ہمارے اس عہد میں جن چیدہ اور برگزیدہ علماء کو اس دولتِ علم و حکمتِ دین سے بہرہ وا فرملا، جس کو حدیث صحیح میں ”مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُهُ فِي الدِّينِ“ ③
کے عمق و جامع الفاظ سے ادا کیا گیا ہے، ان میں حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری

④ تذكرة الرشید: ۱۶۲/۱

تذكرة الخليل: ص ۸۳

⑤ صحیح البخاری: کتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ۲۵/۱

رقم الحديث: ۱۷

رحمہ اللہ خاص مقام رکھتے ہیں۔ اور اس کے حامل و متصف کو فقیہہ النفس کے لفظ سے ہماری قدیم کتابوں میں یاد کیا گیا ہے۔ ①

یہ فتاوی علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے ہیں، یہ آپ کے ان فتاوی کا مجموعہ ہے جو آپ نے مظاہر علوم کے دارالافتاء سے جاری فرمائے تھے، اسی لئے اس کو ”فتاوی مظاہر علوم“ کہتے ہیں، اور آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو ”فتاویٰ خلیلیہ“ بھی کہتے ہیں۔ ان فتاوی کو مولانا سید خالد صاحب نے مرتب کیا ہے، اس فتاوی کے شروع میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا قیمتی پیش لفظ ہے، مولانا محمد شاہد صاحب سہارنپوری نے مقدمہ و تعارف کے عنوان سے (۲۰) صفحات پر حضرت شیخ کی تفصیلی سوانح اور اس فتاوی کا تعارف کرایا ہے۔ مرتب نے فقہی ابواب کی ترتیب پر تعلیق و تخریج کے ساتھ اس کی افادیت میں اضافہ کر دیا ہے، فتاوی کا یہ مجموعہ ایک جلد میں (۲۷۲) صفحات اور ایک سو ستر (۴۰) فتاوی پر مشتمل ہے۔ یہ فتاوی ”مکتبۃ الشیخ“، بہادر آباد سے طبع ہے۔

۵.....فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

یہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۷ھ) کے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ قاسم العلوم والخبرات علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۹۷ھ) نے ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ کو ایک دینی ادارہ کی ”درسہ اسلامی عربی“ کے نام سے داغ بیل ڈالی، یہی ادارہ آگے چل کر ”دارالعلوم دیوبند“ کے نام سے مشہور و معروف ہوا۔ ابتداء میں چند دن افتاء کی خدمت علامہ محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) نے کی۔ فقیہہ النفس علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۳ھ) پیش آمدہ مسائل اور اہم استفتاءات کے جوابات لکھا کرتے تھے، آپ کے فتاوی کا مجموعہ ”فتاویٰ رشیدیہ“ کے نام سے طبع ہے۔ حضرت مولانا

مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۷ھ) سے رب جمادی ۱۳۲۶ھ تک مسلسل چھتیس (۳۶) سال افتاء کے عہدہ پر فائز رہے، آپ کے ابتدائی اٹھارہ سال کے فتاویٰ ۱۳۱۰ھ سے ۱۳۲۸ھ تک بالکل محفوظ نہیں رہ سکے، ابتدائی میں نقل فتاویٰ کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اس لئے اٹھارہ سال کا یہ قیمتی سرمایہ ضائع ہو گیا۔ ۱۳۲۹ھ سے ۱۳۳۶ھ تک کے فتاویٰ چودہ خیم رجسٹروں میں محفوظ ہیں، بارہ رجسٹروں کے فتاویٰ حضرت مولانا مفتی محمد ظفیر الدین مقناحی رحمہ اللہ نے فقہی ترتیب پر نہایت عمدہ تعلیق و تخریج اور مقدمہ کے ساتھ ۱۲ خیم جلدیں میں مرتب کئے، ان کی اس طویل محنت سے فتاویٰ کے استینا دواعتماد پر اور بھی اضافہ ہو گیا۔ فتاویٰ کا یہ مجموعہ (۱۲) جلدیں، چار ہزار نو سوا ٹھاؤن (۴۹۵۸) صفحات اور آٹھ ہزار چار سو چوراسی (۸۴۸۲) فتاویٰ پر مشتمل ہے۔ فتاویٰ کا یہ مجموعہ اب بھی ناکمل ہے، اس لئے کہ اس میں صرف صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، نکاح و طلاق وغیرہ سے متعلق فتاویٰ ہیں، آخری جلد میں آیمان، حدود و قصاص اور مرتدین سے متعلق مسائل کا ذکر ہے، جبکہ کئی اہم موضوعات مثلًا عقائد، سنت و بدعت، حظر و باحت اور بیوع سے متعلق فتاویٰ کا اس میں ذکر نہیں ہے، اس فتاویٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمومی نوعیت کے مسائل زیادہ ہیں، جن کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے، اس فتاویٰ میں سائلین کی استعداد کو ملحوظ رکھ کر جواب دیا گیا ہے، کہیں مختصر اور کہیں طویل، عموماً عوام کے لئے مختصر اور اربابِ فقہ و افتاء کے لئے تفصیلی جوابات دیئے گئے ہیں۔


فتاویٰ کے شروع میں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کا پیش لفظ ہے جس میں آپ نے صاحبِ فتاویٰ حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمہ اللہ کے حالات اور آپ کے فتاویٰ کا تذکرہ کیا ہے، ”دارالاشاعت“ کراچی سے تخریج جدید کے ساتھ ۱۲ جلدیں میں یہ ”فتاویٰ دارالعلوم دیوبند مکمل و مدلل“ کے نام سے طبع ہیں۔

۶.....عزیز الفتاوی

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۶ھ) نے حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۹ھ) کے ۱۳۳۷ھ سے ۱۳۴۰ھ تک لکھے گئے فتاوی کو جمع کیا ہے، مفتی صاحب کے فتاوی کے کل چودھ سخنیم رجسٹروں میں سے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے صرف دو رجسٹروں کے فتاوی کو مرتب فرمایا تھا، بقیہ بارہ رجسٹروں کے فتاوی مفتی محمد ظفیر الدین مفتاحی رحمہ اللہ نے مرتب کیا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند میں قیام کے دوران اس فتاوی کو مرتب کیا، اور اس کے ساتھ اپنے لکھے ہوئے فتاوی کو بھی ”امداد المفتیین“ کے نام سے جمع کیا، یہ مجموعہ پہلے ماہنامہ ”المفتی“ سے شائع ہوتا رہا، پھر دیوبند ہی سے آٹھ حصوں میں شائع ہوا، اس فتاوی میں حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ کے فتاوی ”عزیز الفتاوی“ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے فتاوی ”امداد المفتیین“ کے نام سے جمع ہیں۔ یہ فتاوی چونکہ قیام دیوبند کے دوران مرتب کئے گئے اس لئے اس کو ”فتاوی دارالعلوم دیوبند“ بھی کہتے ہیں۔ تبویب، ترتیب جدید اور اضافات کے ساتھ یہ فتاوی دو جلدوں میں ”دارالاشاعت“ کراچی سے طبع ہیں۔

۷.....امداد الفتاوی

حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۶۲ھ) کی خدمات یوں توہمہ جہت ہیں، لیکن آپ کی خدمات کے دو عناءں (فقہ اور تصوف) سب سے زیادہ نمایاں ہیں، چنانچہ آپ نے فقہ میں مہارت کی بناء پر طالب علمی کے زمانہ سے ہی حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کی رہنمائی میں فتوی نویسی شروع کر دی تھی، پھر جب کانپور تشریف لے گئے تو وہاں بھی نمایاں طور پر آپ نے افقاء کی خدمت انجام دی اور آخر میں جب آپ کا قیام تھانہ بھون میں تھا تو یہاں بھی کثرت سے



استفتاءات کے جوابات تحریر فرمایا کرتے تھے۔

فقہ و فتاوی میں آپ کے کام کا جوانہ اداز تھا، ان میں سے چند قابل تقلید خصوصیات کا ذکر یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے:

۱..... فقہی مسائل میں نصوص سے اقتناء علمائے دیوبند کی خصوصیت رہی ہے، چنانچہ آپ میں بھی یہ وصف بدرجہ اتم پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے نص قرآنی سے احکام کے استنباط کے سلسلہ میں باضابطہ ”دلالی القرآن علی مسائل النعمان“ اور نص حدیث سے مسائل کے استنباط کے تعلق سے ”اعلاء السنن“ لکھنے کا مستقل ارادہ فرمایا تھا، جس کو آپ کے شاگردوں نے مکمل کیا۔

۲..... آپ فقہاء کی جزئیات سے عموماً نہیں ہٹتے تھے، اور فقہ و فتاوی میں اجتہادی شان رکھنے کے باوجود اپنی انفرادی رائے اختیار کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔

۳..... جس مسئلہ میں صریح جزئیہ نہ ملے وہاں اصول و قواعد کی روشنی میں جواب تو لکھ دیتے تھے مگر یہ تنبیہ ضرور کر دیتے تھے کہ یہ جواب اس بنیاد پر ہے کہ صریح جزئیہ نہیں ملا، اس لئے دوسرے علماء سے بھی مراجعت کر لی جائے اور اختلاف ہو تو مطلع کیا جائے۔

۴..... آلاتِ جدیدہ اور معاملاتِ جدیدہ میں ابتلاء عام اور یسر و سہولت کے پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھتے تھے تاکہ لوگ شریعت سے تنفس ہو کر حرام میں نہ پڑ جائیں۔

۵..... معاملات میں آسانی و سہولت اور ابتلاء عام پر نظر کرتے ہوئے بسا اوقات مذہب کی ضعیف روایت کو اصول فقہ کے دائرہ میں رہتے ہوئے اختیار کر لیتے تھے۔

۶..... اگر اپنے مذہب میں معاملات میں آسانی و سہولت کی گنجائش نہ ہو تو دوسرے ائمہ متبویین کے مذاہب سے بھی استفادہ کرتے تھے اور اس کو ”عدول عن الدین إلى الدين“، ”قرار دیتے تھے، چنانچہ ”الحیلة الناجزة“، اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

۷..... پیچیدہ مسائل میں آپ ہمیشہ اپنے اکابر اور علمائے عصر سے رجوع کرتے تھے،

شروع میں حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمہ اللہ سے، پھر حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے رجوع کرتے رہے اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اپنے شاگردانِ رشید سے بھی مشورہ کرنے میں جھجھک محسوس نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ علماء کے لئے مشورہ کی پابندی ضروری ہے، ضابطہ کے بڑے نہ رہیں تو چھوٹے ہی سہی۔

۸..... حاضرین اور عام علماء کو بھی بار بار تاکید کرتے تھے کہ میرے کسی فتویٰ اور تحقیق سے کسی کو اختلاف ہو تو اس پر ضرور متنبہ کیا جائے اور متنبہ کئے جانے پر اپنی رائے سے رجوع کر لیتے تو اس کو خانقاہ سے نکلنے والے ماہنامہ ”النور“ میں شائع بھی کر دیتے تھے اور اس کے لئے آپ کے یہاں ایک مستقل عنوان ”ترجمیح الراجح“ کا ہوا کرتا تھا، جس کو بعد میں آپ کے مجموعہ فتاویٰ میں ”تحصیح امداد الفتاویٰ“ اور ”اصلاح تسامع“ کے عنوان سے شامل کیا گیا تھا۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ بندہ نے آئندہ کے لئے ایک کافی جماعت اہل علم و دیانت کی اس کام کے لئے مخصوص کر دی ہے کہ میری تمام تحریرات کو نظر تقدیم سے دیکھ لیا جائے، جو ان کی رائے میں قابل اشاعت نہ ہوں ان کو یا حذف کر دیں یا نشان لگادیں تاکہ ان کو کوئی شائع نہ کر دے۔ ①

۹..... آپ نے نئے مسائل میں امت کی رہنمائی کے لئے باضابطہ ”حوادث الفتاویٰ“ کے عنوان سے مسائل لکھے، جو آپ کے مجموعہ فتاویٰ میں جا بجا شامل ہیں۔

۱۰..... آپ کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ اپنی ذات و عمل سے متعلق کوئی مسئلہ پیش آتا تو احتیاط کی وجہ سے اپنے فتویٰ پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ اس سلسلہ میں دوسرے ارباب افتاء سے فتویٰ لے کر عمل کرتے تھے، اگر چہ وہ دوسرے آپ سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔

”امداد الفتاویٰ“ آپ کے بیش قیمت فتاویٰ کا مجموعہ ہے، اولاد ۱۳۲۵ھ تک کے فتاویٰ جمع کئے گئے تھے، جن میں دارالعلوم دیوبند، جامع العلوم کانپور اور تھانہ بھون، تینوں زمانوں کے فتاویٰ کو جمع کیا گیا تھا، ۱۳۲۵ھ کے بعد کے فتاویٰ ”تمہ امداد الفتاویٰ“ کے نام سے شائع

ہوتے رہے، مگر آپ کی وفات کے بعد ۱۳۷۱ھ میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے مولانا ظہور احمد رحمہ اللہ کے تعاون سے نئی ترتیب و تبویب کے ساتھ اسے چھ جلدوں میں مرتب کیا۔ آپ کے فتاوی اپنی گہرائی اور گیرائی کی وجہ سے ہندو پاک اور بنگلہ دیش بلکہ عالم اسلام کے تمام اردو دان علماء کے لئے مرجع و م�خذ کا درجہ رکھتے ہیں۔

حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے اس فتاوی کا نام ”امداد الفتاوی“ اپنے شیخ و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر بنی رحمہ اللہ کے نام پر رکھا (امداد الفتاوی: مقدمہ از مصنف ص ۱۶) اس فتاوی کے شروع میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ نے بارہ صفحات پر نہایت جامع انداز میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی سوانح لکھی ہے۔ امداد الفتاوی کی خصوصیات کے لئے دیکھیں: ①

ترتیب جدید، تبویب، تعلیق و تخریج کے ساتھ تین ہزار چار سو اڑتالیس (۳۲۳۸) فتاوی پر مشتمل یہ مجموعہ چھ جلدوں میں مکتبہ ”دارالعلوم“ کراچی سے شائع ہوا ہے۔

۸.....کفایت المفتی

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۲۷۱۳ھ) کا سب سے بڑا قلمی سرمایہ آپ کے گہر بار قلم سے لکھے گئے آپ کے فتاوی کا مجموعہ ہے، جس کو آپ کے فرزند اکبر مولانا حفیظ الرحمن واصف نے مرتب کیا ہے، اس کی کل نو (۹) جلدیں ہیں لیکن چونکہ ہمیشہ آپ کے فتاوی کی نقل محفوظ نہیں کی جاسکی اس لئے آپ کے تمام فتاوی اس مجموعہ میں نہیں آ سکے، یہاں تک کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی فتاوی نویسی کی پچھن سالہ زندگی میں سے زیادہ سے زیادہ چھیس سال کے فتاوی ہی کو جمع کیا جاسکا ہے، ورنہ نو (۹) جلدوں کی جگہ انیس (۱۹) جلدیں ہو سکتی تھیں، چنانچہ خود مرتب فتاوی لکھتے ہیں:

۱۳۱۶ھ مطابق ۱۸۹۸ء سے فتوی لکھنا شروع کیا اور ۱۳۲۱ھ مطابق ۱۹۰۳ء میں دہلی

.....

تشریف لائے، لیکن مدرسہ امینیہ میں نقول فتاوی کا سب سے پہلا رجسٹر بیع الاول ۱۳۵۲ھ سے شروع ہوتا ہے، یعنی چھتیس (۳۶) برس فتوی لکھنے کے بعد نقل فتاوی کا انتظام ہوا مگر یہ انتظام بھی ناکافی و ناقص تھا۔ مدرسہ کے رجسٹر میں آخری فتوی ۱۹۴۲ء کا ہے، اس کے بعد آپ کی وفات تک آٹھ برس کے زمانہ میں صرف چھپیں فتوی درج ہوئے۔ اندر اس فتاوی کے لئے کوئی مستقل محرب بھی نہیں رکھا گیا۔

آپ مدرسہ امینیہ کے ساتھ ”جمعیۃ علماء ہند“ کے دارالاوقاء کے بھی صدر مفتی تھے اور ”سہ روزہ الجمیعیۃ“ میں ”حوادث و احکام“ کے عنوان سے آپ کے فتاوی شائع ہوتے تھے، مگر ”الجمعیۃ“ کا ریکارڈ بھی مفتی اعظم کے تمام فقہی ذخیرہ کا حامل نہیں بن سکا۔

اس مجموعہ میں زندگی کے تقریباً ہر شعبے سے متعلق مفصل و مدلل فتاوی موجود ہیں، یہ چار ہزار پانچ سو دو (۲۵۰۲) فتاوی پر مشتمل ہے، اس فتاوی کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جواب عین سوال کے مطابق ہوتا ہے، جواب نہایت عام فہم ہوتا ہے، اس میں بے جا طوالت، فنی اصطلاحات اور پیچیدگیوں سے گریز کیا گیا ہے، اس فتاوی میں مسائل کا نام، تاریخ اور جگہ کی صراحةت ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سوال کس دور اور کس جگہ اور کن حالات میں کیا گیا۔ اس فتاوی میں بہت سے ایسے جدید مسائل کا ذکر ہے جو اس دور کے دیگر فتاوی میں نہیں ملتے۔ اس علمی و تحقیقی فتاوی پر تبویب، ترتیب جدید، تعلیق و تحقیق اور تخریج کی ضرورت باقی تھی، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی سرپرستی میں دارالاوقاء ”جامعہ فاروقیہ“ کراچی کے ارباب اوقاء نے نہایت عرق ریزی کے ساتھ اس فتاوی کی نئی تبویب اور تخریج و تعلیق کا کام کیا ہے، اس میں انہوں نے ہر تخریج طلب مسئلے کی تخریج کی ہے، جس میں امہات کتب کی طرف مراجعت کر کے مکمل عبارات نقل کی ہیں، ہر مسئلے کی تخریج میں کم از کم تین حوالے نقل کئے ہیں، ہندوستانی قدیم نسخوں کی طرف مراجعت کر کے عبارات کی تصحیح کی ہے، از سر نوبتوبی کا اہتمام کیا، اردو کے قلیل الاستعمال الفاظ اور ہندی، فارسی کے الفاظ کی بھی

وضاحت کی ہے، اس لئے یہ موجودہ نسخہ چودہ جلدیوں پر مشتمل نہایت ہی افادیت کا حامل ہے۔

۹.....امداد الاحکام

یہ فتاویٰ محقق العصر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۲ھ) اور حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب گمینہ مکملوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۶۸ھ) کے ہیں، یہ دو ہزار ایک سو کمتر (۲۱۷۱) فتاویٰ پر مشتمل ہے، جس میں پانچ سو ایک (۵۰۱) فتاویٰ مولانا مفتی عبدالکریم صاحب کے ہیں اور بقیہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے تحریر کردہ ہیں، بعض فتاویٰ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے تحریر فرمودہ ہیں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے فتاویٰ ۱۳۴۰ھ سے ۱۳۶۰ھ تک اشوال کے ہیں، اور مولانا مفتی عبدالکریم صاحب کے ۱۳۶۳ھ سے ۱۳۵۸ھ تک کی مدت میں لکھے گئے ہیں، یہ مجموعہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی زندگی کی ۱۸ سالہ محنت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موصوف کو علم حدیث اور رجال میں خوب تحریر عطا کیا تھا، اس کی زندہ وجاوید مثال "اعلاء السنن" ہے، اس میں آپ نے فقہ حنفی کے نقلی دلائل یعنی احادیث و آثار کی محدثانہ مباحثت کو نہایت تحقیق و تدقیق اور محنت شاقة کے ساتھ بیس سال کے عرصے میں جمع کیا، یہ ایسا علمی کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کی نظریہ چودہ سو سال کے عرصے میں نہیں ملتی، آپ کے اس محدثانہ ذوق کی جھلک فتاویٰ میں بھی نظر آتی ہے۔ آپ کے قلم سے لکھے ہوئے فتاویٰ میں احادیث کی مباحثت نہایت شرح و سط کے ساتھ محدثانہ اصول پر لکھی گئی ہیں، بعض فتاویٰ تو مستقل رسالوں کی صورت اختیار کر گئے ہیں، حضرت حکیم الامت کو آپ کے فتاویٰ پر مکمل اعتماد تھا، چنانچہ "تمہید امداد الفتاویٰ" میں آپ لکھتے ہیں:

برخوردار سلمہ (مولانا ظفر احمد صاحب) کے فتاویٰ پر مجھے تقریباً ایسا ہی اطمینان ہے جیسا کہ خود اپنے لکھے ہوئے فتاویٰ پر ہے۔ اسی لئے اس کا نام "امداد الاحکام ضمیمه امداد الفتاویٰ" تجویز کرتا ہوں، یہ فتاویٰ "امداد الفتاویٰ" کا تکملہ ہے۔

اس فتاویٰ میں عقائد، فرق باطلہ، اجتہاد و تقلید، علم تفسیر، حدیث، فقہ، سیر و مناقب،


طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح و طلاق اور دیگر اہم فقہی ابواب سے متعلق فتاوی ہیں۔ اس فتاوی میں بکثرت ایسے مسائل ہیں جن میں نہایت علمی و تحقیقی انداز میں گفتگو کی گئی ہے، اس میں جا بجا فقہی اصول و ضوابط اور اہم فقہی جزئیات کا ذکر ملتا ہے، بعض سوالات کے جوابات اس قدر مفصل تھے کہ وہ مستقل ایک رسالہ کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ اس میں بہت سے فتاوی وہ ہیں جن میں ”بہشتی زیور“ کی عبارات و مسائل پر ہونے والے اشکالات کے جوابات دیئے ہیں۔

یہ فتاویٰ حضرت مولانا مفتی رفع عنانی صاحب مدظلہ کے (۷۰) صفحات پر مشتمل نہایت علمی و تحقیقی مقدمہ کے ساتھ چار جلدوں میں مکتبہ ”دارالعلوم“ کراچی سے شائع ہوا ہے۔

۱۰..... امداد امامتین

مفتي اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۶ھ) آپ حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۷ھ) کے خصوصی شاگرد اور تربیت یافتہ تھے، مفتی صاحب کو آپ پر بڑا فخر اور اعتماد تھا، چنانچہ آپ کی تدریس کے آغاز ہی سے آپ کے استاذ بعض استفتاء آپ کے حوالے کر دیتے تھے اور جب ۱۳۲۲ھ میں مفتی عزیز الرحمن دارالعلوم سے مستعفی ہو گئے تو چند سال مولانا ریاض الدین وغیرہ مختلف علماء سے افتاء کی خدمت متعلق رہی، پھر ۱۳۲۹ھ میں حضرت مفتی شفیع صاحب کو دارالافتاء میں ”صدر مفتی“ کے جلیل القدر منصب پر فائز کیا گیا اور ۱۳۶۲ھ تک آپ نے اس عہدہ پر فائز رہ کر تقریباً چالیس ہزار فتاویٰ تحریر کئے۔

۵ ربیع الاول ۱۳۶۲ھ میں آپ دارالعلوم سے مستعفی ہو گئے لیکن عوام و خواص کے رجوع اور اپنے شیخ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ہدایت کی بناء پر افتاء کا سلسلہ جاری رکھا، تا ہم ۱۳۶۲ھ سے ۱۳۷۲ھ تک نو سالوں میں جو فتاویٰ آپ کے گہر بار قلم سے نکلے انہیں محفوظ نہیں کیا جاسکا، پھر ۱۳۷۱ھ (۱۹۵۲ء) میں آپ نے دارالعلوم کراچی کے شعبہ افتاء سے جو فتاویٰ لکھے ان کی نقل محفوظ کی گئی، جن کی تعداد ستر ہزار نو سو بارہ (۴۹۱۲) ہیں، ان ۱۹۵۹ء تک



کے علاوہ مقدمات کے فیصلے اور زبانی فیصلے اور زبانی فتووں کی تعداد بے شمار ہے۔

آپ نے جدید مسائل کو اجتماعی آراء سے حل کرنے کے لئے ایک مجلس بھی "مجلس تحقیق مسائل حاضرہ" کے نام سے قائم کی تھی، جس میں محدث العصر علامہ یوسف بنوری، فقیہ العصر مفتی رشید احمد رحمہما اللہ اور دارالعلوم کراچی اور شہر کے خاص خاص اہل علم شریک ہوتے تھے اور ہر ماہ اس مجلس کے تحت اجلاس منعقد ہوتے تھے اور پیش آمدہ مسائل کی اجتماعی طور پر تحقیق کی جاتی تھی۔

کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سب سے نمایاں اور سب سے غالب پہلو جس کا تسلسل کبھی ختم نہیں ہوا وہ خدمت افتاء ہی ہے، چنانچہ فراغت کے فوری بعد سے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک آپ نے اپنے کو اس کام میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کا سب سے آخری کام بھی فتوی نویسی ہی کا کام تھا، چنانچہ اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے قبل بھی آپ نے ایک استفتاء کا جواب لکھوایا تھا۔

آپ کے فقہی مقام کا اندازہ آپ کے فتاوی کو دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے، نیز عوام و خواص کا آپ کی طرف رجوع اور اکابر علماء کا آپ پر اعتماد بھی فقہ و فتاوی میں آپ کے عالی مقام کا پتہ دیتے ہیں، چنانچہ مفتی عظیم ہند مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ، محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تو آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ فتاوی نویسی میں آپ کا جو منیج اور طریقہ کا رہا اُسے درج ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے:

ا..... سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے تھے کہ استفتاء جواب دینے کے لائق ہے یا نہیں، کیوں کہ بسا اوقات فتوی حاصل کرنے کا مقصد عمل کرنا یا علم میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ مخالف کو زیر کرنا یا فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے، اس لئے آپ ایسے استفتاء کا جواب نہیں لکھتے تھے، بلکہ

نصیحت کر دیا کرتے تھے، چنانچہ ایک صاحب کا استفتاء آیا کہ فلاں امام صاحب فلاں فلاں آداب کا خیال نہیں رکھتے، کیا انہیں ایسا کرنا چاہئے؟ تو آپ نے جواب لکھا کہ یہ سوال تو خود امام صاحب کے پوچھنے کا ہے، انہیں کہئے کہ وہ تحریر ایاز بانی معلوم کر لیں۔

۲.....نظریاتی (غیر عملی) سوالات کی آپ حوصلہ شکنی کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ سے پوچھا گیا یہ کی مغفرت ہو گی یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا یہ یہ سے پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہئے۔

۳.....فتاوی لکھتے وقت آپ اس پہلو سے بھی بہت غور کرتے تھے کہ اس جواب کا نتیجہ کیا ہو گا، مثلاً کوئی مباح چیز ہے مگر اس سلسلہ میں کھلی چھوٹ دینے سے معصیت تک پہنچنے کا اندیشہ ہے، ایسے وقت میں فتوی کے بجائے مشورہ لکھا کرتے تھے کہ یہ عمل مناسب نہیں ہے، یا اس سے گریز کرنا چاہئے۔

۴.....فتاوی کی عبارت میں آپ نقیہ اصطلاحات سے بہت گریز کرتے تھے اور ایسا لکھتے تھے کہ فقہ کی شوکت اور نقیہ باریکیاں بھی برقرار رہیں اور عام لوگوں کے لئے سمجھنا بھی آسان ہو، مثلاً ترکہ کے مسئلہ میں عموماً جواب اس طرح لکھتے ہیں: مرحوم کا جملہ ترکہ بعد تقدیم حقوق متقدمہ علی الارث حسب ذیل طریقہ پر تقسیم ہو گا۔ اب جو شخص حقوق متقدمہ علی الارث سے واقف نہ ہو اور دین سے اس بے انتہائی کے دور میں انہیں اس کا مطلب بتانے والا بھی کوئی نہ ہو تو وہ ترکہ کس طرح تقسیم کریں گے؟ اس لئے آپ وراشت کے مسئلہ میں جواب اس طرح لکھتے ہیں:

صورت مسئولہ میں مرحوم نے جو کچھ نقدی، زیور، جائیداد، یا چھوٹا بڑا سامان چھوڑا ہو اس میں سے پہلے مرحوم کی تجهیز و تکفین کے متوسط اخراجات نکالے جائیں، پھر اگر مرحوم کے ذمہ قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے اور بیوی کا مہر اگر ابھی ادا نہیں ہوا ہو تو وہ بھی دین میں شامل ہے، اس کو ادا کیا جائے، پھر اگر مرحوم نے کوئی جائز وصیت کسی غیر وارث کے حق میں کی ہو تو

۱۳ کی حد تک اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اس کے بعد جو ترکہ بچے اسے حسب ذیل تفصیل کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

۵..... کسی مسئلہ کا جواب مفصل و مدلل لکھنا ہوتا آپ تمہید اور دلائل کے ساتھ فتوی نہیں لکھتے تھے بلکہ اصل مسئلہ کا مختصر اور سادہ حکم لکھتے تھے تاکہ طالب کا مقصد پہلے ہی جملہ سے پورا ہو جائے اور ایسا اختلاط نہ ہو کہ عام آدمی کے لئے مسئلہ سمجھنا مشکل ہو جائے، اس کے بعد دلائل وغیرہ کی تفصیل لکھتے تھے، تاکہ علماء اور دلائل معلوم کرنے والوں کو بصیرت حاصل ہو سکے۔

۶..... اگر سوال کرنے والے نے گذڑ کر کے مفصل استفتاء لکھا ہوا اور اس میں کچھ زائد باتیں بھی آگئی ہوں جن سے حکم پر کوئی اثر نہ پڑتا ہوتا آپ پہلے ان سوالات کا تجزیہ کر کے انہیں نمبر وار لکھتے تھے پھر ان کے جوابات بھی نمبر وار تحریر فرماتے تھے۔

۷..... کسی مسئلہ کی طرف آپ کا میلان ہوتا اور اکابر سے اس سلسلہ میں واضح رائے نہیں ملتی تو آپ تفردا ختیار کرنے اور اپنی الگ رائے لکھنے سے بہت گریز کرتے تھے اور اس سے آپ کو سخت نفرت تھی، چنانچہ ایسے سوالات کو موخر کر دیتے تھے اور کافی تلاش و جستجو کے بعد جب اکابر کی تائید حاصل ہو جاتی تب آپ اس کا جواب لکھتے تھے تاکہ الگ الگ لوگوں کی آراء کی وجہ سے امت انتشار کا شکار نہ ہو۔

مفتی صاحب کے فتوی نویسی میں خصوصی اندازو و ذوق کی تفصیل کے لئے دیکھئے: ①
 ”امداد لمفتین“، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے ۱۳۷۹ھ سے ۱۳۶۲ھ تک لکھے گئے فتاوی کا مجموعہ ہے، جو آپ نے دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی ہونے کی حیثیت سے لکھے تھے، آپ کے قلم سے جاری فتاوی کی تعداد تقریباً ڈیڑھ لاکھ ہے (عزیز الفتاوی: مقدمہ) جن میں سے یہ ایک حصہ ”امداد لمفتین“ کے نام سے شائع ہوا ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے فتاوی کا نام ”امداد الفتاوی“ تھا تو آپ نے اس مناسبت سے اس فتاوی کا نام ”امداد المفتیین“ رکھا، اسے آپ نے خود پہلے آٹھ مختصر جلدیں میں مرتب کیا تھا جو ”دارالاشاعت“ دیوبند سے شائع ہوئے تھے، لیکن اس وقت فتاوی میں تبویب و ترتیب نہ تھی، جس کی وجہ سے مسئلہ نکالنا کافی مشکل تھا، پاکستان ہجرت کے بعد حضرت نے ”عزیز الفتاوی“ اور ”امداد المفتیین“ دونوں کی علیحدہ علیحدہ تبویب و ترتیب کرائے کہ بہت سی اصلاحات کے بعد ۱۳۸۳ھ میں کراچی سے یہ عظیم الشان ذخیرہ دو جلدیں میں ”دارالاشاعت“ کراچی سے شائع ہوا، پہلی جلد میں ”عزیز الفتاوی“ اور دوسرا جلد میں ”امداد المفتیین“ ہے، چونکہ یہ دونوں فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھے گئے اس لئے آپ نے اپنی زندگی میں ان دونوں فتاوی کو ”فتاوی دارالعلوم دیوبند“ کے نام سے شائع کیا۔

۱۱.....فتاوی شیخ الاسلام

یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ (متوفی ۷۷۱ھ) سے مختلف اوقات میں پوچھے گئے استفشاء کے جواب کا مختصر مجموعہ ہے، جسے مولانا محمد سلمان منصور پوری صاحب نے مرتب کیا ہے، یہ فتاوی مختصر ہونے کے باوجود نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔

۱۲.....نظام الفتاوی

یہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین عظیم رحمہ اللہ کے ان فتاوی کا مجموعہ ہے جسے انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں مفتی اور صدر مفتی کی حیثیت سے لکھے تھے۔ آپ کے فتاوی میں احوال زمانہ کے پیدا شدہ مسائل میں تیسیر و سہولت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ یہ فتاوی ترتیب جدید اور مزید حوالہ جات کی تحقیق و تخریج کے ساتھ تین جلدیں میں ”اسلام فقہ اکیڈمی“ انڈیا سے شائع ہوئے ہیں۔

۱۳.....حسن الفتاوی

یہ فتاوی فقیہ اعصر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۲ھ) کے ہیں۔ فتاوی نولیسی کا کام آپ نے فراغت کے بعد ۱۳۶۲ھ سے ہی شروع کر دیا تھا، جب آپ ”مذہبۃ العلوم بھینڈو“ (صلع حیدر آباد، سندھ) میں مدرس تھے، لیکن یہاں دارالافتاء کی مکمل ذمہ داری آپ پر ۱۳۶۶ھ میں ڈالی گئی اور ۱۳۶۹ھ تک آپ بیک وقت شیخ الحدیث، صدر مدرس اور صدر مفتی رہے، پھر ۱۳۷۰ھ میں جب جامعہ دارالعلوم کراچی گئے تو وہاں اگرچہ آپ ”شیخ الحدیث“ رہے اور افتاء کی ذمہ داری باضابطہ آپ سے متعلق نہیں کی گئی، لیکن زیادہ اہم اور پیچیدہ مسائل سے متعلق استفتاءات آپ ہی کے سپرد کئے جاتے تھے، نیز ۱۳۸۱ھ میں جب دارالعلوم نے ”تخصص فی الفقه“ کا شعبہ شروع کیا تو اس میں مرbi کی حیثیت سے آپ ہی کا نام منتخب کیا گیا، پھر آپ نے ۱۳۸۳ھ سے ایک علیحدہ فقہی اور اصلاحی ادارہ ”دارالافتاء والا رشاد“ کی بنیاد ڈالی اور مستقل اس پلیٹ فارم سے آپ نے فقه و فتاوی کی خدمات انجام دیں۔

مفتی صاحب کے علمی و قلمی سرمایوں میں سب سے اہم سرمایہ آپ کے فتاوی کا مجموعہ ”حسن الفتاوی“ ہے، آپ کے فتاوی کی بڑی تعداد محفوظ نہیں کی جاسکی، جیسا کہ آپ کے حالات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ۱۳۶۲ھ سے ۱۳۷۰ھ تک فتاوی کی نقل رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا اور ۱۳۷۰ھ سے ۱۳۷۶ھ تک کل دو ہزار پچس (۲۰۲۵) فتاوی آپ نے تحریر کئے، مگر ان میں سے صرف چار سو کیاون (۴۵) فتاوی نقل ہو سکے۔ آپ کے ابتدائی دور کے فتاوی کا مجموعہ سب سے پہلے ۱۳۷۹ھ میں شائع ہوا تھا، ۱۳۸۳ھ سے جدید سلسلہ کا آغاز ہوا اور اب یہ مجموعہ نو (۹) حصیم جلدوں میں طبع شدہ ہے۔

حضرت مفتی صاحب نے مسائل پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے، اور ٹھوس دلائل کے ساتھ مفصل جواب لکھا کرتے تھے، آپ کے بہت سے فتاوی رسائل کی شکل اختیار کئے

ہوئے ہیں، جنہیں اس مجموعہ میں شامل کر لیا گیا ہے، آپ کے رسائل کی فہرست (احسن الفتاویٰ: ص ۱۸، ۱۹، ۵۶۹، پر ہے) اس میں سے اکثر رسائل ”احسن الفتاویٰ“ میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔

آپ کی ایک منفرد تحقیق ”إرشاد العابد إلى تحرير الأوقات و توجيه المساجد“ ہے، یہ دسویٹھارہ (۲۱۸) صفحات پر مشتمل ایک مفصل مقالہ ہے، جس میں اوقاتِ نماز کی تحریر اور سمتِ قبلہ کی تعین سے متعلق نہایت مفید معلومات و قواعد تحریر کئے گئے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کا انداز نہایت محققانہ تھا، تقریباً ہر فتویٰ باحوالہ ہے، جا بجا طویل عربی عبارات کے اقتباسات نقل کئے ہیں، اس فتاویٰ میں عقائد، توحید و سنت، بدعاں، رسومات اور فرقِ باطلہ سے متعلق استفتاءات کے تفصیلی جوابات ہیں۔ خصوصاً مسئلہ علم غیب، مسئلہ ختم نبوت، حقیقتِ شیعہ، فتنہ انکار حدیث، ایک مجلس میں تین طلاق یا ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقوں کی شرعی حیثیت، اور اس طرح کے دیگر اہم مسائل کی نہایت مفصل و مدلل انداز میں تحقیق کی ہے۔ فتویٰ نویسی میں ہر مفتی کا انداز و اسلوب جدا ہوتا ہے، اس لئے بعض مسائل میں اہل علم و افتاء کے لئے اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے:

کل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر.

۱۲.....فتاویٰ محمودیہ

فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۲۷ھ) کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، ۲۶ جمادی الاولی ۱۳۸۵ھ مطابق ۲۳ ستمبر ۱۹۶۵ء کو آپ نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی کی حیثیت سے افتاء کا آغاز کیا، آپ نے تقریباً دس ہزار استفتاء کے جوابات تحریر فرمائے ہیں، اس لئے بجا طور پر دنیا آپ کو ”فقیہ الامت“ کے لقب سے یاد کرتی ہے، آپ کے ان فتاویٰ کو مولانا فاروق صاحب نے مرتب کیا ہے، آپ کے اس فتاویٰ میں نو

ہزار آٹھ سو پچاسی (۹۸۸۵) استفتاء اور بارہ ہزار پانچ سو ستر (۱۲۵۷) مسائل ہیں۔ اردو فتاوی میں یہ نہایت خنیم اور مفصل ترین فتاوی کا مجموعہ ہے، اس میں تمام شعبہ ہائے زندگی سے متعلق فتاوی جات موجود ہیں، زیادہ تر فتاوی عقائد، رذب دعات، رسومات اور فرق باطلہ سے متعلق ہیں، اس میں جوابات عموماً مختصر اور عام فہم انداز میں دیئے گئے ہیں، اس علمی و تحقیقی مجموعہ پر ضرورت تھی کہ اسے تبویب، تعلیق و تخریج کے ساتھ جدید اسلوب کے مطابق طبع کروایا جائے، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی سرپرستی میں دارالافتاء ”جامعہ فاروقیہ“ کراچی کے ارباب افتاء نے نہایت عرق ریزی کے ساتھ اس فتاوی کوئی تبویب اور تخریج و تعلیق کے ساتھ شائع کیا ہے، ہر مسئلہ کی تخریج میں کم از کم تین حوالے نقل کئے ہیں، دارالافتاء کی طرف سے اس فتاوی پر کئے گئے کام کی تفصیلات کے لئے ”فتاوی محمودیہ“ پر کام کی نوعیت (فتاوی محمودیہ: ۱۶۶/۱۷۱) کا مطالعہ کریں۔

۱۵.....فتاوی رحیمیہ


یہ حضرت مولانا قاری مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاچپوری رحمہ اللہ کے فتاوی ہیں، اس فتاوی کے شروع میں کئی اکابر اہل علم کی تقریظات ہیں، یہ مجموعہ دو ہزار سات سو اٹھاون (۲۷۵۸) فتاوی پر مشتمل ہے۔ یہ فتاوی تحقیق و تدقیق کے اعتبار سے نہایت بلند پایہ ہیں، ان کا انداز محققانہ ہے، اس میں صرف فقہی کتب کے حوالے ہی نہیں بلکہ احادیث و آثار کا بھی بیش بہاذ خیرہ ہے۔ مسئلہ تقلید کے متعلق تفصیلی مباحث ذکر کی ہیں، غیر مقلدین کے اشکالات کے بحوالہ جوابات دیئے ہیں، حیات عیسی (علیہ السلام) کا تفصیلاً ذکر کیا ہے، بعض مسائل پر اس قدر تحقیق ذکر کی ہے کہ وہ رسالے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ ان کا انداز نہایت عام فہم اور سلیمانی ہے، اس کے مطالعہ سے ایک لذت و حلاوت اور روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے، جوابات نہایت تشفی بخش ہوتے ہیں، اس فتاوی میں حوالہ جات کا نہایت

اهتمام کیا ہے، اصل عبارات کو بالتفصیل درج کیا ہے، جوابات نہایت شرح و بسط کے محقق و مدلل دیئے گئے ہیں، مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دلائل نقلیہ و عقلیہ کی روشنی میں دیئے ہیں۔ اس فتاوی پر حضرت مولانا مفتی صالح محمد اول کاظمی شہید رحمہ اللہ نے نہایت عرق ریزی کے ساتھ ترتیب، تبویب اور تعلیق و تخریج کر کے اس کی افادیت بڑھادی ہے، یہ فتاوی ”دارالاشاعت“ کراچی سے پانچ جلدیوں میں طبع ہیں۔

۱۶.....فتاویٰ حقانیہ

یہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ سے جاری ہونے والے گرانقدر فتاوی پر مشتمل ہے، دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد ۱۹۷۷ء بمطابق ۱۳۶۶ھ کو رکھی گئی، اس کی ابتداء ایک چھوٹی سی مسجد سے ہوئی مگر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ ادارہ علوم و معارف کا گنجینہ بنے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ دارالعلوم حقانیہ کی تبلیغی، تعلیمی اور دینی خدمات کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے مہتمم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اسے ”دیوبندیانی“ کا خطاب دیا۔

یہ فتاویٰ چونکہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ کی نگرانی میں لکھے گئے اس لئے ان کو انہی کی طرف منسوب کیا گیا اور اس مجموعے کا نام ”فتاویٰ حقانیہ“ رکھا گیا۔ فتاویٰ کے استنبیناد کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ”دارالعلوم حقانیہ“ جیسے مستند ادارے سے شائع ہوئے ہیں۔ ماہنامہ ”الحق“ میں شائع ہونے والے بعض مفید مضامین اور مقالات بھی اس میں شامل کے گئے ہیں، اس کی ابتداء میں فقہی مباحث پر مشتمل ایک نہایت علمی و تحقیقی مقدمہ لکھا گیا ہے، اور ان تمام مفتیان کرام کا تعارف بھی پیش کیا گیا ہے جن کے تحریر کردہ فتاویٰ اس مجموعہ میں شامل کئے گئے ہیں، ادارے سے شائع شدہ فتاویٰ عموماً تفریقات اور شذوذ سے خالی ہوتے ہیں بخلاف شخصی فتاویٰ کے، اس کی جلد اول کا عموماً اور ”کتاب العقائد والا یمانیات“ کا خصوصاً ارباب فتاویٰ اور اہل علم کے لئے مطالعہ نہایت مفید ہے۔



۱۔۔۔ فتاوی بینات

یہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے ماہنامہ بینات میں چھپنے والے فتاوی اور فقہی مقالات کا وقیع علمی ذخیرہ ہے، اس کے مقدمہ میں محدث العصر علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ کے پانچ نہایت اہم اور تحقیقی مقالہ جات شامل ہیں:

۱..... عصر حاضر کا اہم تقاضا

۲..... جدید فقہی مسائل اور چند رہنماء اصول

۳..... عصر حاضر کے جدید مسائل کا حل

۴..... اجتہاد کے اصول و شرائط

۵..... اسلامی قوانین میں اجتہاد و عقل کا مقام

بعض مسائل اس قدر تحقیق و تدقیق کے ساتھ لکھے گئے ہیں کہ وہ رسالہ کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ اس فتاوی کے علمی استینیاد کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ملک کے مشہور و معروف ادارے کے محققین علماء کی علم و تحقیق کا گنجینہ ہے، اس میں کئی فتاوی و مقالات محقق العصر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کے تحقیقی قلم سے لکھے ہوئے ہیں، مثلاً بشریت انبیا علیہم السلام، تقدیم اور حق تقدیم، رفع الالتباس عن علی والعباس، قادیانی عقائد، نزول مسیح کا عقیدہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں، کافر، مرتد اور زندگی کے درمیان فرق، ڈارون کا نظریہ ارتقا، (۱۵۰) صفحات پر مشتمل مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مفصل و مدلل وضاحت۔ یہ فتاوی ترتیب و تحریج کے ساتھ چار جملوں میں، مکتبہ بینات جامعہ علوم اسلامیہ، بنوری ٹاؤن سے شائع ہوئے ہیں۔ جس طرح بینات میں چھپنے والے فتاوی اور مقالات یکجا ہو کر شائع ہو گئے ہیں اسی طرح اگر دارالافتاء سے جاری ہونے والے اگر تمام فتاوی تحقیق و تحریج کے ساتھ فقہی ترتیب پر یکجا ہو جائیں تو یہ اہل علم کے لئے ایک قیمتی سوغات ہو گا اور یہ کئی فتاوی سے فی الجملہ مستغنی کر دے گا، تحقیق و تدقیق سے لکھنے والوں کے لئے خصوصاً اور عوام الناس کے لئے عموماً مشعل راہ ہو گا۔

۱۸..... خیر الفتاوی

یہ فتاوی استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۰ھ) کے قائم کردہ ادارہ ”خیر المدارس“ کے دارالافتاء سے جاری کئے گئے فتاوی کا مجموعہ ہے، حضرت کی طرف نسبت کی وجہ سے اس مجموعہ کا نام ”خیر الفتاوی“ رکھا گیا، ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس میں ”جامعہ خیر المدارس“ ملتان کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، اور اس ادارے کے دارالافتاء سے شائع ہونے والے فتاوی میں اہل سنت والجماعت علمائے دیوبند کے مسلک کی افراط و تفریط سے ہٹ کر نہایت اعتدال کے ساتھ صحیح ترجمانی کی گئی ہے۔ اس فتاوی کے استینیاد کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھری، حضرت مولانا مفتی محمد عبد اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب، حضرت مولانا محمد صدیق صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب جیسے نامور مفتیانِ عظام کے فتاوی پر مشتمل ہے۔ اس کے شروع میں خیر المدارس کے ارباب افتاء کے نام سے ان مفتیان کرام کی مختصر سوانح درج ہے، اس کے بعد فقیہہ اعصر حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب کا نہایت علمی و تحقیقی مقدمہ ہے جو پینتیس (۳۵) صفحات پر مشتمل ہے۔ رقم کی رائے یہ ہے کہ اس کی پہلی جلد مطالعے کے لئے تخصص فی الفقه کے طلبہ کے نصاب میں شامل کرنی چاہئے، اس کی پہلی جلد کا خصوصاً اور مکمل فتاوی کا عموماً مطالعہ کرنا اہل علم کے لئے نہایت مفید ہے۔

۱۹..... فتاوی مفتی محمود

یہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۰۰ھ) کا مجموعہ ہے۔ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ اپنی آن گنت خصوصیات و امتیازات کی بناء پر اپنے زمانہ کی ان عبارتی شخصیات میں سے ہیں جن کی دینی، مذہبی، ملکی اور سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے

گا۔ آپ جہاں میدان سیاست کے شہسوار تھے، وہیں اپنے عہد کے بالغ نظر فقیہ و محدث بھی تھے، آپ نے پوری زندگی فقہ و حدیث کی خدمت میں بسر کی، آپ فقہی جزئیات پر گہری نظر رکھتے تھے، اور اس کے مراجع و منافع خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، آپ کے وسعت مطالعہ کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ شامی جیسی شخصیتیں کتاب کا بالاستیعاب دوبار مطالعہ کیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی اس علمی وسعت اور گہرائی کے علمائے عصر بھی معترف تھے، محدث عصر حضرت بنوری رحمہ اللہ حضرت مفتی صاحب سے فرمایا کرتے تھے: آپ کیوں اپنے آپ کو سیاست کے خاردار میدان میں ضائع کر رہے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب ۲۵ سال مسلسل ملک کے معروف دینی ادارے ”جامعہ قاسم العلوم“ ملتان کے ”صدر مفتی“ کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں، اس ۲۵ سالہ دور میں مختلف مسائل سے متعلق کم و بیش بائیس ہزار (۲۲۰۰) فتاویٰ جاری فرمائے۔ زیرِ نظر ”فتاویٰ مفتی محمود“، حضرت کے تحریر کردہ فتاویٰ کا مجموعہ ہے، اس میں بعض فتاویٰ وہ بھی ہیں جو دیگر مفتیان کرام کے تحریر کردہ ہیں اور ان پر حضرت مفتی صاحب کے تائیدی دستخط ہیں۔ فتاویٰ کا یہ مجموعہ ۹ جلدوں میں ”جمعیت پبلیکیشنز“ لاہور نے شائع کیا ہے۔

اس فتاویٰ کے شروع میں شیخ الشفییر والحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفر صاحب رحمہ اللہ، شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب مدظلہ کی تقاریظ ہیں، اس کے شروع میں حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب کا نہایت علمی مقدمہ ہے جو ایک سو پانچ (۱۰۵) صفحات پر مشتمل ہے۔ اگر اس فتاویٰ پر ”فتاویٰ محمودیہ“ اور ”کفایت المفتی“ کی طرح تعلیق و تخریج کر دی جائے تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔

۲۰..... آپ کے مسائل اور اُن کا حل

یہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کے فتاویٰ ہیں، اس کی ابتداء اس

طرح ہوئی کہ ۱۹۷۵ء میں ملک کے معروف اخبار روزنامہ ”جنگ“ کراچی کے مالکان نے اقراء کے نام سے اپنے اخبار میں اسلامی صفحے کا آغاز کیا، اس میں ایک کالم تھا ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“، اس میں تقریباً بیس سال تک آپ سوالات کے جوابات لکھتے رہے۔ آپ کے جوابات نہایت عام فہم اور عوامی انداز میں ہیں، چونکہ یہ جوابات اخبار میں چھپتے تھے جس کے قارئین زیادہ تر عوام ہوتے تھے، اس لئے آپ نے ان کی رعایت رکھتے ہوئے عامیانہ اور سلیمانی انداز میں جوابات دیئے ہیں، راجح فتویٰ نویسی کے انداز سے اجتناب کیا ہے۔ فرقہ باطلہ خصوصاً فتنہ قادریانیت کے متعلق آپ کے فتاویٰ نہایت علمی و تحقیقی ہیں۔ بعض فتاویٰ نہایت تفصیلی اور مدلل ہیں، الحمد للہ اب یہ پیش بہا خزانہ حضرت مولانا سعید احمد جلالپوری شہید رحمہ اللہ کی زیر سرپرستی تعلق و تحریج اور اضافات کے ساتھ ۸ صفحیں جلدیوں میں ”مکتبہ لدھیانوی“ کراچی سے شائع ہو گیا ہے۔

۲۱..... جواہر الفتاویٰ

حضرت مولانا مفتی عبد السلام چاٹگامی صاحب مدظلہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ ایک طویل عرصہ تک ”جامعہ بنوری ٹاؤن“ کراچی میں بحیثیت ”رئیس دارالافتاء“ خدمات انجام دیتے رہے، اور اب اپنے آبائی وطن بنگلہ دیش کے سب سے بڑے دینی ادارے ”دارالعلوم معین الاسلام، ہائل ہزاری چاٹگام“ میں بحیثیت استاذ الحدیث اور رئیس دارالافتاء، دینی خدمات سراجامدے رہے ہیں۔ زیرِ نظر ”جواہر الفتاویٰ“ آپ کے تحریر کردہ فتاویٰ کا مجموعہ ہے، ان فتاویٰ کا تعارف کرتے ہوئے سید انور علی (ایڈو کیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان) لکھتے ہیں:

جوہر الفتاویٰ میں مفتی صاحب کے صرف وہ فتاویٰ شامل ہیں جو انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں اہم موقع اور حالات میں جاری کئے، ان فتووں کی افادیت اور اہمیت اس سبب سے اور بھی زیادہ ہے کہ اس میں ان شبہات اور اعتراضات و مسائل کو بڑی خوبی اور سند کے

ساتھ زیر بحث لایا گیا ہے جو مغرب زدہ اسکالرز کی جانب سے موجودہ دور میں اٹھائے گئے ہیں، خاص طور پر انسانی اعضاء کی پیوند کاری، عورت کی شہادت، رجم، ٹبیث ٹیوب بے بی کی شرعی حیثیت، مجلس واحدہ میں تین طلاقوں، رجم کی سزا اور اس کا انکار، زکوٰۃ کے مسئلے میں بے شمار نئے قسم کے اعتراضات اور ان کے جوابات اور جھینگا کی حلت و حرمت وغیرہ وغیرہ۔

مندرجہ ذیل مسائل میں آپ کے فتاویٰ نہایت علمی، تحقیقی اور مدلل ہیں:

- ۱..... تملیک زکوٰۃ۔ ۲..... ہمارے جنگی قیدی اور نماز قصر۔ ۳..... طویل دن رات والے ممالک میں نمازوں کا حکم۔ ۴..... ٹبیث ٹیوب بے بی کی شرعی حیثیت۔
- ۵..... اسلام کے قانونِ شہادت میں خواتین کا مقام۔ ۶..... عورت کی سربراہی۔ ۷..... شیعہ اشناعشیریہ کے عقائد اور اہل علم کی آراء۔ ۸..... غائبانہ نماز جنازہ۔ ۹..... کرنی نوت کی شرعی حیثیت۔ ۱۰..... حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ۱۱..... رجم کی شرعی حیثیت اور اس کے منکرین کے نتائج۔ ۱۲..... مشاجرات صحابہ۔ ۱۳..... جھینگے کی حلت و حرمت۔
- ۱۴..... بشریت انبیاء۔ ۱۵..... سب شیخین، وغیرہ۔ فتاویٰ کا یہ مجموعہ چار جلدوں میں اسلامی کتب خانہ بنوری ٹاؤن کراچی سے شائع ہوا ہے۔

۲۳..... فتاویٰ فرنگی محلی

فرنگی محلی اپنے علمی و فقہی کاموں کی وجہ سے ایک مشہور خانوادہ رہا ہے۔ ایک طویل عرصے سے یہاں دارالافتاء قائم ہے، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد عبد القادر (متوفی ۱۳۷۹ھ) کئی سالوں تک مصنب افتاء پر فائز رہے، ان کے فتاویٰ کو ”فتاویٰ فرنگی محلی“ موسوم بہ ”فتاویٰ قادریہ“ کے نام سے مفتی محمد رضا انصاری نے مرتب کیا ہے، یہ مجموعہ ۲۳۶ صفحات پر مشتمل ہے۔

۲۴..... فتاویٰ احیاء العلوم

یہ حضرت مولانا مفتی محمد یاسین مبارکپوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۰۳ھ) کے ان فتاویٰ کا

منتخب مجموعہ ہے جوانہوں نے مدرسہ "احیاء العلوم" مبارکپور کی تدریس کے زمانہ میں لکھے تھے۔ یہ فتاوی بہت ہی اہم اور مدلل ہیں۔ ۲۷۵ فتاوی پر مشتمل یہ مجموعہ "جامعہ احیاء العلوم" مبارکپور دہلی سے شائع ہوا ہے۔

۲۳.....فتاوی قاضی

یہ حضرت مولانا قاضی مجاهد الاسلام القاسمی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۳۰ھ) کے فتاوی ہیں۔ حضرت مولانا قاضی مجاهد الاسلام القاسمی رحمہ اللہ کی ذاتِ گرامی علمی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، جدید فقہی مسائل و معاملات پر آپ کی گہری نظر تھی، اور ان کے حل کے لئے بیش بہادر خدمات انجام دیں۔ آپ نے کم و بیش چالیس سال امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ اور جھاڑکنڈ میں قضا کا فریضہ انجام دیا، اس کے علاوہ آپ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے باñی اور آل انڈیا مسلم پرنسپل لاء بورڈ کے صدر بھی تھے۔

حضرت قاضی صاحب نے قضا کے ساتھ ساتھ فتوی نویسی کا مشغله بھی اختیار کیا، آپ کے تحریر کردہ فتاوی کی تعداد تو زیادہ ہے، لیکن جو فتاوی محفوظ و میسر آئے وہ صرف ۱۲۰ ہیں۔ فتاوی قاضی میں قاضی صاحب کے انہی فتاوی کو جمع کیا گیا ہے، ترتیب و حواشی کے فرائض مولانا امتیاز احمد قاسمی صاحب نے نہجائز ہیں، اور "ایفا پبلیکیشنز" نئی دہلی انڈیا نے ۲۳۵ صفحات میں اسے شائع کیا ہے۔

یہاں یہ وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ قاضی صاحب کی نظر و سیع تھی اور وہ زمانہ کے حالات پر گہری نگاہ رکھتے تھے، اس لئے شریعت کے اصول و مقاصد (جو فقہاء نے متعین و مقرر کئے ہیں) کو پیش نظر رکھ کر ایک رائے قائم کرتے تھے، جس کی بناء پر بعض مسائل میں ان کا قول اور فتوی جمہور کی رائے کے موافق نہیں، اس لئے بعض مسائل میں اختلاف رائے ممکن ہے، ایسے فتاوی کی تعداد کم ہے۔

۲۵.....فتاویٰ فریدیہ

یہ فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمہ اللہ کے فتاویٰ ہیں، ۱۳۸۶ھ میں آپ کی آمد ”جامعہ دارالعلوم حفانیہ“ میں ہوئی، مفتی صاحب دارالعلوم حفانیہ کے روح رواں تھے، یہی وجہ تھی آپ بیک وقت دارالعلوم حفانیہ کے شیخ الحدیث، صدر المدرسین اور مفتی اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کی مکمل زندگی کے فتاویٰ کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ تک ہے۔ آپ کے اس فتاویٰ کی حسن ترتیب و تبویب، تعلیق و تخریج حضرت مولانا مفتی محمد وہاب منگلوری صاحب نے نہایت عرق ریزی اور محنت شاقہ کے ساتھ کی ہے، جس سے فتاویٰ کی افادیت مزید بڑھ گئی ہے، فتاویٰ کے شروع میں اصول افتاء سے متعلق عربی میں ”البشری لأرباب الفتوى“ کے نام سے مصنف کا ایک قیمتی رسالہ بھی چھپا ہوا ہے، موصوف کے صاحبزادے نے آپ کی سوانح اور تصنیفات کا بھی تذکرہ کیا ہے، یہ فتاویٰ ۵ جلدیں میں ”دارالعلوم صدیقیہ“، صوابی سے شائع ہوئے ہیں۔

۲۶.....فتاویٰ دارالعلوم کراچی (امدادالسائلین)

یہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفع عثمانی صاحب مدظلہ کے ان فتاویٰ کا مجموعہ ہے جو حضرت نے شوال ۱۳۸۰ھ مطابق مارچ ۱۹۶۱ء سے اب تک تحریر فرمائے ہیں، حضرت کے یہ فتاویٰ ”جامعہ دارالعلوم“، کراچی کے نقل فتاویٰ کے تقریباً (۱۰۰۰) رجistroں میں منتشر تھے، جنہیں حضرت مولانا سلطان محمود صاحب نے نہایت محنت، لگن اور عرق ریزی کے ساتھ جمع کر کے تعلیق و تخریج کے کام کا آغاز کیا، پھر اس کام کو مولانا اعجاز احمد صدیقی اور مولانا طاہر اقبال صاحب نے ترتیب جدید اور مزید تعلیق و تخریج کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس فتاویٰ کا نام ”امدادالسائلین“ ہے، اس سے پہلے ”امدادالفتاویٰ، امدادالاحدام، امدادالمفتین“،

چھپ چکے ہیں، ان میں ”امداد“ کے لغوی معنی کے ساتھ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمہ اللہ کی طرف انتساب ہے، تو اس چوتھے مجموعے میں بھی اس کی رعایت رکھی گئی ہے۔ یہ ایمان، عقائد، تفسیر، علم، تاریخ، سیر، مناقب، تصوف، ذکر اور دعا سے متعلق فتاوی پر مشتمل ہے۔ یہ حضرت کے پچاس سالہ خودنوشت فتاوی کا مجموعہ ہے، ان میں اکثر فتاوی پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے بھی دستخط ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے ”پیش لفظ“ کے تحت اس فتاوی کا تعارف کروایا ہے۔ فتاوی کے شروع میں حضرت مولانا اعجاز احمد صمدانی صاحب کا مقدمہ ہے جس میں انہوں نے صلیب فتاوی کے مختصر حالاتِ زندگی تحریر کئے ہیں۔ فتاوی کی یہ پہلی جلد ”ادارة المعارف“، کراچی سے شائع ہوئی ہے۔

۲۷.....فتاوی عثمانی

یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ کے ۲۵ سالہ خودنوشت فتاوی کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل اور تقوی و طہارت کے جس بلند مقام سے نوازا ہے عصر حاضر میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے، جدید و قدیم دونوں علوم میں آپ کو مہارتِ تامة ہے، دیگر علوم و فنون کی طرح حدیث، فقہ اور فتوی کے میدان میں بھی آپ کی خدمات نمایاں ہیں، اس سلسلے میں ”تکملة فتح الملهم“، کی فقہی مباحث ”بحوث فی قضایا فقهیۃ معاصرۃ، اصول الافتاء و آدابہ، فقه البیویع، احکام الأوراق النقدیۃ، فقه البیویع، احکام الذبائح“، فقہی مقالات، عدالتی فصلے، ملکیت زمین کی تحدید وغیرہ جدید مسائل اور معاشیات میں آپ کا شمار چندگنی چنی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ کے فتوی لکھنے کا آغاز سولہ سال کی عمر سے ہوا ہے جواب تک بفضل اللہ جاری ہے۔ آپ کے علمی، تحقیقی اور مدلل فتاوی اب تک پرده خفا میں تھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا مفتی محمد زیر حق نواز صاحب مدظلہ کو جنہوں نے نہایت عرق ریزی اور

محنت شاقد کے ساتھ چالیس سال قبل کے بوسیدہ رجسٹروں سے فتاویٰ کو نہایت احتیاط کے ساتھ جمع کر کے انہیں فقہی ایواب کی ترتیب پر مرتب کیا، پھر تعلیق و تحریک اور حوالہ جات کے ساتھ اس کی افادیت کو چار چاند لگادیئے، یہ فتاویٰ حضرت شیخ الاسلام صاحب مذکور کے پیش لفظ کے ساتھ تین جلدیوں میں ”مکتبہ معارف القرآن“ سے شائع ہو گئے ہیں۔

۲۸.....فتاویٰ دارالعلوم زکریا

افادات حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب مذکور، جس وقت دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا کس کے وہم و گمان میں تھا کہ بے سروسامانی کے عالم میں شروع کیا جانے والا یہ ادارہ دنیا کا ایک عظیم الشان علمی ادارہ بنے گا اور اس کی شاخیں دنیا کے چھے چھے میں پھیل جائیں گی، لیکن یہ دارالعلوم دیوبند کے بانیین کے اخلاص کا اثر تھا کہ آج دارالعلوم دیوبند کا فیض ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی شاخوں میں سے ایک شاخ جنوبی افریقہ میں قائم ”دارالعلوم زکریا“ بھی ہے، عوام الناس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دارالعلوم زکریا میں ”دارالافتاء“ قائم کیا گیا، جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں عوام الناس کی راہنمائی کے لئے فتاویٰ جاری ہوئے۔

فتاویٰ دارالعلوم زکریا اسی ادارے سے جاری ہونے والے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، جو مفتی رضا الحق صاحب مذکور کے افادات پر مشتمل ہے، حضرت مفتی صاحب گزشتہ ۲۵ سال سے دارالعلوم زکریا میں فتویٰ نویسی میں مشغول ہیں، اس سے قبل آپ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالافتاء کے ساتھ وابستہ تھے۔

زیرنظر مجموعہ آپ کے ان فتاویٰ پر مشتمل ہے جو آپ نے دارالعلوم زکریا میں خود لکھے، نیزوہ فتاویٰ جو آپ کی نگرانی میں تخصص فی الفقه والافتاء کے طلبہ نے لکھے، وہ بھی اس مجموعہ میں شامل ہیں، ارباب فتاویٰ اور اہل علم سے گزارش ہے کہ ”كتاب الإيمان والعقائد“ کے تحت تمام فتاویٰ کا مطالعہ ایک دفعہ ضرور کریں، تحقیق و تدقیق کے حوالے سے یہ فتاویٰ

لا جواب ہیں۔ فقہی ذوق و بصیرت، وسعت مطالعہ، نادر معلومات اور محققانہ اسلوب و نگارش کے لئے اس کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ فتاویٰ کے اس مجموعہ کو مفتی عبدالباری اور مولانا محمد الیاس شیخ نے مرتب کیا ہے، اور ”زمزم پبلشرز“، کراچی نے ۶ جلدوں میں شائع کیا ہے۔ مطالعہ کے دوران یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ فتاویٰ افریقہ جیسے ملک میں لکھے گئے ہیں، جہاں دینی اداروں میں ہر مسلم و مذہب کے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہر مسلم و مذہب کے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لئے دارالافتاؤں سے رجوع کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس مجموعہ کے اندر بھی چند فتاویٰ شامل ہیں جو فقہ شافعی کے مطابق ہیں، لہذا دورانِ مطالعہ اس بات کو خصوصاً پیش نظر رکھا جائے۔

۲۹..... ثمینۃ الفتاوی

مولانا محمد یعقوب صاحب شروعی دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدñی رحمہ اللہ کے تلمیز ہیں، دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کے سالانہ امتحان میں ممتاز نمبروں کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی، فراغت کے بعد درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور فتویٰ نویسی کو اپنا مشغله بنایا، تفسیر و فقہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص ذوق عطا فرمایا ہے، جس کا واضح ثبوت آٹھ جلدوں میں آپ کی تفسیر ”کشف القرآن“ ہے۔

ثمینۃ الفتاویٰ آپ کے تحریر کردہ فتاویٰ کا مجموعہ ہے، جو آپ نے مختلف موقع پر تحریر فرمائے، یہ مجموعہ دو جلدوں میں ہے، پہلی جلد ”ثمینۃ الفتاویٰ“ کے نام سے موسوم ہے، جس میں تمام فتاویٰ آپ کے تحریر کردہ ہیں، جب کہ جلد ثانی ”حسینۃ الفتاویٰ“ کے نام سے موسوم ہے، جس میں متخصصین فی الفقہ کے تحریر کردہ فتاویٰ ہیں، جن کی حضرت نے تصدیق و تصویب فرمائی ہے، فتاویٰ کا یہ مجموعہ ”مکتبہ رسیدیہ“ کوئٹہ سے شائع ہوا ہے۔

۳۰.....فتاوی حبیبیہ

مفتی حبیب اللہ صاحب مظاہری، مظاہر العلوم سہارنپور کے فاضل ہیں، فتوی نویسی کی تربیت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی زیر نگرانی حاصل کی، فراغت کے بعد درس و تدریس اور فتوی نویسی کی راہ اپنائی، فتاوی حبیبیہ آپ کے باقاعدہ فتاوی کا مجموعہ نہیں بلکہ بعض احباب کی فرماش پر آپ نے اہم مسائل کو سوال و جواب کی صورت میں مرتب کر دیا۔ یہ فتاوی ”جامعہ خلیلیہ“ موسی کالونی کراچی سے شائع ہوا ہے۔

۳۱.....وحید الفتاوی

فتاوی کا یہ مجموعہ بنوری ٹاؤن کراچی کے فاضل و مختص مفتی عبدالماجد خان صاحب کا تحریر کردہ ہے، اس مجموعہ میں فاضل مؤلف نے اپنے زمانہ طالب علمی میں مختص کے دو سالوں میں جو فتاوی لکھے تھے انہیں جمع کیا ہے، ان تمام فتاوی کی تصدیق و تصویب مفتی عبد السلام چانگامی صاحب اور مفتی نظام الدین شاہزادی شہید رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، (۳۲۶)

صفحات پر مشتمل یہ فتاوی ”زمزم پبلیشرز“ کراچی سے شائع ہوا ہے۔

۳۲.....کتاب الفتاوی

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظلہ کا شمار دور حاضر کے جامع الاصاف اور جید علمائے کرام میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے، خصوصاً تحریر تو آپ کا طرہ امتیاز ہے، جس کامنہ بولتا ثبوت آپ کی وہ تصنیفات ہیں جو زیور طباعت سے آ راستہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تصنیف و تالیف کے علاوہ آپ ہندوستان کے مشہور اخبار منصف میں کالم نگاری بھی کرتے ہیں اور اسی اخبار کے جمعہ ایڈیشن ”مینارہ نور“ میں آپ کے شرعی مسائل کے عنوان سے لوگوں کے دینی مسائل کا حل

اور جوابات بھی تحریر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا رحمانی صاحب نے مختلف اداروں میں رہ کر فتویٰ نویسی کی خدمت سرانجام دی، جن میں جامعہ روحانی مونگیر، امارت شرعیہ پھلواری پٹنہ، دارالعلوم سبیل السلام جیسے ماہینہ ناز ادارے شامل ہیں، پیش نظر مجموعہ جو چھ جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں پانچ طرح کے فتاویٰ شامل ہیں:

۱..... وہ فتاویٰ جو امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش سے دیئے گئے۔

۲..... معهد العالی الاسلامی حیدر آباد کے دارالافتاء سے جاری ہونے والے فتاویٰ۔

۳..... وہ استفتاء جو حضرت مولانا کے پاس شخصی طور پر آئے اور انہیں محفوظ کر لیا گیا۔

۴..... ماہانہ "افکار ملی" دہلی میں لکھے جانے والے شرعی مسائل۔

۵..... روزنامہ "منصف" حیدر آباد کے جماعت ایڈیشن "مینارہ نور" میں لکھے گئے شرعی مسائل (جو ۱۹۹۹ء تا ۲۰۰۵ء جاری رہے) اس مجموعہ میں مؤخر الذکر سلسلے کے فتاویٰ کی تعداد زیادہ ہے۔

فتاویٰ کے اس مجموعہ کی ترتیب و تخریج کے فرائض مفتی عبد اللہ سلیمان مظاہری نے سرانجام دیئے ہیں اور "زمزم پبلیشورز" اردو بازار کراچی نے اسے شائع کیا ہے۔

۳۳..... فتاویٰ ختم نبوت

ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، جس کا انکار کر کے کوئی شخص مؤمن و مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں، ہر دور اور زمانہ میں منکرِ ختم نبوت اور نبوت کے داعی پیدا ہوتے رہے ہیں، جن کے سد باب کے لئے علماء کی ایک جماعت ہر دور میں مدد مقابل رہی ہے اور انہوں نے اس جیسے فتنوں کا قلع قلع کیا ہے۔ ہمارے اس دور میں مرزا قادیانی اور اس کی ہم نواجamaat نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا اور مرزا قادیانی کو اپنا نبی و پیغمبر مانا، جس پر علمائے امت نے اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے تن من کی بازی لگادی اور مرزا قادیانی اور اس کے ہم

نواؤں کو کافر قرار دے کر ہی دم لیا۔ اس موقع پر علمائے اہل حق نے جس پلیٹ فورم سے صدائے حق بلند کی اسے ”عالیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت“ کے نام سے موسوم کیا گیا، اس پلیٹ فورم سے تحریر و تقریر ہر دو ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اس فتنہ کی سر کوبی کی گئی۔ زیر نظر فتاوی بھی اسی تحریک کا حصہ ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت کے منکرین (قادیانیوں) کے متعلق علماء و مفتیان کرام کے فتاوی کو جمع کیا گیا ہے۔

فتاوی کا یہ مجموعہ تین جلدوں پر مشتمل ہے، جلد اول میں تقریباً تمیں متداول فتاوی جات سے قادیانیوں سے متعلق ہزاروں فتاوی کو جمع کیا گیا ہے، جلد ثانی اور جلد ثالث میں قادیانیوں کے خلاف لکھے گئے ان تفصیلی فتاوی کو جمع کیا گیا ہے جو مختلف ادوار میں رسائل کی صورت میں شائع ہوئے ہیں، جلد ثانی میں ۲۱ رسائل جبکہ جلد ثالث میں ۲۳ رسائل ہیں۔

ان فتاوی کو حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے، جبکہ تحقیق و تحریج کے فرائض علمائے کرام کی ایک جماعت نے سرانجام دیئے ہیں، عالیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان نے اسے شائع کیا ہے۔

۳۲..... مرغوب الفتاوی

مولانا مفتی مرغوب احمد لاچپوری رحمہ اللہ (متوفی ۷۷۸ھ) وسیع النظر باعمل فقیہ تھے، قرآن و حدیث پر آپ کی گہری نظر تھی، اس لئے آپ کے فتاوی نہایت مدلل اور فقہی بصیرت کے حامل ہیں۔ آپ کے فتاوی کی یہ نقول ”سورتی جامع مسجد“ رنگوں میں محفوظ تھی، آپ کے پوتے مولانا مرغوب احمد صاحب نے ان فتاوی کو ترتیب و تحقیق کے ساتھ چھ جلدوں میں شائع کیا۔

۳۵..... فتاوی ندوۃ العلماء

یہ دارالافتاء ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مفتیان کی طرف سے لکھے گئے فتاوی کا مجموعہ ہے،

اس فتاوی میں ۱۴۱۱ھ سے لکھے گئے فتاوی کو شامل کیا گیا ہے، یہ نہایت علمی و تحقیقی فتاوی ہیں، لیکن اب تک اس کی صرف ایک جلد طبع ہے جو (۸۷۸) فتاوی پر مشتمل ہے۔

۳۶.....حبیب الفتاوی

یہ مولانا مفتی حبیب اللہ قاسمی صاحب کے دارالافتاء جامعہ اسلامیہ، اعظم گڑھ یوپی سے جاری شدہ فتاوی کا مجموعہ ہے، اس میں جدید مسائل کی بھرپور تحقیق کی گئی ہے، اب تک اس کی چھ جلدیں ”جامعہ اسلامی یوپی“ سے شائع ہو چکی ہیں۔

۳۷.....فتاوی احیاء العلوم

یہ حضرت مولانا مفتی محمد یاسین مبارکپوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۰۳ھ) کے ان فتاوی کا منتخب مجموعہ ہے جو انہوں نے مدرسہ احیاء العلوم مبارکپور کی تدریس کے زمانے میں لکھے تھے، اس فتاوی کی اب تک صرف پہلی جلد طبع ہے جو (۲۷۵) مسائل پر مشتمل ہے، یہ فتوی ”احیاء العلوم مبارکپور“ سے طبع ہے۔

۳۸.....فتاوی باقیات صالحات

یہ حضرت مولانا عبد الوہاب دیلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۳۳ھ) کے ان فتاوی کا مجموعہ ہے جو انہوں نے مدرسہ ”باقیات صالحات“ کے دارالافتاء سے جاری کئے تھے، (۳۹۰) مسائل پر مشتمل یہ فتوی (۲۱۲) صفحات پر اسی مدرسہ سے طبع ہوا ہے، مدرسہ کے نام پر اس فتوی کا نام رکھا گیا ہے۔

۳۹.....فتاوی مفتی سیاح الدین کا خیل

یہ حضرت مولانا مفتی سیاح الدین بن حافظ سعد گل رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۰۷ھ) کے فتاوی کا مجموعہ ہے، یہ مجموعہ دو سو ساٹھ (۲۶۰) فتاوی پر مشتمل ہے، ان فتاوی کے مرتب مولانا عبد

الملک صاحب ہے، اس فتاوی میں تفسیر، نماز، نکاح، طلاق، مضاربہ، اجارہ، وکالہ، مزارعہ، میراث اور حضر واباحت سے متعلق فتاوی موجود ہیں۔ اس فتاوی میں عموماً جوابات نقل و عقل کی روشنی میں دینے گئے ہیں، بعض فتاوی جات نہایت مفصل و مدلل ہیں، جیسے ”مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن“، ” بلا سود بینکاری“ اور ”اسلامی قانون شہادت میں عورت کی گواہی“، غیرہ۔ دو جلدیں پر مشتمل فتاوی کا یہ مجموعہ ”ادارة المعارف اسلامیہ“ لاہور سے طبع ہے۔

۳۰.....فتاوی امارت شرعیہ

اس فتاوی کی پہلی جلد امارت شرعیہ کے باñی مولانا محمد سجاد رحمہ اللہ کے فتاوی پر مشتمل ہے، اور دوسری جلد حضرت مفتی محمد عباس پھلواری، قاضی نور الحسن پھلواری، مولانا عبد الصمد رحمانی اور مولانا سید محمد عثمان غنی کے فتاوی پر مشتمل ہے، اس فتاوی کی اب تک دو جلدیں طبع ہوئی ہیں۔

۳۱..... منتخبات نظام الفتاوی

یہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین عظیمی رحمہ اللہ کے فتاوی میں سے ان فتاوی کا انتخاب ہے جو جدید مسائل سے متعلق ہیں، یہ انتخاب حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے کیا ہے، یہ مجموعہ ”اسلامک فقہہ اکیڈمی“، انڈیا کے ارکین نے تبویب اور ترتیب جدید کے ساتھ مرتب کیا ہے، اس کی دو جلدیں طبع ہوئی ہیں اور مزید دو جلدیں پر کام جاری ہے۔

۳۲..... دینی مسائل اور ان کا حل

یہ حضرت مفتی محمد سلطان منصور پوری کے ان فتاوی کا مجموعہ ہے جو انہوں نے شہر مراد آباد کے ایک ماہنامہ ”تحفہ خواتین“ کے ذریعہ آنے والے سوالات کے جواب میں لکھے ہیں، اس مجموعہ میں کل دو سو سات (۷۰۷) فتاوی ہیں، یہ مجموعہ ایک جلد میں ہے۔

۳۳..... سیم فتاوی

جامعہ یاسین القرآن کراچی کا شمار ملک کے ممتاز دینی اداروں میں ہوتا ہے، اس کے

مہتمم شیخ الحدیث مفتی نجم الحسن امر وہی صاحب ہیں، جن کا شمار ملک کے نامور علماء میں ہوتا ہے، آپ جامعہ کے مہتمم ہونے کے ساتھ ساتھ دارالافتاء کے نگران و رئیس بھی ہیں، اس کے شروع میں آپ کا مقدمہ ہے، اس کی پہلی جلد ایمان و عقائد کے مختلف شعبوں سے متعلق تقریباً پانچ سو اہم فتاوی جات پر مشتمل ہے، اس میں موجود فتاوی تحقیق و تدقیق کے اعتبار سے نہایت مفید ہیں، فتاوی کا یہ ایک مکمل مجموعہ ہے، اس میں زندگی کے تقریباً ہر شعبے سے متعلق مختصر و مفصل فتاوی موجود ہیں۔ اکثر فتاوی مختصر مگر مدلل ہیں، زبان سہل و آسان ہے، حوالہ جات اور دلائل بقدر ضرورت ذکر کئے ہیں۔ یہ فتاوی چھ جلدوں میں طبع ہے۔

۳۳.....فتاوی عباد الرحمن

یہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن ملا خیل صاحب کے زیر سرپرستی دارالافتاء والتحقیق سے صادر ہونے والے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ ایک سال کے دوران اس مرکز میں زیر تربیت درس نظامی کے فضلاء نے تخصص فی الافتاء میں تدریب کے طور پر تحریر کئے۔ یہ فتاوی ۱۴۲۶ھ کے تخصص فی الفقه کے طلبہ کے تحریر کردہ ہیں۔ ہر فتوی متعدد فتحی حوالہ جات سے مزین ہے۔ یہ علمی و تحقیقی فتاوی جات پانچ جلدوں میں ”دارالافتاء والتحقیق ابو بکر صدیق مسجد“ ڈی ایچ اے کراچی سے شائع ہوئے ہیں۔

۳۴.....آپ کے مسائل کا حل

یہ حضرت مولانا مفتی محمد دارالافتاء والرشاد ناظم آباد کراچی کے فتاوی ہیں، یہ معروف اخبار ”ضربِ مؤمن“ کے کالم ”آپ کے مسائل کا حل“ میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہیں۔ جلد اول ”کتاب الإیمان والعقائد، باب الفرق المختلفة، باب المعاملة مع الكفرة والضالة، کتاب العلم، باب البدعات والرسوم، باب

الأوهام والتخيل، كتاب القرآن والحديث، كتاب العلم، كتاب الأذكار والأدعية والتعاويذ، پر مشتمل ہے۔ یہ فتاوی نہایت علمی و تحقیقی ہیں۔ فتاوی اپنے استینیاد کی وجہ سے علماء و عوام دونوں کے لئے یکساں مفید ہیں۔ حضرت مولانا محمد عامر صاحب کی تخریج تعلیق کی وجہ سے فتاوی کی افادیت مزید بڑھ گئی ہے۔ ۳۴۰ صفحات پر مشتمل فتاوی کی یہ پہلی جلد ”كتاب گھر“، ناظم آباد کراچی سے شائع ہوئی ہے۔

۳۶.....فتاوی عثمانیہ

یہ شیخ الحدیث و رئیس دارالافتاء حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب مدظلہ کی زیر پرستی میں دارالافتاء ”جامعہ عثمانیہ“ پشاور سے جاری شدہ فتاوی کا مجموعہ ہے، یہ مجموعہ تین ہزار چار سو تریپن (۳۸۵۳) فتاوی پر مشتمل ہے، اس فتاوی کے استینیاد کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کے شروع میں پاک و ہند کے نامور علماء کی تائیدات و تقریظات موجود ہیں۔ اس فتاوی کی چند اہم خصوصیات اسلوب اور طرز و انداز درج ذیل ہے:
 ۱.....فتاوی کو مناظر انداز بیان اور مجادلانہ تنخاطب سے محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ کسی کی بے جا تقید اور الجھن کا باعث نہ بنے۔
 ۲.....ہر باب کی ابتداء میں جامع تمہیدی بحث فتاوی کی امتیازی خوبی ہے، جس میں پورے باب کے اہم مسائل کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

۳.....فتاوی کے عنوان میں جامعیت، جاذبیت اور معنویت کی رعایت کے ساتھ نفی یا اثبات کی طرف میلان نہیں بلکہ عنوان لا بشرطی کے درجے میں ہے۔
 ۴.....سوال کے ساتھ مستفتی کا نام نہیں لکھا گیا ہے۔
 ۵.....ہر جلد کے سوالات کو مستقل نمبر دیا گیا ہے۔

۶..... بالکل اختصار کے ساتھ صرف ہاں یا نہیں میں کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہر جواب کے لئے ایک مناسب تمہید رکھی گئی ہے اور پھر جواب خوب وضاحت کے ساتھ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

۷..... اسلوب میں روانگی اور عام فہم ہونے کا لحاظ رکھا گیا ہے، ایسی ادبیت اختیار نہیں کی گئی ہے جس سے جواب تک رسائی میں مشکل ہو۔

۸..... تمام مسائل کے آخر میں عربی عبارات بطورِ دلیل ذکر کی گئی ہیں۔

۹..... تمام عربی عبارات کا عام فہم اور سلیس اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، جو شاید ”فتاویٰ عثمانیہ“ کی خصوصیت ہے۔

۱۰..... حوالہ بنیادی مأخذ سے دینے کی کوشش کی گئی ہے، اگر کوئی مسئلہ بنیادی مأخذ میں موجود نہیں تو معتمد معاصرین کی آراء کو با حوالہ نقل کیا گیا ہے۔

۱۱..... عبارات کا حوالہ حاشیہ میں اصولِ تحقیق کے مطابق دیا گیا ہے۔ ①

اس فتاویٰ کی دو ایسی امتیازی خصوصیات ہیں جو دیگر اردو فتاویٰ میں نہیں ملتیں:

۱..... ہر باب کے شروع میں اس موضوع سے متعلق اصولی اور بنیادی باتوں کا بطورِ تمہید ذکر، جس سے باب کے فی الجملہ تمام مسائل کا سمجھنا قاری کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔

۲..... عربی عبارات کا نہایت عام فہم اور سلیس ترجمہ۔

دس جلدوں پر مشتمل یہ علمی، تحقیقی اور مدلل فتاویٰ جات ”العصر اکیڈمی“، جامعہ عثمانیہ پشاور سے طبع ہیں۔


۲۷..... فتاویٰ انوار العلوم

یہ حضرت مولانا مفتی عبدالحق عثمانی صاحب مدظلہ کی زیرِ سرپرستی جامعہ انوار العلوم

● فتاویٰ عثمانیہ کی ترتیب و تبویب از حضرت مولانا مفتی نجم الرحمن صاحب: ص ۹۷، ۸۰

مہران ٹاؤن کو رنگی کراچی کے دارالافتاء سے جاری ہونے والے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ جلد اول ”كتاب الإيمان والعقائد، باب فيما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام، فصل فيما يتعلق بالمعجزة والكرامة، باب الكفريات، باب فيما يتعلق بالقرآن والحديث، كتاب السنة والبدعة، كتاب العلم، باب الأدعية والأذكار، كتاب الطهارة، باب في الوضوء، فصل في السواك، باب في المصح على الخفين، فصل في نوافض الوضوء، باب الغسل، باب في التيمم، باب في الحيض والنفاس والاستحاضة، باب المياه، باب الأنجاس“ پر مشتمل ہے۔ اس فتاوی میں حوالہ جات نقل کرنے میں صرف ایک کتاب پر اکتفاء نہیں کیا گیا بلکہ عموماً ہر مسئلے میں کم از کم تین عربی اور دو معتبر اردو فتاوی جات کے حوالے بھی تائید میں نقل کئے گئے ہیں۔ فتاوی کے شروع میں رقم کا مقدمہ ہے جو چونسٹھ (۶۴) صفحات پر مشتمل ہے، جس میں فتوی کا تاریخی پس منظر اور تاریخی تسلسل کے ساتھ بتیں (۳۲) کتب فقہ اور ستائیں (۲۷) اردو فتاوی کا تعارف ہے۔ اس فتاوی کی اب تک چار جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔

مؤلف کی کاؤشوں پر ایک طائرانہ نظر



Designed & Printed By: Shafaq Urdu Bazar Karachi. 0321-2037721

ادارة المعارف کراچی
ادارۃ المعارف کراچی، کوئٹہ، افغانستان، ایڈیشن کامی

021-35123161, 021-35032020, 0300-2831960

مولانا محمد ظہور صاحب (جامس راجہ الاسلام، پارہوئی، سردان)
0334-8414660, 0313-1991422

الناشر

مولانا محمد نعمان صاحب کے علمی و تحقیقی بیانات و دروس کے لئے اس ویس ایپ نمبر پر رابطہ کریں: 03112645500